امامیہ جنتری (رجسٹرڈ)

2019

Imamia Jantri®

GET IT ON Google Play
http://imamiajantri.com/playstore
Download on the App Store
http://imamiajantri.com/appstore
IMAMIAJANTRIOFFICIAL
WEB: WWW.IMAMIAJANTRI.COM

افتخار بک ڈپو (رجسٹرڈ) اسلام پورہ لاہور پوسٹ کوڈ 54000
Main Bazar Islampura, Lahore. Tel: +92 42 37223686
Email: iftikharbookdepot@gmail.com, Reg # 9573
www.iftikharbookdepot.com

Iftikhar®
BOOK DEPOT
ESTB 1955

IMAMIA JANTRI 2019
USA: 15 $, UK: 10 £

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

اللہ جل جلالہٗ

پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفٰی صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم

جملہ حقوق محفوظ ہیں

حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (القرآن)

اور سب مل کر اللہ کی رسّی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا۔

حضرت امام علی علیہ السلام

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام

حضرت امام حسن علیہ السلام

حضرت امام علی رضا علیہ السلام

(رجسٹرڈ)

امامیہ جنتری

سنہ 2019ء

۱۴۴۰-۱۴۴۱ ھجری

حضرت امام حسین علیہ السلام

حضرت امام محمد تقی علیہ السلام

زیر سرپرستی
سرکار قائم آلِ محمدؐ

حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام

حضرت امام علی نقی علیہ السلام

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام

حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام

حضرت امام مہدی آخر الزماں علیہ السلام

امامیہ جنتری کاپی رائٹ ایکٹ رجسٹریشن نمبر 9573 کے تحت رجسٹرڈ ہے۔ کوئی ناشر اس کا جعلی ایڈیشن شائع کرے گا تو اس کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی۔

زیر نگرانی مولانا فیاض حسین جعفری
علامہ حافظ تصدق حسین

مدیر آغا افتخار حسین، آغا علی فرزاد

مجلس مشاورت آغا شکیل رضا غزالی، کیپٹن مظہر حسن زیدی
بابر حسین رضوی، پروفیسر اقبال احمد
رضا احسن مرزا، اظہر حسن زیدی (ماموں)

معاونین صابر عباس، محمد عباس گلگتی
سونس رضا، صادق علی بلتی
محمد اشرف، محمد اکرم، محمد جاوید
حسام زیدی، حیدر عباس، محمد علی

تقویم سید عباس سلطان

زائچے شیخ زوار رضا جاوا

کوائف سیارگان غلام رضا عسکری

سرورق آغا علی فرزاد

کمپوزنگ سید علی عمران کاظمی

قانونی مشیر سید نوید عباس ایڈووکیٹ (لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن)

پیسٹنگ مستنصر حسین

مطبع فیضان عامر یونس پرنٹر، فارما پیکیجز

بائنڈنگ ملک خرم شہزاد (ملک بک بائنڈنگ)

STAMP

Iftikhar BOOK DEPOT

افتخار بک ڈپو (رجسٹرڈ) اسلام پورہ لاہور
فون 37223686 پوسٹ کوڈ 54000
قیمت عام کاغذ -/194 علاوہ ڈاک خرچ

اصلی امامیہ جنتری خریدنے کے لیے سرورق (ٹائٹل) پر چمکنے والی (Orignal) کی سٹیمپ اور معیار ضرور چیک کریں

(رجسٹریشن نمبر 9573)
جملہ حقوق بحق ناشر پاکستان کاپی رائٹ کے تحت محفوظ ہیں

ترتیب مضامین	صفحہ نمبر
اسمائے باری تعالیٰ۔ دعائے حاجات	3-4
حضرت رسول اکرم ﷺ، مولا علیؑ، بی بی فاطمہؑ کے القابات	7-5
قرآن مقدس سے مستند اسم اعظم (آغا حسنین احمد)	13
نوادرات عالم (مولانا فیاض حسین جعفری)	15
پریشانیوں سے نجات کا قرآنی حل (مبارک حسین شاہ)	17
چہاردہ معصومین علیہم السلام کی مجرب دعائیں	19
قرآن مجید سے مسائل کا حل (حیدر شاہ شیرازی)	22
عمل نادِ علیؑ صغیر باموکل (سید مرتضیٰ حسین)	23
لوح گنج العرش (راجہ افتخار حسین)	24
ایک دن کی نمازوں کے حروف اور ان کی نیکیاں	27
انسانی جسم پر نماز کے اثرات (ڈاکٹر اسد عباس رضوی لکھنو)	29
بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کا مجرب عمل (اکرام عباس رضوی)	31
عمل حاجت روائی (راجہ اعجاز حسین)	33
خیر و برکت کی مخصوص دعائیں (سید تنویر حیدر نقوی)	37
نوروز عالم افروز۔ عالمی پیشن گوئیاں ملکی و عالمی	41-49
تقویم کیفیت سیارگان و نظرات سیارگان	50-80
تحفہ امامیہ جمیع حاجات (زاہد حسین جعفری)	81
سورہ یٰسین تسکین المومنین (سید علی رضا رضوی)	83
بچوں کے اسلامی نام (سید قمر حسین نقوی)	87
حصار برائے دفع نحوست سیارگان (خضر عباس پیاسی)	90
آپکے بچوں کا مستقبل اعداد کے آئینہ میں (محمد اکمل خان)	91
اسم اعظم (جابر علی المعروف شایان علی)	93
مستحصلہ امتزاج الحروف (غلام عباس اعوان)	95
علم رمل کی افادیت (مولانا عابد قنبری)	97
زائچہ میں دوسرے گھر کے احکامات (جاوید جمالی)	101
شادی کب کیسی رہے گی (غلام رضا عسکری)	103
یک سالہ زائچے 2019 (زوار رضا جاوا)	111-140
فہرست کتب۔ اشتہارات	141-160

استخارہ قرآن مجید

سید رضی الدین طاؤس نے قرآن مجید سے تفاؤل کا طریقہ نقل فرمایا ہے استخارہ دیکھنے والے کو چاہئے کہ باوضو ہو کر پہلے تین مرتبہ سورۂ اخلاص پڑھے اور تین مرتبہ درود پڑھ کر یہ دعا پڑھے۔ "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ تَفَاءَلْتُ بِكِتَابِكَ وَتَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ فَاَرِنِيْ مَاهُوَ الْمَكْتُوْمُ مِنْ سِرِّكَ الْمَكْنُوْنِ فِيْ غَيْبِكَ" بعد اس کے قرآن مجید کھولے جو مضمون داہنی طرف کے صفحہ کے پہلی سطر میں نکلے۔ اس پر عمل کرے اگر آیۂ رحمت ہے یا امر خیر ہے۔ تو وہ کام بہتر ہے اگر آیۂ غضب ہے تو وہ کام نہ کرے۔

استخارہ تسبیح

آئمہ علیہم السلام سے منقول ہے۔ جس وقت کوئی آدمی چاہے۔ کہ تسبیح کا استخارہ کرے۔ نیت کے بعد تین دفعہ صلوٰۃ پڑھے اور تین دفعہ کہے "يَا مَنْ يَعْلَمَ اَهِدِ مَنْ لَا يَعْلَمُ" پھر تسبیح ہاتھ میں لے کر اسے کسی جگہ سے پکڑ لے اور دو دو دانہ الگ کرتا جائے۔ جب دو دانے بچ جائیں۔ تو بد ہے۔ یعنی منع ہے اور اگر ایک دانہ بچ جائے۔ تو درست ہے۔ یعنی جس کام کا ارادہ کیا ہے۔ اس کے کرنے کی اجازت ہے اس استخارہ میں شک نہیں ہے۔ کیونکہ اس طریقہ کو علماء نے حضرت صاحب العصرؑ سے نقل کیا ہے۔

دن	اوقات استخارہ
جمعہ	صبح صادق سے طلوع آفتاب تک، زوال سے عصر تک
ہفتہ	صبح صادق سے چاشت تک، ظہر سے عصر تک
اتوار	صبح صادق سے ظہر تک، عصر سے مغرب تک
سوموار	صبح صادق سے طلوع آفتاب تک چاشت سے ظہر تک، عصر سے عشاء تک
منگل	چاشت سے ظہر تک، عصر سے عشاء تک
بدھ	صبح صادق سے ظہر تک، عصر سے عشاء تک
جمعرات	صبح صادق سے طلوع آفتاب تک، ظہر سے عشاء تک

انتباہ

امامیہ جنتری (رجسٹرڈ) پاکستان کاپی رائٹ ایکٹ ۱۹۶۲ء گورنمنٹ آف پاکستان کے تحت رجسٹرڈ ہے لہٰذا اس کی نقل یا جعلی ایڈیشن شائع کرنا قانونی خلاف ورزی ہے۔ جعلی ایڈیشن شائع کرنے والوں اور فروخت کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جنتری میں دیئے گئے تمام آرٹیکل اور اشتہارات خالص نیک نیتی کے جذبے سے شائع کئے گئے ہیں۔ کسی بھی مضمون یا اشتہار کے غیر حقیقی ہونے پر ادارہ ہرگز ذمہ دار نہیں ہے۔ البتہ اپنی شکایت اور رائے سے ضرور مطلع کریں۔ (رجسٹریشن نمبر 9573)

افتخار بک ڈپو (رجسٹرڈ) مین بازار اسلام پورہ لاہور نمبر 54000

قارئین امامیہ جنتری کو نیا سال مبارک ہو

ہر معاملہ میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر دو کیونکہ ایسا کرنے سے تم اپنے آپ کو ایک مظبوط پناہ گاہ اور قوی محافظ کے سپرد کر دو گے۔

اسمائے باری تعالیٰ جل جلالہ

جدول بقاعدہ جفر معہ حروف باطن

خدا کا نام اَللّٰهُ ۶۶	اَلرَّحْمٰنُ جمالی ۲۹۸	اَلرَّحِيْمُ جمالی ۲۵۸	اَلْمَلِكُ مشترک ۹۰		
اَلْقُدُّوْسُ جمالی ۱۷۰	اَلسَّلَامُ جمالی ۱۳۱	اَلْمُؤْمِنُ جمالی ۱۳۶	اَلْمُهَيْمِنُ جمالی ۱۴۵	اَلْعَزِيْزُ جمالی ۹۴	اَلْجَبَّارُ جلالی ۲۰۶
اَلْمُتَكَبِّرُ جلالی ۶۶۲	اَلْخَالِقُ جمالی ۷۳۱	اَلْبَارِئُ مشترک ۲۱۳	اَلْمُصَوِّرُ جمالی ۳۳۶	اَلْغَفَّارُ جمالی ۱۲۸۱	اَلْقَهَّارُ جلالی ۳۰۶
اَلْوَهَّابُ جمالی ۱۴	اَلرَّزَّاقُ جمالی ۳۰۸	اَلْفَتَّاحُ جمالی ۴۸۹	اَلْعَلِيْمُ جمالی ۱۵۰	اَلْقَابِضُ جمالی ۹۰۳	اَلْبَاسِطُ جمالی ۷۲
اَلْخَافِضُ جمالی ۱۴۸۱	اَلرَّافِعُ جمالی ۳۵۱	اَلْمُعِزُّ جمالی ۱۱۷	اَلْمُذِلُّ جلالی ۷۷	اَلسَّمِيْعُ جلالی ۱۸۰	اَلْبَصِيْرُ جمالی ۳۰۲
اَلْحَكَمُ جمالی ۶۸	اَلْعَدْلُ مشترک ۱۰۴	اَللَّطِيْفُ جمالی ۱۲۹	اَلْخَبِيْرُ جمالی ۸۱۲	اَلْحَلِيْمُ جمالی ۸۸	اَلْعَظِيْمُ جمالی ۱۰۲۰
اَلْغَفُوْرُ جمالی ۱۲۸۶	اَلشَّكُوْرُ جمالی ۵۲۶	اَلْعَلِيُّ جلالی ۱۱۰	اَلْكَبِيْرُ جمالی ۲۳۲	اَلْحَفِيْظُ جمالی ۹۹۸	اَلْمُقِيْتُ جلالی ۵۵۰
اَلْحَسِيْبُ مشترک ۸۰	اَلْجَلِيْلُ جلالی ۷۳	اَلْكَرِيْمُ جمالی ۲۷۰	اَلرَّقِيْبُ جمالی ۳۱۲	اَلْمُجِيْبُ جلالی ۵۵	اَلْوَاسِعُ جمالی ۱۳۷
اَلْحَكِيْمُ جمالی ۷۸	اَلْوَدُوْدُ جمالی ۲۰	اَلْمَجِيْدُ جمالی ۵۷	اَلْبَاعِثُ مشترک ۵۷۳	اَلشَّهِيْدُ جمالی ۳۱۹	اَلْحَقُّ مشترک ۱۰۸
اَلْوَكِيْلُ جمالی ۶۶	اَلْقَوِيُّ جلالی ۱۱۶	اَلْمَتِيْنُ جمالی ۵۰۰	اَلْوَلِيُّ مشترک ۴۶	اَلْحَمِيْدُ جمالی ۶۲	اَلْمُحْصِيُ جلالی ۱۴۸
اَلْمُبْدِئُ جلالی ۵۶	اَلْمُعِيْدُ جلالی ۱۲۴	اَلْمُحْيِيْ جمالی ۶۸	اَلْمُمِيْتُ جلالی ۴۹۰	اَلْحَيُّ جلالی ۱۸	اَلْقَيُّوْمُ جلالی ۱۵۶
اَلْوَاجِدُ جلالی ۱۴	اَلْمَاجِدُ جلالی ۴۸	اَلْوَاحِدُ مشترک ۱۹	اَلْاَحَدُ جلالی ۱۳	اَلصَّمَدُ جلالی ۱۳۴	اَلْقَادِرُ جلالی ۳۰۵
اَلْمُقْتَدِرُ جلالی ۷۴۴	اَلْمُقَدِّمُ مشترک ۱۸۴	اَلْمُؤَخِّرُ مشترک ۸۴۶	اَلْاَوَّلُ مشترک ۳۷	اَلْاٰخِرُ مشترک ۸۰۱	اَلظَّاهِرُ مشترک ۱۱۰۶
اَلْبَاطِنُ مشترک ۶۲	اَلْوَالِيْ جمالی ۴۷	اَلْمُتَعَالِيْ مشترک ۵۵۱	اَلْبَرُّ جمالی ۲۰۲	اَلتَّوَّابُ جمالی ۴۰۹	اَلْمُنْتَقِمُ جلالی ۶۳۰
اَلْعَفُوُّ جمالی ۱۵۶	اَلرَّءُوْفُ جمالی ۲۸۶	مَالِكُ الْمُلْكِ جلالی ۲۱۲	ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ جلالی ۱۱۰۰		اَلْمُقْسِطُ جلالی ۲۰۹
اَلْجَامِعُ مشترک ۱۱۴	اَلْغَنِيُّ مشترک ۱۰۶۰	اَلْمُغْنِيْ جمالی ۱۱۰۰	اَلْمَانِعُ جلالی ۱۶۱	اَلضَّآرُّ جلالی ۱۰۰۱	اَلنَّافِعُ جمالی ۲۰۱
اَلنُّوْرُ مشترک ۲۵۶	اَلْهَادِيْ جمالی ۲۰	اَلْبَاقِيْ جلالی ۱۱۳	اَلْوَارِثُ جلالی ۷۰۷	اَلرَّشِيْدُ مشترک ۵۱۴	اَلصَّبُوْرُ جلالی ۲۹۸
	اَلْبَدِيْعُ جلالی ۸۶	اَلسَّتَّارُ جمالی ۶۶۱	اَلْمُنْعِمُ جمالی ۲۰۰		

اپنے نام کے اعداد کے مطابق اسم اعظم تلاش کر کے نماز فجر یا عشاء کے بعد اول و آخر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر دعا مانگیں

صدقہ دو چاہے تھوڑی سی چیز سے اس لیے کہ خدا کے لیے تھوڑی سی چیز بھی صدقے کی نیت سے ہو تو عظیم ہے (امام رضاؑ)

دُعائے حاجات

جو شخص ہر نماز کے بعد اس دُعا کو ہمیشہ پڑھے گا خصوصاً جمعہ کی نماز کے بعد تو اللہ تعالیٰ ہر خوف کی چیز سے اس کی حفاظت کریگا اس کے دشمنوں پر اسکی مدد کریگا اور اسکو غنی کریگا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا جہاں اس کا خیال بھی نہ جائے اور اس کی زندگی اس پر آسان کریگا اور اس کا قرض ادا کریگا اگرچہ وہ پہاڑ کے برابر ہو۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

یَا اَللّٰہُ یَا اَحَدُ یَا وَاحِدُ یَا مَوْجُوْدُ یَا جَوَّادُ یَا بَاسِطُ یَا کَرِیْمُ یَا وَھَّابُ

اے اللہ اے یکتا اے یگانہ اے موجود اے بہت سخی اے پھیلانے والے اے کرم کرنے والے اے بہت دینے والے

یَا ذَا الطَّوْلِ یَا غَنِیُّ یَا مُغْنِیُ یَا فَتَّاحُ یَا رَزَّاقُ یَا عَلِیْمُ یَا حَکِیْمُ یَا حَیُّ

اے بخشش کرنے والے اے بے پرواہ کرنے والے اے بے پرواہ اے بہت کھولنے والے اے بہت روزی دینے والے اے تمام چیزوں کو جاننے والے اے حقیقت کو جاننے والے اے زندہ

یَا قَیُّوْمُ یَا رَحْمٰنُ یَا رَحِیْمُ یَا بَدِیْعَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ ط یَا ذَا الْجَلَالِ

اے قائم بالذات اے بہت رحم کرنیوالے اے بے انتہا مہربان اے آسمانوں اور زمین کو بلا نمونہ پیدا کرنے والے، اے بزرگی اور عظمت والے

وَالْاِکْرَامِ ط یَا حَنَّانُ یَا مَنَّانُ نَفِّحْنِیْ مِنْکَ بِنَفْحَۃٍ خَیْرٍ تُغْنِیْنِیْ بِھَا

اے بہت زیادہ مہربان اے بہت زیادہ احسان کرنے والے مجھے اپنی طرف سے ایسی خوشبو عطا کر جو تیرے سوا تمام سے

عَمَّنْ سِوَاکَ اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَکُمُ الْفَتْحُ اِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا

بے پرواہ کردے اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو یہ (جان لو) کہ کامیابی آچکی ہے بے شک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی کامیابی عطا

مُّبِیْنًا ط نَصْرٌ مِّنَ اللّٰہِ وَفَتْحٌ قَرِیْبٌ ط اَللّٰھُمَّ یَا غَنِیُّ یَا حَمِیْدُ یَا مُبْدِئُ

کی ہے۔ اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح (کی اُمید ہے) اے اللہ اے بے پرواہ اے قابل تعریف اے پیدا کرنیوالے

یَا مُعِیْدُ یَا وَدُوْدُ یَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِیْدِ یَا فَعَّالًا لِّمَا یُرِیْدُ ط اِکْفِنِیْ بِحَلَالِکَ

اے دوبارہ زندہ کرنیوالے اے بہت زیادہ محبت کرنیوالے اے عظمت والے عرش کے مالک اے جو چاہے وہ کر گزرنے والے اپنی حلال کی ہوئی باتوں کے ذریعے

عَنْ حَرَامِکَ وَاَغْنِنِیْ بِفَضْلِکَ عَمَّنْ سِوَاکَ وَاحْفَظْنِیْ بِمَا حَفِظْتَ

حرام باتوں سے مجھے بے پرواہ کردے اور اپنے فضل کے ذریعے اپنی ذات کے سوا تمام سے بے پرواہ کردے اور جس ذریعے تونے اپنے کلام

بِہِ الذِّکْرَ وَانْصُرْنِیْ بِمَا نَصَرْتَ بِہِ الرُّسُلَ اِنَّکَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ○

کی حفاظت کی اسی سے میری بھی حفاظت فرما اور جن ذرائع سے تونے اپنے رسولوں کی مدد فرمائی انہی ذرائع سے میری مدد فرما تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

تمہارے دہن قرآن مقدس کا راستہ ہیں بس ان کو مسواک کے ذریعہ صاف کیا کرو (حضرت محمد ﷺ)

اسمائے مبارکہ والقابات حضور پُر نور رسول اکرم ﷺ

مع حروف باطن و اعداد

مُحَمَّد ﷺ م،س،د ۹۲	اَحْمَد ﷺ ا،ذ،غ ۵۳	حَامِد ﷺ ح،ذ،خ ۵۳	مَحْمُود ﷺ م،ان،ت ۹۸	قَاسِم ﷺ ق،ح،ث ۲۰۱	عَاقِب ﷺ ر،ح،ث ۱۷۳
فَاتِح ﷺ ف،م،ل ۴۸۹	شَاهِد ﷺ ش،ب،ض ۳۱۰	حَاشِر ﷺ ح،ح،ث ۵۰۹	رَشِيد ﷺ ر،ی،ض ۵۱۴	مَشْهُود ﷺ م،ق،خ ۳۵۵	بَشِير ﷺ ب،خ،د ۵۱۲
نَذِير ﷺ ن،ض،ز ۲۶۷	دَاعِ ﷺ د،ق،خ ۷۵	شَافِ ﷺ ش،ف،خ ۳۸۱	هَادِ ﷺ ه،ص،و ۱۰	مَهْدِ ﷺ م،ش،د ۳۹	مَاحِ ﷺ م،ش،د ۴۹
مُنْج ﷺ م،ط،ق ۹۳	نَاه ﷺ ن،غ،د ۵۶	رَسُول ﷺ ر،خ،ان ۲۹۶	نَبِی ﷺ ان،و،ت ۶۲	اُمِّی ﷺ ا،ث،خ ۵۱	تِهَامِی ﷺ ت،و،د ۴۵۶
هَاشِمِی ﷺ ه،ه،د ۳۵۶	اَبْطَحِی ﷺ ا،ب،ب ۳۰	عَزِيز ﷺ ر،ی،ض ۹۴	عَارِف ﷺ ر،ض،د ۳۵۱	رَءُوف ﷺ ر،و،ت ۲۸۶	رَحِيم ﷺ ر،و،خ ۲۵۸
طٰهٰ ﷺ ط،ان،ت ۱۴	مُجْتَبٰی ﷺ م،ذ،ش ۴۵۵	طٰسٓ ﷺ ط،م،ل ۳۹	مُرْتَضٰی ﷺ م،ت،خ ۱۴۵۰	حٰمٓ ﷺ ح،ر،د ۴۸	مُصْطَفٰی ﷺ ر،ح،ث ۲۲۹
يٰسٓ ﷺ ی،ض،ل ۷۰	اَوْلٰی ﷺ ا،ق،خ ۴۷	مُزَّمِّل ﷺ م،ز،ل ۱۱۷	وَلِی ﷺ و،ض،و ۴۶	مُدَّثِّر ﷺ م،خ،ان ۷۴۴	مَتِين ﷺ م،خ،ل ۵۰۰
مُصَدِّق ﷺ م،ی،ض ۲۳۴	طَيِّب ﷺ ط،ذ،ش ۲۱	نَاصِر ﷺ ن،ح،ث ۳۴۱	مَنْصُور ﷺ م،ت،خ ۳۸۶	مِصْبَاح ﷺ م،ا،ظ ۱۳۱	مَامُور ﷺ م،ذ،ش ۲۸۷
حِجَازِی ﷺ ح،ا،ظ ۲۹	عَالِم ﷺ ر،ا،ظ ۱۴۱	قُرَشِی ﷺ ق،ت،ح ۶۱۰	صَابِر ﷺ ص،م،ل ۲۹۳	اَلتَّقِی ﷺ ت،و،ت ۵۱۰	حَافِظ ﷺ ح،ظ،ق ۹۸۹
کَامِل ﷺ ک،ذ،ش ۹۱	صَادِق ﷺ ص،ظ،و ۱۹۵	اَمِين ﷺ ا،ف،خ ۱۰۱	عَبْدُ الله ﷺ ر،ب،ض ۱۴۲	کَلِيمُ الله ﷺ ک،ض،خ ۱۶۶	حَبِيبُ الله ﷺ ح،و،خ ۸۸
نَجِیُّ الله ﷺ ن،ف،خ ۱۲۹	صَفِیُّ الله ﷺ ص،ت،خ ۲۳۶	خَاتَمُ الْاَنْبِيَاء ﷺ خ،خ،ل ۱۱۳۶	حَسِيب ﷺ ح،خ،ل ۸۰	مُجِيب ﷺ م،ظ،د ۵۵	شَکُور ﷺ ش،ت،خ ۵۲۶
مُبَلِّغ ﷺ م،خ،د ۱۰۷۲	رَسُولُ الرَّحْمَة ﷺ ر،ت،خ ۹۷۵	قَوِی ﷺ ق،و،خ ۱۱۶	حَفِی ﷺ ح،ان،ت ۹۸	مَامُون ﷺ م،ق،خ ۱۳۷	مَعْلُوم ﷺ م،ص،و ۱۸۶
حَق ﷺ ح،خ،ل ۱۰۸	مُبِين ﷺ م،ص،و ۱۰۲	مُطِيع ﷺ م،ف،خ ۱۲۹	رَسُولُ الرَّاحَة ﷺ ر،ل،ب ۹۳۶	اَوَّل ﷺ ا،ظ،ق ۳۷	اٰخِر ﷺ ا،ف،خ ۸۰۱
ظَاهِر ﷺ ظ،ان،ت ۱۱۰۶	بَاطِن ﷺ ب،و،ت ۶۲	نَبِیُّ الرَّحْمَة ﷺ ن،و،خ ۷۴۱	يَتِيم ﷺ ی،ل،ب ۴۶۰	کَرِيم ﷺ ک،ض،و ۲۷۰	حَکِيم ﷺ ح،ت،خ ۷۸
خَاتَمُ الرُّسُل ﷺ خ،خ،ل ۱۳۶۸	سَيِّد ﷺ س،ض،و ۷۴	سِرَاج ﷺ س،ل،ب ۲۶۴	مُنِير ﷺ م،د ۳۰۰	اَلْحَق ﷺ ا،ظ،و ۱۳۹	مُکَرَّم ﷺ م،ر،د ۳۰۰
مُبَشِّر ﷺ م،ی،ض ۵۴۲	مُذَکِّر ﷺ م،ان،خ ۲۶۷	مُطَهَّر ﷺ م،ب،ض ۲۵۴	قَرِيب ﷺ ق،ض،خ ۳۱۱	خَلِيل ﷺ خ،ض،خ ۶۷۰	مَدْعُو ﷺ م،خ،د ۱۲۰
جَوَّاد ﷺ ج،ان،ت ۱۴	خَاتَم ﷺ خ،ح،ث ۱۰۴۱	عَادِل ﷺ ر،ش،د ۱۰۵	شَهِير ﷺ ش،ت،خ ۵۱۵	شَهِيد ﷺ ش،ک،خ ۳۱۹	مَبْعُوث ﷺ م،ب،ض ۶۱۸

مرتبہ : راجہ افتخار حسین جفار (کراچی) 0333-2312068

خوف خدا میں آنسو بہانا دل کو روشن کرتا ہے اور گناہوں کو دوبارہ سرزد ہونے سے بچاتا ہے۔ (حضرت علیؑ)

یَا اللّٰہ

یَا مُحَمَّدُ یَا عَلِیُّ یَا فَاطِمَہُ یَا حَسَنُ یَا حُسَیْنُ

القابات امامت امیرالمومنین

علی ابن ابی طالب علیہ السلام

اِمَامُ الْمُتَّقِیْنَ
اِمَامُ الْمُسْلِمِیْنَ
اِمَامُ الْعَارِفِیْنَ
اِمَامُ الْوَاصِلِیْنَ
اِمَامُ الْمُوَحِّدِیْنَ
اِمَامُ الْمُحَقِّقِیْنَ
اِمَامُ السَّالِکِیْنَ
اِمَامُ الْمُحْسِنِیْنَ
اِمَامُ الصَّادِقِیْنَ

اِمَامُ الْاَوَّلِیْنَ
اِمَامُ الْعٰلَمِیْنَ
اِمَامُ الْمُتَعَبِّدِیْنَ
اِمَامُ السَّابِقِیْنَ
اِمَامُ الْمَسْبُوْقِیْنَ
اِمَامُ الْمَخْلُوْقِیْنَ
اِمَامُ الْعَادِلِیْنَ
اِمَامُ الْمُتَعَلِّمِیْنَ

اِمَامُ الْمُرْشِدِیْنَ
اِمَامُ الْمُبَشِّرِیْنَ
اِمَامُ الْمُنْذِرِیْنَ
اِمَامُ الْمُقْسِطِیْنَ
اِمَامُ الْعَاشِقِیْنَ
اِمَامُ الْمُقَرَّبِیْنَ
اِمَامُ الرَّاشِدِیْنَ
اِمَامُ الْمُتَوَکِّلِیْنَ
اِمَامُ الشَّاهِدِیْنَ

اِمَامُ الْمُتَکَلِّمِیْنَ
اِمَامُ الطَّاهِرِیْنَ
اِمَامُ الْمُبَارِزِیْنَ
اِمَامُ الْمُعَظَّمِیْنَ
اِمَامُ الْاَجْوَدِیْنَ
اِمَامُ الْقَارِئِیْنَ
اِمَامُ الْمَالِکِیْنَ
اِمَامُ الْمُفْلِحِیْنَ

اِمَامُ الرَّاکِعِیْنَ
اِمَامُ السَّاجِدِیْنَ
اِمَامُ الْمَحْکُوْمِیْنَ
اِمَامُ الْمُتَاَخِّرِیْنَ
اِمَامُ الْمُحِبِّیْنَ
اِمَامُ الرَّاسِخِیْنَ
اِمَامُ الْوَاصِفِیْنَ
اِمَامُ الْخَاشِعِیْنَ
اِمَامُ الْمُکَبِّرِیْنَ

اِمَامُ الْفَاتِحِیْنَ
اِمَامُ الْمُقَدَّسِیْنَ
اِمَامُ الْاَفْصَحِیْنَ
اِمَامُ الْبَاذِلِیْنَ
اِمَامُ الْمُکَمَّلِیْنَ
اِمَامُ الْکَامِلِیْنَ
اِمَامُ الْحَافِظِیْنَ
اِمَامُ الْمُشَفِّعِیْنَ

اِمَامُ الْمُکَرَّمِیْنَ
اِمَامُ الْقَانِتِیْنَ
اِمَامُ الْمُهَاجِرِیْنَ
اِمَامُ الشَّاهِدِیْنَ
اِمَامُ الْمُطَهَّرِیْنَ
اِمَامُ الْمَخْدُوْمِیْنَ
اِمَامُ الصَّامِتِیْنَ
اِمَامُ الرَّافِعِیْنَ
اِمَامُ الْاَطْهَرِیْنَ

اِمَامُ الْاَئِمَّةِ
اِمَامُ الْمُلْهَمِیْنَ
اِمَامُ الْمُقَاتِلِیْنَ
اِمَامُ الْاَشْجَعِیْنَ
اِمَامُ الْاَعْلَمِیْنَ
اِمَامُ الْاَمِیْنَ
اِمَامُ الزَّکِیِّیْنَ
اِمَامُ الْاَوْرَعِیْنَ

اِمَامُ الْمُجْتَهِدِیْنَ
اِمَامُ الْاٰمِرِیْنَ
اِمَامُ الْمُجَاهِدِیْنَ
اِمَامُ الْخَطِیْبِیْنَ
اِمَامُ الْمُطِیْعِیْنَ
اِمَامُ الْمُبَرَّئِیْنَ
اِمَامُ الْمُقَارِنِیْنَ
اِمَامُ الْخَاضِعِیْنَ
اِمَامُ الْاَفْضَلِیْنَ

اِمَامُ الْغَالِبِیْنَ
اِمَامُ الْمُخَیَّرِیْنَ
اِمَامُ الْمُتَقَدِّمِیْنَ
اِمَامُ الْمُعَلِّمِیْنَ
اِمَامُ الصَّائِمِیْنَ
اِمَامُ الْمُظَفَّرِیْنَ
اِمَامُ النَّاظِرِیْنَ
اِمَامُ الْعَالَمِیْنَ

اِمَامُ الْمُحْتَسِبِیْنَ
اِمَامُ الْمَعْطُوْفِیْنَ
اِمَامُ الشَّهِیْدِیْنَ
اِمَامُ الْوَارِثِیْنَ
اِمَامُ الْمُطَیِّبِیْنَ
اِمَامُ الْاَکْمَلِیْنَ
اِمَامُ الْکَاظِمِیْنَ
اِمَامُ الْمُسَبِّحِیْنَ
اِمَامُ الْمَعْشُوْقِیْنَ

گناہوں سے بچنے کے لیے بہترین چیز خوف ہے۔ (حضرت علیؑ)

سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو اُن کو بھی دے جن کو ان سے کوئی امید نہ ہو۔ حضرت امام حسینؑ

حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا

کے اسمائے صفات و القابات (بقاعدہ جعفر مع حروف باطن اعداد)

فَاطِمَۃ ف ض ع ۵۳۰	جَلِیلَۃ ج ذ ع ۴۷۳۰	بَتُولْ ب ف خ ۳۶۵	نَقِیَّۃ ت غ ر ۵۶۰	حَبِیبَۃ ح ب ض ۴۲۲	تَقِیَّۃ ن غ ر ۵۶۰	طَاهِرَۃ ط ظ د ۶۱۵	حُرَّۃ ح ر د ۶۰۸	حَوْرَآء ح ق ع ۲۱۵
رَاکِعَۃ ر ق ع ۶۹۱	رَاضِیَۃ ر ک ح ۱۴۱۱	زَهْرَآء ز ف خ ۲۱۳	رَشِیدَۃ ر ص و ۹۱۶	رَضِیَّۃ ر ی ص ۱۴۱۰	رَیحَانَۃ ر ذ خ ۶۶۹	سَاجِدَۃ س ر و ۴۶۸	سَعِیدَۃ س ل ب ۵۴۴	سَیِّدَۃ س ض ع ۴۷۴
شَهِیدَۃ ش ق ع ۷۱۹	صَابِرَۃ ص ش ر ۶۹۳	صَادِقَۃ ص ز ش ۵۹۵	صَدُوقَۃ ص ل ب ۶۰۰	صِدِّیقَۃ ص ع ن ۶۰۴	طَیِّبَۃ ط ا ظ ۴۲۱	عَارِفَۃ ع ث خ ۷۵۱	عَالِیَۃ ع ز ش ۵۱۱	عَدِیلَۃ ع ی ص ۵۱۴
عَذْرَآء ع ض ع ۴۷۸	عَزِیزَۃ ع ص و ۴۹۴	عَلِیمَۃ ع ص و ۵۵۰	فَاضِلَۃ ف ث خ ۱۳۱۱	فَرِیدَۃ ف ت ح ۶۹۴	کَرِیمَۃ ک ض ع ۶۷۰	کَوْثَر ک ض ع ۷۲۶	کَوْکَبْ ک ر و ۴۸	مُبَشِّرَۃ م ص و ۹۴۲
مَحْمُودَۃ م ت ح ۴۹۸	مُطَهَّرَۃ م ب ض ۶۵۴	مَعْصُومَۃ م ب ض ۶۴۶	مُلْهَمَۃ م ک ح ۵۱۵	مُمْتَحَنَۃ م ن ت ۹۳۸	مَنْصُورَۃ م ب ض ۷۸۶	مُوَفَّقَۃ م ی ص ۶۲۶	مَهْدِیَّۃ م ک ح ۴۵۹	مُؤْمِنَۃ م د خ ۵۳۶
نَاعِمَۃ ن ا ظ ۵۶۱	زَکِیَّۃ ز ف خ ۴۳۷	مَرْضِیَّۃ م ت ح ۱۴۵۰	مُحَدَّثَۃ م غ ر ۹۵۲	وَحِیدَۃ و ح ر ۴۲۸	وَالِهَۃ و ت ح ۴۴۲	وَضِیعَۃ ر و خ ۷۶۰	صَفِیَّۃ ص ر د ۵۸۰	حَلِیمَۃ ح ل ب ۴۸۸
جَمِیلَۃ ج ز ش ۴۸۳	مُصَلِّیَۃ م ی ص ۵۷۰	قَائِمَۃ ق ط ق ۵۴۱	قَارِئَۃ ق ا ظ ۷۰۱	صَائِمَۃ ص ظ د ۵۳۱	وَجِیهَۃ و د خ ۴۲۴	حَکِیمَۃ ح ب ض ۴۷۸	زَاهِدَۃ ز ذ خ ۴۱۷	عَابِدَۃ ع ا ظ ۴۷۷
مُخَدَّرَۃ م ل ب ۱۲۴۴	قَادِرَۃ ف م ل ۶۸۵	نَاصِحَۃ ن ف خ ۵۴۹	عَامِلَۃ ع ط ق ۵۴۱	وَلِیَّۃ و ض ع ۴۴۶	صَالِحَۃ ص ذ خ ۵۲۹	وَاضِیَۃ و م ل ۱۲۱۷	فَصِیحَۃ ف غ ر ۵۸۸	مُنْجِیَۃ م ظ د ۵۰۳

ضروری وضاحت کیونکہ شہزادی کونین کے نام و القابات عربی زبان میں ہیں۔ عربی زبان میں ہر اسم صفاتی کے آخر میں حرف "ت" بول رہا ہے۔ مثلاً اگر اردو زبان میں میں فاطمہ لکھتے ہیں تو اس میں حرف "ت" نہیں ہے اور یہی نام اگر ہم عربی زبان میں لکھتے یا بولتے ہیں تو یوں ہوگا "فاطمۃ" اس لیے میں نے ہر اسم کے آخر میں حرف "ت" کو لیا ہے اور ت کے اعداد 400 ہیں اسی طرح تمام القابات کے اعداد میں حرف ت کو شامل کر کے اعداد و حروف باطن قارئین امامیہ جنتری کے لیے جدول تیار کر دیا ہے

مرتبہ راجہ افتخار حسین جفار (کراچی) 0333-2312068

تسبیح اسمائے حسنیٰ

شر جنات کے خوف و اذیت سے محفوظ رہنے کے لئے وقتاً فوقتاً 70 مرتبہ ان اسماء کا ورد کرنا ڈھال کا درجہ رکھتا ہے

یَا حَافِظُ یَا حَفِیظُ یَا رَقِیبُ یَا مُهَیْمِنُ یَا نَاصِرُ یَا قَوِیُّ

دُعا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام

اوّل و آخر ۱۵ مرتبہ درود پڑھیں۔ پھر حاجت طلب کریں۔ شیخ کفعمی نے مقاتل بن سلیمان سے نقل کیا۔ امامؑ نے فرمایا! سو مرتبہ اس دُعا کو پڑھیں۔ اِنشاءاللہ تعالیٰ دُعا مستجاب ہوگی۔



بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○

اِلٰهِیۡ كَيۡفَ اَدۡعُوۡكَ وَاَنَا اَنَا	وَكَيۡفَ اَقۡطَعُ رَجَآئِیۡ مِنۡكَ وَاَنۡتَ اَنۡتَ
اے میرے معبود کیسے تجھے پکاروں اس حال میں کہ میں میں ہوں	اور کیسے اپنی اُمید تجھ سے منقطع کرلوں حالانکہ تُو تُو ہے
اِلٰهِیۡ اِذَا لَمۡ اَسۡئَلۡكَ فَتُعۡطِيۡنِیۡ	فَمَنۡ ذَا الَّذِیۡ اَسۡئَلُهٗ فَيُعۡطِيۡنِیۡ
اے میرے معبود جب میں تجھ سے نہیں مانگتا تب بھی تو مجھے عطا کرتا ہے،	تو وہ کون ہے کہ اُس سے مانگوں اور وہ مجھے عطا کرے
اِلٰهِیۡ اِذَا لَمۡ اَدۡعُوۡكَ فَتَسۡتَجِيۡبُ لِیۡ	فَمَنۡ ذَا الَّذِیۡ اَدۡعُوۡهُ فَيَسۡتَجِيۡبُ لِیۡ
اے میرے معبود جب میں تجھے نہیں پکارتا تب بھی تو میری دُعا قبول کرتا ہے	تو وہ کون سی ذات ہے کہ میں اُسے پکاروں اور وہ میری دُعا قبول کرے
اِلٰهِیۡ اِذَا لَمۡ اَتَضَرَّعۡ اِلَيۡكَ فَتَرۡحَمُنِیۡ	فَمَنۡ ذَا الَّذِیۡ اَتَضَرَّعُ اِلَيۡهِ فَيَرۡحَمُنِیۡ
اے میرے معبود جب میں تیرے حضور میں نہیں گڑگڑاتا تو تو مجھ پر رحم کرتا ہے	تو وہ کون ہستی ہے کہ اُس کے سامنے گڑگڑاؤں اور وہ مجھ پر رحم کرے
اِلٰهِیۡ فَكَمَا فَلَقۡتَ الۡبَحۡرَ لِمُوۡسٰی علیہ السلام	وَنَجَّيۡتَهٗ اَسۡئَلُكَ اَنۡ تُصَلِّیَ عَلٰی مُحَمَّدٍ
اے میرے معبود جس طرح تو نے موسیٰ علیہ السلام کیلئے دریا کو شگافتہ کیا	اور اُن کو نجات دی میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وَّاٰلِهٖ وَاَنۡ تُنَجِّيَنِیۡ مِمَّآ اَنَا فِيۡهِ	وَتُفَرِّجَ عَنِّیۡ فَرَجًا عَاجِلًا غَيۡرَ اٰجِلٍ
اور اُن کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھ کو اس چیز سے جس میں میں مبتلا ہوں نجات دے	اور میری تمام پریشانیوں کو جلد از جلد بلا تاخیر (فوری)

بِفَضۡلِكَ وَرَحۡمَتِكَ يَآ اَرۡحَمَ الرَّاحِمِيۡنَ

اپنے فضل اور اپنی رحمت سے دُور فرما۔ اے سب سے بڑے رحم کرنے والے

عمل برائے حاجات

شب جمعہ میں نماز عشاء بارہ سو مرتبہ پڑھے "يَا اَللهُ، يَا رَبَّاهُ، يَا سَيِّدَاهُ" انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی۔

گھر سے نکلتے وقت کی دعا

حضرت امام زین العابدینؑ نے فرمایا کہ گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھو "بِسۡمِ اللّٰهِ اٰمَنۡتُ بِاللّٰهِ وَتَوَكَّلۡتُ عَلَی اللّٰهِ"

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○

دعائے امان

حضرت امام جعفر صادق علیہ السّلام نے داؤد رقّی سے فرمایا کہ ہر روز صبح و شام یہ دعا پڑھا کرو کیونکہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کے قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے

اَللّٰهُمَّ اجۡعَلۡنِیۡ فِیۡ دِرۡعِكَ الۡحَصِيۡنَةِ الَّتِیۡ تَجۡعَلُ فِيۡهَا مَنۡ تُرِيۡدُ

اے معبود تو مجھے اپنے مضبوط قلعے میں داخل فرما کہ جس میں تو جسے چاہے داخل کرتا ہے

بابرکت مقبول مناجات

بحضور چہاردہ معصومین علیہم السلام از سلطان خواجہ غریب نواز سیّد معین الدین چشتیؒ

ذیل میں ایک مناجات باترجمہ پیش کی جارہی ہے جو کہ خواجہ غریب نواز اپنی زندگی میں باقاعدگی سے روزانہ تلاوت فرماتے تھے۔ آپ بھی روزانہ پڑھیں تو ردِ بلا اور پریشانی کو دُور کرنے کا وسیلہ پائیں گے۔ (آخر میں معین کی جگہ اپنا نام لیکر پڑھے۔ پھر دُعا کرے اِنشاءاللہ قبول ہوگی)

یاربّ بحقِ سیّد کونین مصطفےٰؐ
یاربّ سیّد کونین حضرت محمد مصطفیٰؐ کے طفیل میں جو
یاربّ بحقِ شاہ نجفؑ آنکہ آمدہ
یاربّ شاہ نجف کے طفیل میں کہ جن کی شان میں
یاربّ بسوزِ سینہ و فغانِ فاطمہؑ
حضرت فاطمہؑ کے سوزِ دل اور گریہ وزاری کا واسطہ
آں پادشاہِ جملۂ آفاقِ مجتبیٰؑ
حرمت کا واسطہ جو تمام آفاق کے بادشاہ ہیں
یاربّ بحقِ خونِ شہیدانِ کربلا
یاربّ جملہ شہدائے کربلا کے خون کا واسطہ
یاربّ بحقِ جعفرؑ و موسیٰؑ و رضاؑ
یاربّ امام جعفر صادقؑ و امام موسیٰ کاظمؑ و امام علی رضاؑ کا واسطہ
یاربّ بحقِ عسکریؑ آں شاہ و پیشوا
اور اس سردار اور پیشوا حضرت امام حسن عسکریؑ کا واسطہ
مانندِ مصطفیٰؐ است چو مولائی اتقیا
حضرت محمد مصطفیٰؐ کی طرح پرہیزگاروں کے مولا ہیں
یاربّ بحقِ ارواحِ اولیاء
یاربّ تیرے اولیاء کی ارواح کا واسطہ
یاربّ بہ آہ و نالہ عشاقِ بے نوا
یاربّ بے سروساماں عاشقوں کی آہ و زاری کا واسطہ

آں شافع معاصی و آں منبع عطا
گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے اور عطا کا سرچشمہ ہیں۔
درشان اُو تبارک و یسٰین و ھل اتیٰ
سورۂ تبارک ویٰسین وھل اتیٰ نازل ہوئی۔
یاربّ بحرمتِ دلِ صد پارۂ حسنؑ
یاربّ حضرت حسن مجتبیٰؑ کے دل صد پارہ کی
یاربّ بحرمت جگر تشنۂ حسینؑ
یاربّ حضرت امام حسینؑ کی تشنگی جگر کی حرمت کا واسطہ
یاربّ بحقِ عابدؑ و باقرؑ امامؑ دین
یاربّ حضرت امام زین العابدینؑ اور امام محمد باقر علیہما السلام کا واسطہ
یاربّ بحرمتِ تقیؑ و عزتِ نقیؑ
یاربّ حضرت امام محمد تقیؑ کی حرمت اور امام علی نقیؑ کی عزت کا واسطہ
یاربّ بحقِ مہدیؑ ہادی کہ ذاتِ او
یاربّ اس ہادیٔ برحق امام مہدیؑ کا واسطہ جو
یاربّ بحقِ جملہ رسولانؑ خویشتن
یاربّ تیرے رسولوں کا واسطہ
یاربّ بہ عشقِ پاک بہ معشوقِ بے نوا
یاربّ بے نیاز معشوق سے پاک محبت کا واسطہ
دارو **معینؔ** اُمید در آندم زلطف خود
یاربّ **معینؔ** تیرے لطف و کرم سے اُمید رکھتا ہے کہ تو

انمول تسبیح

بخشی ورابہ شاہ شہیدانِ کربلا
عرصہ محشر میں شاہ شہیدانِ کربلا کے صدقہ میں بخش دے گا

نوٹ لفظ معین کی جگہ اپنا نام لیکر پڑھے

اوّل وآخر تین بار صلوات کے ساتھ درج ذیل سورۂ توبہ کی آیت کو گیارہ مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہر مصیبت سے خلاصی اور مخلوق سے مستغنی ہونے کا موجب ہے۔

حَسْبِیَ اللّٰهُ ۖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿۱۲۹﴾

میرے لیے اللہ کافی ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا رب ہے

اپنے قائمؑ کی خیر مانگوں ہر اک اپنی دعا سے پہلے
حسینؑ مجھے معاف کرنا میں زندہ آیا ہوں کربلا سے

پسندیدہ نظم شاعر آل عمران صفدر حسین ذاکر کربلائی کی نظم ماہنامہ پیام زینبؑ سے لی گئی ہے جو کہ کربلا معلّٰی میں امام حسینؑ کے روضہ مبارک پر بالجہر پڑھی گئی تھی اور بڑی شہرت حاصل کی تھی۔ مرحومہ شہناز اختر بنت سید جعفر حسین زیدی زوجہ آغا افتخار حسین اپنی زندگی میں اس کلام کو بڑے انہماک سے پڑھا کرتی تھیں اور قلبی جذبات کے ساتھ گریہ کرتی تھیں۔ ان کی پسند کو مدنظر رکھتے ہوئے مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے امامیہ جنتری 2019 میں شائع کیا جا رہا ہے۔

جب تھا اکبرؑ کی لاش پہ جو میں نے اپنی خاطر دعائیں مانگیں
میں نے مقتل میں بنتِ زہراؑ سے بیٹیوں کی ردائیں مانگیں
تڑپتے اصغرؑ کو دیکھ کر بھی نواسوں پوتوں کی خیر مانگی
میں نے قاسمؑ کے بکھرے ٹکڑوں پہ ہم نواؤں کی خیر مانگی
تلِ زینبؑ سے خیمہ گاہ تک کیوں میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں
تڑپتے لاشوں کو دیکھ کر بھی دعاؤں پر کیوں تلی ہوئی تھیں
میں تیرے زخمی بدن سے ہٹ کر اپنی ہی سوچوں میں گم کھڑا تھا
جہاں پہ کنبہ قبیلہ سارا زمیں پہ بکھرا ہوا پڑا تھا
میں گنجِ شہداء کے بکھرے لاشوں پہ اپنے ہوش ، حواس میں تھا
میں ٹھنڈا پانی بھی پی رہا تھا جہاں پہ اصغرؑ پیاس میں تھا
جہاں پہ قاتل نے تیری بہنوں کے چہروں پہ تھے طمانچے مارے
جلائے خیمے ، لگائے دُرّے ، تڑپتی بچی کے دُر اتارے
جہاں پہ اصغرؑ کے خون کو تو جبینِ اقدس پہ مل رہا تھا
جہاں پہ غازیؑ کے ہاتھ لے کر تو دشمنوں میں بھی چپ کھڑا تھا
جہاں پہ تیری ریشِ اقدس ، اپنے چہرے کے خوں میں تر تھی
جہاں پہ اکبرؑ تڑپ رہا تھا ، تیری آنکھوں کی گم نظر تھی
تمام مقتل کی ان جگہوں پر میں اپنی غذا کی تلاش میں تھا
دعاؤں میں بھی تھا رزق روزی ، میں اپنی فکرِ معاش میں تھا
میں اپنے چہرے کی زیب ، زینت میں انتہائی مگن رہا تھا
خون آلودہ لاشوں میں بھی ، میں نرم بستر پہ جا پڑا تھا
میں ایک رسمی سلام کر کے کیوں تیری تربت سے ہٹ گیا تھا
میں فاصلوں سے بس آتے جاتے ہی تیرے روضے پہ جھک رہا تھا
دریدہ دہنی کی انتہا تھی میں اچھے کھانوں پہ مر رہا تھا
کہاں کے آنسو؟ کہاں کا گریہ ، میں اس تردد میں کب پڑا تھا !
وہاں سے آ کر میں ہر جگہ پہ فضائل اپنے سنا رہا ہوں
ستائش باہمی کے سلسلے میں داد بے حد ہی پا رہا ہوں
یہ میری آہیں یہ میرا گریہ بنام زہراؑ قبول کر لے
ندامتوں کے یہ چند آنسو بطور ہدیہ قبول کر لے
میں تیرا مجرم ہوں میرے آقا تو مجھ کو پتھر سے دُر بنا دے
اے کربلا کے کریم آقا تو مجھ کو عاصی سے حُر بنا دے
روحِ صفدرؔ اداس تڑپے میں تیری نظروں میں اور نکھروں
میں کربلا کے اداس خطے کی خاک بن کر وہاں پہ بکھروں
میں اپنے قائمؑ کی خیر مانگوں ہر اک اپنی دعا سے پہلے
حسینؑ مجھے معاف کرنا میں زندہ آیا ہوں کربلا سے

التماس سورۂ فاتحہ برائے ایصال ثواب

الحاج آغا نثار احمد واہلیہ مرحومہ بانیان افتخار بک ڈپو و امامیہ جنتری ، مرحومہ شہناز اختر زوجہ آغا افتخار حسین ، مرزا احسن علی واہلیہ مرحومہ ، آغا مسعود رضا خاکی واہلیہ مرحومہ ، سید جعفر حسین زیدی و زوجہ مرحومہ ، سید تنویر الاسلام رضوی و خاندان کے دیگر مرحومین ۔ **(ملتمس ادارہ افتخار بک ڈپو)**

نقشِ نادِ علی علیہ السلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَادِ	عَلِیّاً	مَظْهَرَ	العَجَائِبِ	تَجِدْهُ	عَوْنًا	لَّکَ	فِی النَّوَائِبِ	کُلُّ	هَمٍّ
عَلِیّاً	مَظْهَرَ	العَجَائِبِ	تَجِدْهُ	عَوْنًا	لَّکَ	فِی النَّوَائِبِ	کُلُّ	هَمٍّ	وَغَمٍّ
مَظْهَرَ	العَجَائِبِ	تَجِدْهُ	عَوْنًا	لَّکَ	فِی النَّوَائِبِ	کُلُّ	هَمٍّ	وَغَمٍّ	سَیَنْجَلِیْ
العَجَائِبِ	تَجِدْهُ	عَوْنًا	لَّکَ	فِی النَّوَائِبِ	کُلُّ	هَمٍّ	وَغَمٍّ	سَیَنْجَلِیْ	بِعَظَمَتِکَ
تَجِدْهُ	عَوْنًا	لَّکَ	فِی النَّوَائِبِ	کُلُّ	هَمٍّ	وَغَمٍّ	سَیَنْجَلِیْ	بِعَظَمَتِکَ	یَا اَللّٰهُ
عَوْنًا	لَّکَ	فِی النَّوَائِبِ	کُلُّ	هَمٍّ	وَغَمٍّ	سَیَنْجَلِیْ	بِعَظَمَتِکَ	یَا اَللّٰهُ	بِنُبُوَّتِکَ
لَّکَ	فِی النَّوَائِبِ	کُلُّ	هَمٍّ	وَغَمٍّ	سَیَنْجَلِیْ	بِعَظَمَتِکَ	یَا اَللّٰهُ	بِنُبُوَّتِکَ	یَا مُحَمَّدُ
فِی النَّوَائِبِ	کُلُّ	هَمٍّ	وَغَمٍّ	سَیَنْجَلِیْ	بِعَظَمَتِکَ	یَا اَللّٰهُ	بِنُبُوَّتِکَ	یَا مُحَمَّدُ	بِوِلَایَتِکَ
کُلُّ	هَمٍّ	وَغَمٍّ	سَیَنْجَلِیْ	بِعَظَمَتِکَ	یَا اَللّٰهُ	بِنُبُوَّتِکَ	یَا مُحَمَّدُ	بِوِلَایَتِکَ	یَا عَلِیُّ
هَمٍّ	وَغَمٍّ	سَیَنْجَلِیْ	بِعَظَمَتِکَ	یَا اَللّٰهُ	بِنُبُوَّتِکَ	یَا مُحَمَّدُ	بِوِلَایَتِکَ	یَا عَلِیُّ	یَا عَلِیُّ
وَغَمٍّ	سَیَنْجَلِیْ	بِعَظَمَتِکَ	یَا اَللّٰهُ	بِنُبُوَّتِکَ	یَا مُحَمَّدُ	بِوِلَایَتِکَ	یَا عَلِیُّ	یَا عَلِیُّ	یَا عَلِیُّ

نقشِ نادِ علی جو کہ 110 خانوں میں تیار کیا گیا ہے نہایت مجرب اور سود مند ثابت ہوا ہے۔ اس نقش کو ہر جائز مطالبات اور مقصد کے لیے لو چاندی جمعرات کو نیک ساعت میں لکھ کر گلے یا بازو میں باندھیں۔ لکھنے سے قبل اور آخر میں اور گلے یا بازو میں باندھنے سے قبل اور آخر میں بھی 10-10 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ۔ **ہدیہ گزار** سید عطا حسین عابد، مرشد عابدی

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی دُعا

حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت رسول خدا ہر نئے سال کی پہلی شب میں دو رکعت نماز ادا فرماتے تھے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھتے تھے۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اَللّٰھُمَّ اَنْتَ اِلٰہُ الْقَدِیْمُ وَھٰذِہٖ سَنَۃٌ جَدِیْدَۃٌ
فَاَسْئَلُکَ فِیْھَا الْعِصْمَۃَ مِنَ الشَّیْطٰنِ وَالْقُوَّۃَ
عَلٰی ھٰذِہِ النَّفْسِ الْاَمَّارَۃِ بِالسُّوْٓءِ وَالْاِشْتِغَالَ
بِمَا یُقَرِّبُنِیْٓ اِلَیْکَ یَا کَرِیْمُ یَا ذَا الْجَلَالِ
وَالْاِکْرَامِ یَا عِمَادَ مَنْ لَّا عِمَادَ لَہٗ یَا ذُخْرَ مَنْ لَّا ذُخْرَ
لَہٗ یَا حِرْزَ مَنْ لَّا حِرْزَ لَہٗ یَا کَنْزَ مَنْ لَّا کَنْزَ لَہٗ یَا
حَسَنَ الْبَلَآءِ یَا عَظِیْمَ الرَّجَآءِ یَا عِزَّ الضُّعَفَآءِ یَا
مُنْقِذَ الْغَرْقٰی یَا مُنْجِیَ الْھَلْکٰی یَا مُنْعِمُ یَا مُجْمِلُ
یَا مُفْضِلُ یَا مُحْسِنُ اَنْتَ الَّذِیْ سَجَدَ لَکَ
سَوَادُ الَّیْلِ وَنُوْرُ النَّھَارِ وَضَوْءُ الْقَمَرِ وَشُعَاعُ
الشَّمْسِ وَدَوِیُّ الْمَآءِ وَحَفِیْفُ الشَّجَرِ یَا اَللّٰہُ لَا
شَرِیْکَ لَکَ اَللّٰھُمَّ اجْعَلْنَا خَیْرًا مِّمَّا یَظُنُّوْنَ
وَاغْفِرْ لَنَا مَا لَا یَعْلَمُوْنَ وَلَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا
یَقُوْلُوْنَ حَسْبِیَ اللّٰہُ لَآ اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ عَلَیْہِ تَوَکَّلْتُ
وَھُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ اٰمَنَّا بِہٖ کُلٌّ مِّنْ عِنْدِ
رَبِّنَا وَمَا یَذَّکَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ط رَبَّنَا لَا
تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ ھَدَیْتَنَا وَھَبْ لَنَا
مِنْ لَّدُنْکَ رَحْمَۃً اِنَّکَ اَنْتَ الْوَھَّابُ ط

براۓ حفاظت ہر روز 45 مرتبہ یَا غَفُوْرُ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں

حضرت علیؑ کی ایک مخصوص دُعا

منقول ہے کہ جب حضرت علیؑ کو کوئی نہایت پریشان کن اور اضطراب آنگیں مہم درپیش ہوتی تو آپ دو رکعت نماز ادا کر کے (۱۰۰) سو مرتبہ "اَسْتَخِیْرُ اللّٰہَ" پڑھنے کے بعد دعائے ذیل کو پڑھتے۔ اس کے بعد اپنے کام کو شروع فرماتے تھے۔ جس کی وجہ سے آپ کو کسی کام میں نقصان نہیں پہنچتا تھا۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَللّٰھُمَّ قَدْ ھَمَمْتُ بِاَمْرٍ قَدْ عَلِمْتَہٗ فَاِنْ
خدایا! میں نے جو ارادہ کر رکھا ہے تو اُس سے ضرور واقف ہے
کُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّہٗ خَیْرٌ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَ
دیکھا اگر وہ دینی، دنیاوی و اُخروی حیثیت سے میرے لئے
دُنْیَایَ وَ اٰخِرَتِیْ فَیَسِّرْ لِیْ وَاِنْ کُنْتَ
بہتر ہے تو سہل و آسان فرما دے اور اگر تیری حقیقت میں نظر
تَعْلَمُ اَنَّہٗ شَرٌّ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَ دُنْیَایَ وَ اٰخِرَتِیْ
سے دینی، دنیاوی اور اخروی حیثیت سے میرے لئے بُرا ہے
فَاصْرِفْہُ عَنِّیْ کَرِھْتُ ذٰلِکَ اَوْ اَحْبَبْتُ
تو دور فرما دے چاہے مجھے بُرا لگے یا وہ مجھے اچھا لگے کیونکہ تو سب کچھ جانتا ہے
فَاِنَّکَ تَعْلَمُ وَلَآ اَعْلَمُ وَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ
اور میں کچھ نہیں جانتا اور تو ہی ذاتی طور پر غیب کا جاننے والا ہے۔

نادِ علیؑ صغیر نماز فجر اور عشاء کے بعد 15-15 مرتبہ پڑھیں تمام مشکلات کا حل ہے اول و آخر 15-15 مرتبہ درود پڑھیں۔ مجرب ہے۔

نَادِ عَلِیًّا مَظْھَرَ الْعَجَآئِبِ تَجِدْہُ عَوْنًا لَّکَ
فِی النَّوَآئِبِ کُلُّ ھَمٍّ وَّغَمٍّ سَیَنْجَلِیْ
بِعَظَمَتِکَ یَا اَللّٰہُ وَبِنُبُوَّتِکَ یَا مُحَمَّدُ
وَبِوَلَایَتِکَ یَا عَلِیُّ یَا عَلِیُّ یَا عَلِیُّ

اولاد کا اپنے والدین کو محبت آمیز نگاہوں سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ (مستدرک الوسائل)

قرآن مقدس سے مستند اسم اعظم

تحریر و تحقیق
آغا حسنین احمد
0300-6802983

بسم اللہ الرحمن الرحیم اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

لَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ کوئی خشک و تر ایسی نہیں جسکا قرآن روشن میں ذکر نہ ہو۔

اسم اعظم (لغوی معنی میں) اللہ تعالیٰ کا بزرگ تر نام جسکو پڑھنے سے اور دعا مانگنے سے جائز مقصد جلد حاصل ہو جاتا ہے۔ فرمان خداوندی ہے وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى (قرآن مقدس پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف 7 آیت 180) دنیا جہان میں کئی مجنوں (اہل ہوس) سونا بنانے کے نسخے کی تلاش میں گزر چکے ہیں کئی علماء باعمل اسم اعظم کی تحقیق میں رہے چند علماء نے اسم اعظم پالیا اور بے بہا تسخیر خلق کے حامل ہوئے پھر وصال کر گئے۔

سورۃ نمل آیت 38 حضرت سلیمان بن داؤدؑ نے بھرے دربار میں فرمایا کہ اے سردارو! تم میں سے وہ کون ہے جو ملکہ سبا کو تخت سمیت اس سے پہلے لے آئے کہ وہ مسلمان ہو کر آئے۔ جنات میں سے ایک بھاری بھرکم دیو نے کہا کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے لا دونگا میں زور آور ہوں اور امین ہوں، لیکن ایک شخص نے جسکو کتاب (زبور) کا قلیل علم تھا کہا کہ میں پلک جھپکنے (جن طَرْفَةِ عَيْنٍ) میں تخت حاضر کر دونگا۔ مورخ اور مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت سلیمانؑ کے دربار کا وزیر اعظم آصف بن برخیا زبور کے حروف کا عالم تھا اس نے تخت منگوا دیا۔ کیا صاحب کتاب نبی داؤدؑ کے بیٹے سلیمانؑ کو یہ طاقت نہ تھی کہ درباریوں کا سوالی بنا تھا مگر اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا کہ پیغمبر کا وزیر ایسا ہو جسکے پاس کتاب خدا کا علم ہو۔ یعنی علم ہی معیار ہے۔ سدا علم سے وابستہ اور جہالت سے دور رہیں۔ 1970 میں ناچیز برائے زیارت مقدسہ ایران، عراق حاضر ہوا نجف اشرف میں امیر المومنین حضرت علی باب العلم کی ضریح کے سامنے اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے اسم اعظم عطا ہو۔ (نہ بیوی مانگی، نہ دولت مانگی، نہ کار مانگی، نہ کوئی مادی شے مانگی) مولا کی ضریح کے چاروں طرف الماریوں میں عربی فارسی کی اعلیٰ کتب سجی ہوئی تھیں میں نے ایک کتاب نکالی فرش کے قالین پر بیٹھ کر کھولی تو میری آنکھوں کے سامنے کتاب کا صفحہ نمبر 179 تھا جس میں اسم اعظم مذکور تھا یہ میرے لیے معجزہ ہی تھا۔ لکھا تھا کہ سید علی خان شیرازی رضوان اللہ علیہ نے لکھا کہ اسم اعظم خدا تعالیٰ یہ ہے کہ اللہ سے شروع ہو اور ھُوَ پر ختم ہو اور کسی حرف میں نقطہ نہ ہو قرآن مقدس کی سورۃ بقرہ آیت 255، سورۃ آل عمران آیت 2، سورۃ نساء آیت 87، سورۃ طٰہٰ آیت 8، اور سورۃ تغابن آیت 13 کا آغاز اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ سے ہے جو اللہ سے شروع ہو کر ھُوَ تک بغیر نقطہ ہیں قرآن منبع علوم ہے قرآن کی تلاوت سے عقل پاک ہوتی ہے یہ روح کا غسل ہے جتنی بار کیا جائے روح میں نکھار آتا ہے حُبِّ محمدؐ و آل محمدؐ مومنین کی بنیاد ہے۔

حضرت امام محمد باقرؑ نے فرمایا حقیقی علم وہی ہے جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ 1970 سے 1997 تک تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ اسم ذات اللہ جو (الف) سے شروع ہے اور کسی حرف میں نقطہ نہیں ہے۔

اسمائے صفاتی میں ایسے اسماء اعظم جو (الف) سے شروع ہیں اور ان میں کوئی نقطہ نہیں ہے

اَحَدُ، اِلٰهُ، اَوَّلُ، اَوْلٰى، اَحْكَمُ، اَكْمَلُ، اَعْلٰى، اَسْمَعُ، اَطْهَرُ، اَللّٰهُ الصَّمَدُ، اٰمِرُ، اِكْرَامُ، اَعْلَمُ، اَكْرَمُ اَلْكِرَامَاه

میں اللہ کے 856 صفاتی اسمائے اعظم تلاش کر چکا ہوں (لغوی معنی اور اعداد کیساتھ) جو کرم فرمایا طالبین مکمل فہرست اسمائے اعظم حاصل کرنا چاہیں وہ فوٹو کاپی، پیکنگ اور ڈاک کا خرچہ 300 روپے بھجوا کر مجھ سے طلب کریں۔

استخراج اسم اعظم کے لیے ابجد قمری کا علم ہونا ضروری ہے ابجد قمری کے اعداد کا چارٹ امامیہ جنتری میں طبع شدہ موجود ہے۔ استفادہ کرنے پر امامیہ جنتری کے بانی آغا نثار احمد مرحوم کی مغفرت کی دعا کریں۔ 3 قسم کے اسمائے اعظم بہت معروف ہیں۔ (1 ظاہری 2 باطنی 3 اسراری)

اس مضمون میں اسم اعظم صلواتی، اسم اعظم با موکل اور اسم اعظم تاحیات عیاں کر رہا ہوں۔

اسم اعظم ظاہری

نام کے اعداد قمری کے مجموعے کے برابر ایسا اسم اعظم تلاش کریں جس کا شروع کا حرف سائل کے نام سے ہو۔

مثلاً علی فرزاد 402=4+1+7+200+80+10+30+70= یَا عَاصِمُ (201) یَا سَابِقُ (201) (اسے محفوظ کرنے والے اسے بلند مرتبہ) =402۔ چالیس شب تک اول و آخر درود پاک 11-11 مرتبہ درمیان میں یَا عَاصِمُ یَا سَابِقُ 402 مرتبہ ورد کر کے اللہ سے دعا مانگے۔ نام کے ساتھ آغا، جعفری، میر، سید، نقوی، بخاری، زیدی، خان وغیرہ تخلص شمار نہیں ہوگا۔

اسم اعظم باطنی

نام کو بسط حرفی کر کے ہر حرف کے نیچے باطنی حروف لکھیں

ع	ل	ی	ف	ر	ز	ا	د	
ین	ام	ا	ا	ا	ا	لف	ال	باطنی حروف کے اعداد
60	41	1	1	1	1	110	31	قمری کا مجموعہ =246

اسم اعظم اسراری

نام میں 28 عدد جمع کریں۔ علی فرزاد 402+28=430 اب ایسا اسم اعظم تلاش کریں جو حرف ع سے شروع ہو تعداد 430 ہو یَا عَلِیُّ یَا نَصِیرُ یَا وَهَّابُ ملا کر 40 شب تک اول و آخر درود پاک 11-11 مرتبہ درمیان میں اسم اعظم کم از کم 430 مرتبہ ورد کرے۔ نام علی فرزاد کے حروف مستوی، دلیل، سری، وہی ہیں جو اسم اعظم کے ہیں اسکی ترتیب کئی مرتبہ امامیہ جنتری میں شائع ہو چکی ہے۔

اسم اعظم صلواتی

40 دن تک صبح کو درود پاک 519 مرتبہ عشا کے وقت 231 مرتبہ اَللّٰهُ الصَّمَدُ

اسم اعظم با موکل

علی فرزاد بن شہناز 402+363=765 آئیل کا عدد 41 تفریق کر کے باقی 724 کو حروف پر منطبق کریں دکـ ض ائیل/765 کا اسم اعظم یَا خَالِقُ 731 (خلق کرنے والا) + یَا وَدُودُ (دوست) 20+ یَا حَاجِبُ (نگہبان) اسم اعظم با موکل کا ورد (عزیمت) یوں بنے گی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بِحَقِّ یَا خَالِقُ یَا وَدُودُ یَا حَاجِبُ

135 مرتبہ یومیہ عشا کو 40 شب تک ورد کرے

اسم اعظم تا حیات

اسکا ذکر آپکو کسی کتاب میں نہیں ملے گا میری 1998 تا 2018 بیس سال کی محنت کا ثمر ہے جو افادہ عوام کے لیے عیاں کر رہا ہوں۔ نام کو بسط حرفی کریں۔ ع ل ی ف ر ز ا د

ہر حرف کو ملفوظی کریں۔

ع	ی	ن	ل	ا	م	~~ی~~	X	فـ	X	ر	X	ز	X	X	X	~~فـ~~	د	X	X

اس بسط حرفی میں جو حرف بار بار آئے اسکو قائم رکھیں مکررات کو کاٹ دیں یہ پہلا مرحلہ ہے۔

مستحصلہ حروف ع ی ن ل ا م ف ر ز د

حروف بالا کو ملفوظی کریں مکررات کو کاٹیں

ع	ی	ن	X	ا	X	و	X	ل	X	م	X	X
فـ	X	X	X	~~فـ~~	X	ر	X	ز	X	د	X	X

مستحصلہ حروف ع ی ن ل ا م ف ر ز د

حروف بالا کو ملفوظی کریں مکررات کو کاٹیں

ع	ی	ن	X	ا	X	و	X	X	ل	فـ	X	X	X	X

X	م	X	X	X	~~فـ~~	X	ر	X	ز	X	د	X	X

مستحصلہ حروف ع ی ن ا و ل ف ر ز د

مستحصلہ اوپر والے مستحصلہ کے برابر ہے۔ اس مستحصلہ کو قیامت تک ملفوظی کر کے مکررات کو کاٹیں تو مستحصلہ یہی آئیگا۔ یہ علم جفر کا اعجاز ہے۔ یہی مستحصلہ ہماری منزل ہے۔ اسکے اعداد قمری بنائیں۔

ع + ی + ن + ا + و + ل + ف + م + ر + ز + د

496=4+7+200+40+80+30+6+1+50+10+70

علی فرزاد کا تا حیات ورد اسم اعظم یہ بنا یَا عَالِمُ هُوَ الرَّحْمٰنُ وَجُوبٌ 498 کو مختصر کریں تو 138 مرتبہ عشا کو تا حیات ورد کرے

اگر ان اسمائے اعظم کا ورد نہ کر سکے تو اسی کے نام کی لوح مشش اسمائے ورد شدہ مل سکتی ہے اس لوح کو پلاسٹک میں کور کروا کر اپنے پاس رکھیں فائدہ یکساں ہوگا۔

دعاگو آغا حسنین احمد

مکان نمبر 339 سٹریٹ نمبر 3 عوامی کالونی حاصل پور روڈ بہاولپور

نوادرات عالم

تحقیق وتلخیص
مولانا فیاض حسین جعفری
سرپرست دارالفلاح/ درس عمل لاہور
0300-4344139

دورانیہ چاند کی سالانہ گردش 50 ہفتے 4 دن 8 گھنٹے 46 منٹ 7-1/2 سیکنڈ ہے جبکہ سورج کی سالانہ گردش 52 ہفتے 1 دن 5 گھنٹے 48 منٹ 47-1/2 سیکنڈ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شمسی اور قمری سال میں تقریباً 10 دن کا فرق ہے اور مذہبی تہوار سردی، گرمی میں اپنے مقررہ وقت پر آتے ہیں۔ قمری سال 355 دن اور شمسی سال 365-1/4 دن کا ہوتا ہے۔ بایں وجہ چار سال بعد لیپ کا سال 366 کا دن ہوتا ہے

نوروز 21 مارچ 632ء اول حمل اور ایرانی سال کی یکم فروردین ہے قمری اعتبار سے 18 ذوالحجہ 10 ہجری جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پہلے اور آخری حج سے واپس آرہے ہیں اور خم غدیر کے مقام پر خداوند تعالیٰ کے حکم (سورۃ المائدہ آیت 67) سے اپنا نائب مقرر کرتے ہوئے (من کنت مولاہ فھذا علی مولا) فرما رہے ہیں

(ینابیع المودۃ، تفسیر در منثور)۔

عید غدیر تاریخوں کی تقویم کا حسن اتفاق دیکھئے کہ ایرانی سال کا نیا دن، بروج کے شمسی سال حمل کا پہلا دن، گریگورین شمسی سال کی 21 مارچ متعدد یورپین ممالک کا مشردہ بہار ایام سالانہ کے اعتبار سے رات دن برابر، سردیوں کے بعد موسم خوشگوار، نئے خون کی گردش یہ سب اتفاقات نوروز کے موقع پر مجتمع ہوجاتے ہیں جو یونانیوں کے لیے عید سے کم نہیں۔ اہل تشیع جو اس روز اعمال بجالاتے ہیں وہ نوروز کی وجہ سے نہیں 18 ذوالحجہ کے باعث ہیں جو عید غدیر ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، بروج، فضاء، آب وہوا، اور کائنات کو خوشگوار ہونے کا حکم دیا ہے۔

آب نیساں نوروز سے 23 دن بعد نیسان کا مہینہ شروع ہوتا ہے جو 30 دن کا ہے۔ اس دوران جو بارش ہوتی ہے اس کا پانی امرت جو کئی امراض کا علاج ہے۔ تقویم کے عمل نے ہمیں بتایا کہ یہ قطرہ آب جو بادل سے گرتا ہے سانپ کے منہ میں زہر اور صدف میں قیمتی موتی بنتا ہے۔

چرچ BOSTAN انگلینڈ میں چرچ (curch) ہے جو پورے سال کی جنتری کی یاد دلاتا ہے۔ اسکے ٹاور کی سیڑھیاں 365 (سال کے دن) کھڑکیاں 52 (سال کے ہفتے) عمارت کے اقدام 24 (دن اور رات کے گھنٹے) اس کے ستون 12 (سال کے مہینے) اور دروازے 7 (ایک ہفتے کے پورے دن) ہیں۔

بغیر آکسیجن زندہ کوئی بھی جاندار آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا مگر نوادرات عالم میں خدا قادر مطلق کی قدرت کا ملاحظہ فرمائیے کہ وہ چاہے تو زندہ رکھ سکتا ہے۔

✪ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ معراج میں آسمانوں کی سیر کرائی جنت دکھائی کروڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ایک شب میں طے کروایا۔ کرہ ارض وسما میں صرف 320 کلومیٹر تک ہوا موجود ہے اسکے اوپر نہیں مگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش معلی تک پہنچے معجزاتی طور پر زندہ رہے۔ ✪ اصحاب کہف صدیوں سے بغیر خوراک زندہ ہیں اب بھی ملک شام غار کہف میں سوئے ہوئے زندہ ہیں (سورۃ اسریٰ) ✪ حضرت یونسؑ 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں بغیر خوراک زندہ رہے پھر حکم خدا سے باہر آئے (سورۃ انبیاء) ✪ حضرت عیسیٰ بغیر خوراک کے زندہ ہیں اور چوتھے آسمان پر نمائندہ الٰہ کے ساتھ نزول کا انتظار کر رہے ہیں۔ (سورۃ نساء) ✪ حضرت عزیزؑ 100 سال تک مردہ رہے پھر زندہ کیے گئے یہ عرصہ آفات ارضی وسماوی سے محفوظ رہے (سورۃ توبہ، بقرہ) ✪ کروڑوں کی تعداد میں فرشتے ہیں جو زمین اور آسمانوں کے درمیان متحرک ہیں آکسیجن اور غذا کے محتاج نہیں۔ (قرآن کی متعدد سورتیں) ✪ امام زمانہؑ اس وقت زندہ ہیں مگر ہماری نظروں سے غائب ہیں۔ اپنے ظہور کے منتظر ہیں (باذن اللہ)

سامری حضرت موسیٰ کے وقت میں ایک جادوگر ہوا ہے جس نے سونے کا ایک بچھڑا بنایا تھا حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے تو اس نے انکی امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی سامری کہا کرتا تھا لامساس منی انکی اولاد اب بھی مصر اور شام میں ہے انہیں اب بھی لامساس کہتے ہیں انہیں کوئی چھولے تو اسے بخار میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔

چودھویں کا چاند آپ پڑھ کر حیران ہوجائیں گے کہ چودھویں کا چاند (بدر) ایک مہینے میں 2 مرتبہ ہوسکتا ہے مثلاً یکم جنوری کو قمری مہینے کی چودھویں تاریخ ہو تو مہینے کے بعد 31 جنوری کو پھر چاند کی چودہ ہوگی۔ ایک انگریزی مہینے میں دوبار دکھائی دینے والا بدر

Blue Moon کہلاتا ہے ایسے چاند کو مکمل گرہن لگ جائے (جنتری کے حساب کے مطابق) تو اسے Blood Moon کہا جاتا ہے ایسا جنوری 2018ء میں ہو چکا ہے۔ 31 جنوری 2018 شب کو طلوع ہونے والا چاند Super Blue Blood Moon تھا یہ عام چاند کے مقابلے میں 14 فیصد زیادہ بڑا اور 30 فیصد زیادہ روشن ہوتا ہے جسے عام نظروں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل ایسا واقعہ 1866ء میں ہو چکا ہے آئندہ کے لیے واللہ اعلم بالصواب۔

سورج غروب نہیں ہوتا ناروے کے ملک میں ایک چھوٹا سا جزیرہ (تھرمسو) ہے جہاں سورج 24 گھنٹے چمکتا نظر آتا ہے اس لیے سورج غروب نہیں ہوتا۔ گلوب پر یہ خطہ ایسی جگہ واقع ہے کہ زمین کی روزانہ اور سالانہ گردش کے دوران ہر وقت سورج کے سامنے رہتا ہے رات کے 12 بجے بھی آپ چمکتا سورج دیکھ سکتے ہیں چونکہ وہاں رات اور دن کا تصور نہیں ہے آپ اپنی مرضی کا دن اور مرضی کی رات منتخب کر سکتے ہیں۔

تین امراض قرآنی ارشادات، شرعی احکامات، سنت نبوی، اخلاقی، تمدنی اور فی زمانہ جدید تحقیق نے واضح کیا ہے کہ گانا گانے اور موسیقی سننے سے جسم کے اندر تین امراض پیدا ہوتی ہیں ✪ بلڈ پریشر ✪ ہارٹ اٹیک ✪ ڈیپریشن

کینسر کا علاج ✪ مریض نیند میں ہو تو اس کی دائیں طرف بیٹھ جائیں دایاں بازو پکڑ کر ایک مرتبہ سورۃ الحمد پڑھیں پھر 7 مرتبہ کہیں یا شافی یا کافی پھر مریض کو مخاطب کر کے بولیں۔ **میاں کینسر!** تم اچھے اور مہربان ہو یہ مریض / مریضہ بہت پریشان ہے اسے راہ للہ معاف کر دو۔ یہ عمل ہفتہ بھر جاری رکھیں۔ 3 دن ناغہ کر کے پھر ہفتہ بھر عمل کریں۔ شفایابی ہوگی ✪ ترکی کے ملک میں ترک ضلع منیسا کا ایک محلہ "آئی واجیک" ہے جو محلہ سرطان کے نام سے مشہور ہے افراد کی آبادی مختصر ہے مگر مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگوں کی ساتھ بھرا رہتا ہے کئی کینسر کے مریض شفا پا چکے ہیں اس لئے اسے معالج محلہ بھی کہتے ہیں۔ اس محلہ کی آب و ہوا، غذا، پانی، ماحول اور پر سکون فضا سرطان کے مریضوں کے لیے نہایت موزوں ہے ہفتہ بھر قیام کرنے سے خون کے اندر فاسد مادے کم ہو جاتے ہیں اور صالح خون رگوں میں دوڑنے لگتا ہے۔ اس محلے میں رہنے سے شفایابی کا تعلق اس کی تقویم سے ہے مثلاً پر سکون اور خاموش گرد و نواح آپ کے جسم پر اثر انداز ہوتا ہے دکھ بھول جاتا ہے سکھ طول پکڑ لیتا ہے نئے شب و روز کا نظارہ مرض کو شفا میں بدل دیتا ہے۔

تقویم کے پانچ شعبے ہماری جنتری کا دارومدار موجودہ کیلنڈر پر ہے اسی پر مختلف ممالک عمل پیرا ہیں۔ آپ کی معلومات کے لیے نمونے کے طور پر پانچ (5) شعبوں کا ذکر کیا جاتا ہے جن سے آپ کا قریبی واسطہ ہے۔ انگریزی مہینوں کے مطابق 2019ء میں جدول حسب ذیل ہوگا۔

2019 عیسوی / انگریزی	جنوری تا دسمبر
2075 بکرمی / دیسی	چیت تا پھاگن
1940 شمسی / برجی	حمل تا حوت
1440 قمری / ہجری	محرم تا ذوالحجہ
1398 ایرانی / شمسی	فروردین تا اسفند

ساعات مبارکہ شیخ طوسیؒ کا تجویز کردہ (مصباح المتہجد ص 133، مصباح الکفعمی ص 147)

✪ طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے آثار	5/1/4 صبح تا 5/3/4	علیؑ
✪ آثار طلوع صبح کی سرخی زائل ہونے تک	5/3/4 تا 6 بجے صبح	حسنؑ
✪ سرخی زائل سے طلوع آفتاب (سورج نکل آئے)	6 تا 6:30 صبح	حسینؑ
✪ چاشت (ذرا بلند) سے 12:15 تک (زوال)	7 تا 12:15	علی زین العابدینؑ
✪ زوال سے ایک گھنٹے بعد تک اول وقت ظہر	12:15 تا 1:30 بجے	محمد باقرؑ
✪ بعد زوال سے نماز ظہر کے تاخیری وقت تک	1:30 تا 2:30 شام	جعفر صادقؑ
✪ ظہر اور عصر کا مشترک وقفہ نمبر 1	2:30 تا 3	موسیٰ کاظمؑ
✪ ظہر اور عصر کا مشترک وقفہ نمبر 2	3 تا 3:30 شام	علی رضاؑ
✪ ظہر اور عصر کا مشترک وقفہ نمبر 3	3:30 تا 4	محمد تقیؑ
✪ عصر خاص سے ہلکی زردی آنے تک	4 تا 5	علی نقیؑ
✪ ہلکی زردی سے گہری زردی تک	5 تا 5:30	حسن عسکریؑ
✪ گہری زردی سے غروب شمس تک	5:30 تا 6 بجے شام	مہدی آخر الزماںؑ

پریشانیوں اور مشکلات سے نجات کا قرآنی آیات سے حل

سید مبارک حسین کاظمی (شاہ صاحب)
R-31 فیز II ڈیلکس گارڈن
ابوالحسن اصفہانی روڈ کراچی

ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی امامیہ جنتری کے قارئین کے لیے مجرب اور آزمودہ قرآنی آیات، دعائیں پیش خدمت ہیں استفادہ فرمائیں اور مجھ حقیر کو دعاؤں میں یاد رکھیں نیز امامیہ جنتری کے بانی آغا نثار احمد صاحب (مرحوم) واہلیہ مرحومہ کے لیے سورۂ فاتحہ تلاوت فرمائیں اور دعا کریں کہ ان کے پسماندگان کو پروردگار، معصومینؑ کے صدقے میں صحت تندرستی عطا کرے اور کاروبار میں برکت اور اضافہ فرمائے (آمین)۔ قرآن حکیم انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت، رحمت، سرمایہ حیات، رہبر زندگی، اور فلاح و بہبود کے لیے عظیم ترین تحفہ خداوندی ہے۔ بحیثیت مسلمان خداوند تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ سب کی سنتا ہے اور دعا مسلمان کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہے جب انسان بالکل مایوس اور ناامید ہو جائے تو دعا ہی اسکو مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں سے نکال کر ایک نئے عزم اور حوصلے سے ہمکنار کرتی ہے۔ پروردگار تمام مومنین و مومنات کی حاجتیں اور مرادیں پوری فرمائے آمین۔

چھینک آنے کے وقت

اگر ڈاڑھ اور کان میں درد محسوس کریں تو درج ذیل دعا پڑھ لیا کریں ان شاء اللہ ڈاڑھ اور کان میں کبھی درد محسوس نہ ہوگا جب بھی چھینک آئے تو یہ دعا پڑھیں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ عَلٰى كُلِّ حَالٍ مَّا كَانَ

مقدمہ میں کامیابی کے لیے

روزانہ نماز عشاء کے بعد 133 مرتبہ درج ذیل دعا پڑھیں۔ اگر حق پر ہیں تو پڑھیں ورنہ ناحق پڑھیں گے تو مصیبت میں پھنس جائیں گے

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ط اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

امتحان میں کامیابی کے لیے

امتحان میں آسان پرچے آنے اور کامیابی کے لیے امتحان میں جاتے وقت درج ذیل دعا (سورۂ انفال پارہ 10 آیت 62) کو سات (7) مرتبہ پڑھ کر دعا مانگ کر جائیں ان شاء اللہ کامیابی ہوگی

فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝

درد سر سے آرام کے لیے

درد سر کے لیے 3 مرتبہ درج ذیل آیت پڑھ کر دم کریں ان شاء اللہ تعالیٰ درد جاتا رہیگا (پارہ 27 سورۂ واقعہ آیت 19) لَا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ۝

بچے کو چپ کروانے کے لیے

جو بچہ بہت زیادہ روتا ہو تو درج ذیل آیت کو لکھ کر بازو پر باندھیں یا گلے میں ڈالیں تو ان شاء اللہ رونا موقوف کردے گا (پ 27 سورۂ نجم آیت 59 تا 61)

اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ ۝

وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ ۝ وَاَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ ۝

نافرمان اولاد کی اصلاح کے لیے

جس شخص کی اولاد نافرمان ہو تو وہ ہر فریضہ نماز کے بعد درج ذیل آیت کی تلاوت کیا کرے اور پڑھتے وقت لفظ (ذُرِّيَّتِيْ) پر اپنی نافرمان اولاد کا خیال ذہن میں رکھے تو ان شاء اللہ اولاد صالح ہوگی۔ (پارہ 26 سورۂ احقاف آیت 15)

وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ط اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

آرام دہ نیند کے لیے

درج ذیل آیت خواب راحت ہے بے خوابی کو دفع کرنے کے واسطے مجرب ہے اسکو پڑھ کر ورد کرتے کرتے سو جائیں نیند خوب آئے گی (سورۂ احزاب آیت 56 پارہ 22)

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ط يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۝

بحری سفر میں حفاظت کے لیے

حضرت امام جعفر صادقؑ سے منقول ہے کہ جو شخص بحری جہاز، سمندری، دریائی سفر کرے تو درج ذیل ورد کرتا رہے۔ (پارہ 12 سورہ ہود آیت 41)

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ط اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

دشمن سے حفاظت کے لیے

اگر کسی شخص کو ہر وقت دشمن سے خوف، ڈر رہتا ہو یا اسکی دشمنی بڑھتی جارہی ہو تو دشمن سے حفاظت کے لیے درج ذیل آیت کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگے۔ (پارہ 17 سورۂ الحج آیت 38) اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ

مشکلات کی آسانی کے لیے

ہر مشکل آسان ہو، ہر جائز مراد پوری ہونے کے لیے روزانہ درج ذیل آیت کو 113 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگیں ان شاء اللہ حاجت پوری ہوگی (پارہ 21 سورہ روم آیت 4،5)

يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ بِنَصْرِ اللّٰهِ ط يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ

بیماری سے شفایابی کے لیے

اگر آپ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جو نہ سمجھ میں آنے والی ہو اور لا علاج ہو تو مریض بذات خود درج ذیل آیت کو ہر فریضہ نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگیں ان شاء اللہ جلد شفایابی ہوگی۔ (پارہ 17 سورۂ انبیاء آیت 83)

رَبَّهٗۤ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۝

شادی کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے

اگر آپ کے بیٹے یا بیٹی کا عقد نہ ہوتا ہو تو آپ اپنی حاجت/مراد کے لیے 21 دن تک 313 مرتبہ روزانہ درج ذیل آیت مبارکہ کو پڑھ کر دعا مانگیں (پارہ 19 سورۂ الفرقان آیت 54) وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ۭ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ۝

★ اگر کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی میں رکاوٹ ہو تو سورہ تغابن پارہ 28 کو روزانہ 3 مرتبہ 11 دن تک پڑھ کر دعا مانگیں۔ حسب منشا جلد شادی ہو جائیگی۔ ان شاء اللہ۔

برائے دفع نظر بد

دفع نظر بد بچوں کے لیے درج ذیل اسم 11 مرتبہ دم کریں اور 3 مرتبہ لکھ کر گلے میں ڈالیں نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔

(یَا مَانِعُ)

غصہ ختم کرنے کے لیے

اگر کسی کے مزاج میں غصہ ہو یا کسی کی بیوی یا شوہر غصہ ور ہو اور مزاج ٹھنڈا کرنا ہو تو 100 مرتبہ تین دن کھانے پر درج ذیل اسم دم کر کے کھلائیں ان شاء اللہ فائدہ ہوگا (یَا عَفُوُّ)

پریشانی سے نجات کے لیے

ہر پریشانی کے واسطے نماز فجر کے بعد روزانہ 41 مرتبہ پڑھیں ان شاء اللہ پریشانی دفع ہوگی۔

فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ رَبِّ اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ وَاَنْتَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ

ذاتی گھر کے لیے

درج ذیل کو جمعہ کے دن بعد نماز عصر 1000 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگیں اللہ اپنے لطف و کرم سے ذاتی گھر کا انتظام کر دیگا۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ

مرض سے نجات کے لیے

حضرت امام رضاؑ کے مطابق کسی سخت مرض میں اگر ہر روز 101 مرتبہ درج ذیل اسم مبارک کو پڑھ لیا جائے تو بیماری کیسی ہو دور ہو جائے گی اور صحت نصیب ہوگی۔ پڑھ کر دعا مانگ لیا کریں۔ (یَا وَاحِدُ)

افسران بالا کے خوف سے نجات کے لیے

افسران بالا سے خوف ہو، تنگ کرتے ہوں تو نماز فجر کے بعد 7 مرتبہ درج ذیل کلمات پڑھیں اور آفس جاتے وقت ورد کرتے رہیں ان شاء اللہ افسران بالا مہربانی سے پیش آئیں گے۔

فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۠ وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

دوران سفر حفاظت کے لیے

جو شخص دوران سفر اپنی حفاظت چاہتا ہے اسکو دوران سفر پابندی سے درج ذیل دعا پڑھنی چاہیے ورد کرتے رہیں سفر بخیریت گزرے گا۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ فِيْ دِرْعِكَ الْحَصِيْنَةِ الَّتِيْ فِيْهَا مَنْ تُرِيْدُ

گمشدہ چیز کی بازیابی کے لیے

حضرت امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے کہ گمشدہ چیز کی بازیابی کے لیے (سورۂ والتین) کا سات (7) مرتبہ پڑھنا بہت مجرب ہے

☆ حضرت امام جعفر صادق کا ارشاد گرامی ہے اگر کوئی معاملہ کرتے وقت 3 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لی جائے تو اس معاملے میں ضرور منافع ہوگا

☆ امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی واجب، مستحب نمازوں میں سورۂ والتین پڑھے گا ان شاء اللہ اسکو اسکی خواہش کے مطابق جنت ملے گی

☆ امام علی رضا کا فرمان ہے کہ تمام حاجات کو قبول کروانے کے لیے 200 مرتبہ درج ذیل اسم الٰہی کا ورد کریں اول و آخر درود کیساتھ ان شاء اللہ حاجت ضرور برآئے گی۔ (اَلْمُجِيْبُ)

☆ اگر کوئی شخص کسی مقدمہ بازی میں گرفتار ہو جائے تو ہر نماز کے بعد درج ذیل سورۂ 7 دن پڑھ کر دعا مانگیں ان شاء اللہ مقدمہ ختم ہو جائیگا۔

(سورہ تغابن پارہ 28)

ڈینگی بخار اور ہر قسم کی وباء سے بچاؤ

صبح کی نماز کے بعد ۱۴ بار پڑھیں اور گھر کے دروازوں پر چسپاں کریں۔

لِيْ خَمْسَةٌ اُطْفِيْ بِهَا حَرَّ الْوَبَآءِ الْحَاطِمَةِ اَلْمُصْطَفٰى وَالْمُرْتَضٰى وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةُ

ترجمہ میرے لیے پانچ ایسی ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے وباء کی آگ (گرمی) کو بجھاتا ہوں مصطفیٰؐ اور مرتضیٰؑ اور ان کے فرزندانؑ اور فاطمہؑ ہیں

چہاردہ معصومین علیہم السلام کی مجرب دعائیں

حضرت محمد ﷺ کی 3 دعائیں

رسول خدا ﷺ کی تعلیم کردہ چند دعائیں جو آپ نے شیبۃ الحمد لی کو آخرت میں بہرہ مندی کے لیے تعلیم فرمائیں وہ درج ذیل ہیں

1 اس دعا کی برکت سے اندھے پن، دیوانگی، برص، جذام اور پریشان حالی سے عافیت میں رہے گا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِیْ مِنْ عِنْدِكَ وَاَفِضْ عَلَیَّ مِنْ فَضْلِكَ وَانْشُرْ عَلَیَّ مِنْ رَّحْمَتِكَ وَاَنْزِلْ عَلَیَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ (مکارم اخلاق)

2 درج ذیل دعا کو ہر فریضہ نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھلیا کریں اور اول و آخر 3-3 مرتبہ درود شریف پڑھیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ وَبِحَمْدِهٖ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ

3 ایک اور دعا جو ہر فریضہ نماز کے بعد 30 مرتبہ پڑھنے کے لیے جناب رسول خدا ﷺ نے تعلیم فرمائی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ (روضۃ الواعظین)

دعا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا

ہر مقصد کے لیے اکسیر ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِیْثُ فَاَغِثْنِیْ وَلَا تَكِلْنِیْ اِلٰی نَفْسِیْ طَرْفَةَ عَیْنٍ اَبَدًا وَّاَصْلِحْ لِیْ شَاْنِیْ كُلَّهٗ (گنج الدعوات)

دعائے حضرت علی علیہ السلام

منقول ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کو کوئی نہایت پریشانی اور مشکل درپیش ہوتی تو آپ 2 رکعت نماز ادا کر کے 100 مرتبہ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ پڑھنے کے بعد حسب ذیل دعا پڑھتے تھے اس کے بعد اپنے کام کو شروع فرماتے تھے جسکی وجہ سے آپ کو کسی کام میں نقصان اور پریشانی نہیں ہوتی تھی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَللّٰهُمَّ قَدْ هَمَمْتُ بِاَمْرٍ قَدْ عَلِمْتَهٗ فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّهٗ خَیْرٌ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَدُنْیَایَ وَاٰخِرَتِیْ فَیَسِّرْهُ لِیْ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّهٗ شَرٌّ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَدُنْیَایَ وَاٰخِرَتِیْ فَاصْرِفْهُ عَنِّیْ كَرِهْتُ ذٰلِكَ اَوْ اَحْبَبْتُ فَاِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَاۤ اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ ۔

دعائے حضرت امام حسن علیہ السلام

یہ دعائے جلیل ہر کام کے لیے اکسیر اعظم کا درجہ رکھتی ہے اور بے شمار فوائد پر مشتمل ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یَا عُدَّتِیْ عِنْدَ كُرْبَتِیْ یَا غِیَاثِیْ عِنْدَ شِدَّتِیْ یَا وَلِیِّیْ فِیْ نِعْمَتِیْ یَا مُنْجِیْ فِیْ حَاجَتِیْ یَا مَفْزَعِیْ فِیْ وَرْطَتِیْ یَا مُنْقِذِیْ مِنْ هَلَكَتِیْ یَا كَالِئِیْ فِیْ وَحْدَتِیْ اِغْفِرْ لِیْ خَطِیْئَتِیْ وَیَسِّرْ لِیْ اَمْرِیْ وَاجْمَعْ لِیْ شَمْلِیْ وَاَنْجِحْ لِیْ طَلِبَتِیْ وَاَصْلِحْ لِیْ شَاْنِیْ وَاكْفِنِیْ مَاۤ اَهَمَّنِیْ وَاجْعَلْ لِّیْ مِنْ اَمْرِیْ فَرَجًا وَّمَخْرَجًا وَلَا تُفَرِّقْ بَیْنِیْ وَبَیْنَ الْعَافِیَةِ اَبَدًا مَاۤ اَبْقَیْتَنِیْ وَفِی الْاٰخِرَةِ اِذَا تَوَفَّیْتَنِیْ بِرَحْمَتِكَ یَاۤ اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ

دعائے حضرت امام حسین علیہ السلام

یہ دعائے جلیل حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس وقت تعلیم فرمائی جب آپ زخموں سے چور تھے اور رخصت آخر کے لیے حضرت امام زین العابدینؑ کے پاس پہنچے تھے۔ آپؑ نے سید سجاد علیہ السلام کا بازو تھاما اور یہ دعا تلاوت کی اس دعا کے پڑھنے سے تمام مصائب اور بلائیں دور ہو جاتی ہیں اور ہر نماز کے بعد اس دعا کا پڑھنا نہایت ہی باعث خیر و برکت اور موجب ثواب بے حساب بھی ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بِحَقِّ یٰسٓ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِیْمِ وَ بِحَقِّ طٰهٰ وَالْقُرْاٰنِ الْعَظِیْمِ یَا مَنْ یَّقْدِرُ عَلٰی حَوَائِجِ السَّآئِلِیْنَ یَا مَنْ یَّعْلَمُ مَا فِی الضَّمِیْرِ یَا مُنَفِّسُ عَنِ الْمَكْرُوْبِیْنَ یَا مُفَرِّجُ عَنِ الْمَغْمُوْمِیْنَ یَا رَاحِمَ الشَّیْخِ الْكَبِیْرِ یَا رَازِقَ الطِّفْلِ الصَّغِیْرِ یَا مَنْ لَّا یَحْتَاجُ اِلَی التَّفْسِیْرِ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ وَّافْعَلْ بِیْ كَذَا وَكَذَا (میری حاجت کو پورا فرما)

دعائے حضرت امام زین العابدینؑ

ترکیب اول و آخر 15 مرتبہ درود شریف پھر اس کے درمیان دعا پڑھے پھر حاجت طلب کرے امامؑ نے فرمایا 100 مرتبہ پڑھو شیخ الکفعمی صاحب کتاب بلد الامین نے مقاتل بن سلیمان سے نقل کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر دعا قبول نہ ہو تو راوی پر لعنت کرے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِلٰهِيْ كَيْفَ اَدْعُوْكَ وَاَنَا اَنَا وَكَيْفَ اَقْطَعُ رَجَائِيْ مِنْكَ وَاَنْتَ اَنْتَ اِلٰهِيْ اِذَا لَمْ اَسْئَلْكَ فَتُعْطِيَنِيْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ اَسْئَلُهٗ فَيُعْطِيَنِيْ اِلٰهِيْ اِذَا لَمْ اَدْعُوْكَ فَتَسْتَجِيْبَ لِيْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ اَدْعُوْهُ فَيَسْتَجِيْبُ لِيْ اِلٰهِيْ اِذَا لَمْ اَتَضَرَّعْ اِلَيْكَ فَتَرْحَمْنِيْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ اَتَضَرَّعُ اِلَيْهِ فَيَرْحَمْنِيْ اِلٰهِيْ فَكَمَا فَلَقْتَ الْبَحْرَ لِمُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَنَجَّيْتَهٗ اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تُنَجِّيَنِيْ مِمَّا اَنَا فِيْهِ وَتُفَرِّجَ عَنِّيْ فَرَجًا عَاجِلًا غَيْرَ اٰجِلٍ بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

(مفاتیح الجنان)

دعائے حضرت امام محمد باقرؑ

یہ دعا فوائد کثیرہ پر مشتمل ہے ہر امر کے لیے پڑھ سکتے ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ لِيْ عِنْدَكَ رِضْوَانٌ وَّ وُدٌّ فَاغْفِرْ لِيْ وَلِمَنْ تَبِعَنِيْ مِنْ اِخْوَانِيْ وَاَقَارِبِيْ وَطَيِّبْ مَا فِيْ صُلْبِيْ (مصباح الکفعمی)

دعائے حضرت امام جعفر صادقؑ

منقول ہے کہ جو اس دعا کو پڑھے گا خدائے تعالیٰ اس کو بروئے نورانی محشور فرمائے گا اور حضرت امام جعفر صادقؑ کے ہمراہ داخل بہشت ہوگا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا مَنْ هُوَ دَانٍ غَيْرُ مُتَوَانٍ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اِجْعَلْ لِشِيْعَتِيْ وَلِاِخْوَانِيْ وَاَحِبَّائِيْ مِنَ النَّارِ وَقَاءً لَهُمْ عِنْدَكَ رِضًى وَاغْفِرْ ذُنُوْبَهُمْ وَيَسِّرْ اُمُوْرَهُمْ وَاقْضِ دُيُوْنَهُمْ وَاسْتُرْ عَوْرَاتِهِمْ وَهَبْ لَهُمُ الْكَبَائِرَ الَّتِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ يَا مَنْ لَا يَخَافُ الضَّيْمَ وَلَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ اِجْعَلْ لِيْ مِنْ كُلِّ غَمٍّ فَرَجًا ۝

دعائے حضرت امام موسیٰ کاظمؑ

منقول ہے کہ جو اس دعا کو پڑھے گا خدائے تعالیٰ اس کی حاجت کو بر لائے گا اور روز قیامت اس کو جناب امام موسیٰ کاظمؑ کے ساتھ محشور فرمائے گا اور ان شاء اللہ داخل بہشت کرے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا خَالِقَ الْخَلْقِ وَيَا بَاسِطَ الرِّزْقِ وَفَالِقَ الْحَبِّ وَبَارِئَ النَّسَمِ وَمُحْيِيَ الْمَوْتٰى وَمُمِيْتَ الْاَحْيَاءِ وَدَائِمَ الثَّبَاتِ وَمُخْرِجَ النَّبَاتِ اِفْعَلْ بِيْ مَا اَنْتَ اَهْلُهٗ (مصباح الکفعمی)

دعائے حضرت امام علی رضاؑ

اس دعا کو پڑھنے والا ہمیشہ حق پر رہے گا اور گمراہ نہ ہوگا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِي الْهُدٰى وَثَبِّتْنِيْ عَلَيْهِ وَاحْشُرْنِيْ عَلَيْهِ اٰمِنًا (مجمع الدعوات)

دعائے حضرت امام محمد تقیؑ

جو اس دعا کو پڑھے گا حضرت امام محمد تقیؑ بروز محشر اسکے شفیع ہونگے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا مَنْ لَا تَشْبِيْهَ لَهٗ وَلَا مِثَالَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ تُفْنِي الْمَخْلُوْقِيْنَ وَتَبْقٰى اَنْتَ حَلُمْتَ عَمَّنْ عَصَاكَ وَفِي الْمَغْفِرَةِ رِضَاكَ (مصباح الکفعمی)

دعائے حضرت امام علی نقیؑ

منقول ہے کہ جو اس دعا کو پڑھے گا امام علی نقیؑ اسکے شفیع ہوں گے اور اسکو خود داخل بہشت فرمائیں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا نُوْرُ يَا بُرْهَانُ يَا مُنِيْرُ يَا مُبِيْنُ يَا رَبِّ اكْفِنِيْ شَرَّ الشُّرُوْرِ وَاٰفَاتِ الدُّهُوْرِ وَاَسْئَلُكَ النَّجَاةَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ (مصباح الکفعمی)

دعائے حضرت امام حسن عسکریؑ

منقول ہے کہ جو اس دعا کو پڑھے گا خدا تعالیٰ اس کو حضرت امام حسن عسکریؑ کے ساتھ محشور فرمائے گا اور آتش دوزخ سے نجات دے گا اگرچہ دوزخ اس واجب ہوگئی ہو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا عَزِيْزَ الْعِزِّ فِيْ عِزِّهٖ اَعِزَّنِيْ بِعِزِّكَ وَاَيِّدْنِيْ بِنَصْرِكَ وَ اَبْعِدْ عَنِّيْ هَمَزَاتِ

الشَّیَاطِیْنِ وَادْفَعْ عَنِّیْ بِدَفْعِكَ وَاجْعَلْنِیْ مِنْ خِیَارِ خَلْقِكَ یَا وَاحِدُ یَا اَحَدُ یَا فَرْدُ یَا صَمَدُ (مصباح الکفعمی)

دعائے حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام صاحب الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف

جو شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت رکھتا ہو تو شب جمعہ آدھی رات کے وقت غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھے جس میں سورۃ الحمد میں اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ 100 مرتبہ پڑھے اور سورہ الحمد تمام کرنے کے بعد رکوع میں 7 مرتبہ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیْمِ وَبِحَمْدِهٖ اور پھر سجدے میں 7 مرتبہ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی وَبِحَمْدِهٖ پڑھے دوسری رکعت بھی اسی طرح بجالائے بعد از نماز سجدہ میں 100 مرتبہ درود پڑھ کر یہ دعا پڑھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِلٰهِیْ عَظُمَ الْبَلَآءُ وَبَرِحَ الْخَفَآءُ وَانْكَشَفَ الْغِطَآءُ وَانْقَطَعَ الرَّجَآءُ وَضَاقَتِ الْاَرْضُ وَمُنِعَتِ السَّمَآءُ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَاِلَیْكَ الْمُشْتَكٰی وَعَلَیْكَ الْمُعَوَّلُ فِی الشِّدَّةِ وَالرَّخَآءِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ اُولِی الْاَمْرِ الَّذِیْنَ فَرَضْتَ عَلَیْنَا طَاعَتَهُمْ وَعَرَّفْتَنَا بِذٰلِكَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنَّا بِحَقِّهِمْ فَرَجًا عَاجِلًا قَرِیْبًا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْهُوَ اَقْرَبُ یَا مُحَمَّدُ یَا عَلِیُّ یَا عَلِیُّ یَا مُحَمَّدُ اِكْفِیَانِیْ فَاِنَّكُمَا كَافِیَانِ وَانْصُرَانِیْ فَاِنَّكُمَا نَاصِرَانِ یَا مَوْلَانَا یَا صَاحِبَ الزَّمَانِ اَلْغَوْثَ اَلْغَوْثَ اَلْغَوْثَ اَدْرِكْنِیْ اَدْرِكْنِیْ اَدْرِكْنِیْ اَلسَّاعَةَ اَلسَّاعَةَ اَلسَّاعَةَ اَلْعَجَلَ اَلْعَجَلَ اَلْعَجَلَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهِ الطَّاهِرِیْنَ (مصباح الکفعمی)

حسب فرمائش سیّدہ صوفیہ نقوی (انٹیریئر ڈیکوریٹر)

اولاد نرینہ کے لیے دوائی بھی مل سکتی ہے۔ **صرف خواتین رابطہ کریں**
مرد حضرات رابطہ نہ کریں۔ شکریہ **0332-4634315**

امامیہ جنتری رجسٹرڈ (اصلی) ہر شہر میں دستیاب ہے

رشتوں میں رکاوٹ اور اولاد نرینہ کے لیے صرف خواتین رابطہ کریں۔

مسز نقوی
0332 4662358
0322 4179311

مراقبہ

Meditation

فرح علی (نارتھ امریکہ) 001 306 715 5513

یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے دماغ کو کسی ایک چیز یا سوچ پر دھیان رکھنا ہوتا ہے اس میں گہرے اور لمبے سانس بھی لیے جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ دماغ اور خیالات سے پاک اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ مراقبہ جسے انگریزی زبان میں Meditation کہتے ہیں آپ کے بہت سے جسمانی، روحانی، دماغی مسائل کا حل ہے۔ اس عمل میں آپ کو پرسکون اور خاموش جگہ کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کمر سیدھی اور ریلکس (Relax) بیٹھتے ہیں اس سارے عمل سے سانس کی نالی اور پھیپھڑے کھلتے ہیں اور خون پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے بہت سے خلیے بنتے اور توانائی حاصل کرتے ہیں جسکا پورے جسمانی نظام پر اثر پڑتا ہے اور دماغ کا فوکس بھی بڑھتا ہے اور بہتر سوچ سمجھ سکتا ہے اور Confusions دور ہوتی ہیں اور آپکو اپنے جذبات اور دماغ پر اچھا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ مراقبہ کرنے سے آپ روحانیت کے اعلیٰ درجات کو بھی چھو سکتے ہیں مادیت کی پھر زیادہ اہمیت نہیں رہتی یہ اس بات پر منحصر ہے آپ کو کتنی مہارت حاصل ہے آپ اپنی اصلاح اور تعمیری کاموں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور مثبت اور پرسکون رہتے ہیں۔ شروع میں آپکو کسی ماہر استاد کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آہستہ آہستہ آپ خود سیکھ لیتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ آجکل اسکی اشد ضرورت ہے جہاں انسان بہت جوشیلے اور جذباتی ہو گیا ہے اور سکون بالکل نہیں۔ والسلام فرح علی

دل کے مرض سے محفوظ رہنے کا عمل

ہر واجب نماز کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کر پہلے درود پڑھے پھر 11 مرتبہ **یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ** کہے اور بارھویں مرتبہ کہے

یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ یَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْئَلُكَ اَنْ تُحْیِیَ قَلْبِیْ

اے زندہ، قائم رہنے والے اے نہیں کوئی معبود مگر تو۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ زندہ کر دے میرے دل کو۔ پھر آخر میں درود پڑھے اور دل سے ہاتھ اٹھائے

قرآن کریم سے مسائل کا حل

سید
حیدر شاہ شیرازی
0344-2420784

محترم ناشر و انتظامیہ جنتری کو سید حیدر شیرازی کی طرف سے سلام کے بعد دعا ہے کہ مالک کائنات محمدؐ و اہل بیتؑ کے صدقے آپ کو عزت و سربلندی عطا کرے اور آپکی توفیقات میں اضافہ فرمائے تا کہ آپ اسی طرح خدمت خلق سرانجام دیتے رہیں

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو تمام انسانیت کی ہدایت کے واسطے نازل فرمایا اور یہ تا قیامت تمام انسانوں خواہ وہ مسلمان ہوں یا کسی اور مذہب سے تمام کے لیے باعث ہدایت ہے۔ آج کل بہت سے جعلی عاملوں نے لوگوں کو بلند و بالا دعوے کر کے دھوکہ دے رکھا ہے جس وجہ سے لوگ عدم اعتماد کا شکار ہیں مگر قرآن پاک پر ہر انسان کو مکمل اعتماد ہے۔ ہمارے بزرگان نے پشتوں سے ہمیں جو علم سکھایا ہے وہ قرآن سے استفادہ ہے۔ حالانکہ بہت سے لوگ قرآن سے عملیات بتاتے ہیں مگر پھر بھی کامیابی نہیں ہوتی ۔ ہم پورے سال میں قرآنی آیات کو علم الاعداد سے مخلوط کر کے مختلف کاموں کے واسطے آزماتے ہیں جس میں کامیابی ہو صرف اسکو فلاح انسانیت کے لیے شائع کرواتے ہیں۔

دشمن پر غلبہ یا بچاؤ کے واسطے

سپارہ 16 سورۂ طٰہٰ آیت نمبر 68 قُلْنَا لَا تَخَفْ سے الْاَعْلٰی تک

ق+ی 2=0+1+1>110=10+100

مفرد کے حساب سے اس آیت کو صبح صادق کے وقت سیندور اور عرق گلاب سے 2 کاغذ پر لکھیں جس دشمن سے غلبہ چاہے اسکا نام مع والدہ لکھے کر پاس رکھے جہاں جائے گا رعب تقویت رہیگی یا اسکا نام کیل پہ لکھ کر درخت میں گاڑھ دے۔

ناجائز تعلق کے خاتمے کے لیے

سورۂ احزاب آیت نمبر 35 کا آخری حصہ وَالْحٰفِظِیْنَ فُرُوْجَهُمْ سے اَجْرًا عَظِیْمًا تک و+الف=6+1=7 اسکا مفرد عدد 7 نکلا ہے لہذا اگر کوئی شخص غلط تعلق میں مبتلا ہو یا اسکے آفس کا ماحول ایسا ہو جس وجہ سے خطرہ ہو یا وہ جان بوجھ کر ایسے تعلقات رکھے تو تعلق چھڑانے کے لیے دونوں کے نام مقناطیس پر لکھیں اور اسکو توڑ کر الگ الگ دفنا دیں جلدی تعلق کا خاتمہ ہوگا نام 7 مرتبہ لکھنا ہے۔

بحالی تعلق یا مابین صلح کے لیے

سپارہ نمبر 28 سورۂ ممتحنہ آیت نمبر 7 عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ سے غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ تک ع + م 70+40=110=0+1+1=2 اسکا مفرد عدد 2 نکلا اگر کوئی رشتہ نہ ہو رہا ہو یا پہلے محبت اور تعلق رہا ہو مگر اب ختم ہو چکا ہو یا والدین کی باہمی رضامندی کے لیے یا حسب توفیق 2000 مرتبہ مٹھائی کے 2 دانوں پر آیت پڑھ کر کھلا دیں یا پھر کامیابی کے لیے آتشی زعفرانی عمل کریں جو کہ مجرب ہے۔

رکاوٹ یا بندش کے خاتمے کے واسطے

سورۂ نمل آیت نمبر 92 وَاَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ سے مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ تک و+ن 6+50=56=6+5=11=1+1=2 اسکا مفرد 2 نکلا ہے۔ یہ بندش کے لیے آزمودہ ہے بندش کئی قسم کی ہوتی ہے کاروباری، رشتوں کی، شادی میں رکاوٹ، اولاد کی بندش، اسکے لیے یا توڑ کا عمل کریں یا پھر اس آیت کو زحل کی ساعت میں زعفران سے لکھ کر وزن تلے دبا دیں۔ 21 یوم میں بندش کا خاتمہ ہوگا۔ ان شاء اللہ

ترقی و برکت کے لیے مجرب

سورۂ فاطر آیت نمبر 30 لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ سے غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ تک

ل+ر 30+200=230=0+3+2=5 اسکا مفرد عدد 5 نکلا اگر کسی کو کاروبار میں فائدہ نہ ہو رہا ہو یا اچانک نقصان کی طرف چلا گیا ہو یا ویسے تنگی رزق ہو تو اس آیت کو 5 الگ الگ کاغذ پر لکھ کر وزن تلے دبا دیں۔ ان شاء اللہ جلد ٹھیک ہوگا۔

استاد سید حیدر شاہ شیرازی (فرزند معظم سلسلہ نسب دربار عالیہ مرشد سخی راجن امام شیرازی جھنگ)

Whatsapp 0344-2420784

امامیہ جنتری (رجسٹرڈ) پاکستان کاپی رائٹ ایکٹ 1962 گورنمنٹ آف پاکستان کے تحت رجسٹرڈ ہے۔ رجسٹریشن نمبر 9573 ہے۔ جنتری کا جعلی ایڈیشن شائع کرنے والوں کے خلاف ادارہ تحت قانونی کاروائی کا حق رکھتا ہے۔ جنتری میں تمام مضامین و اشتہارات خالص نیک نیتی کے جذبے سے شائع ہوتے ہیں۔ مضمون نویس سے لین دین کا ادارہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ادارہ ذمہ دار ہے۔ البتہ کسی بھی شکایت سے ادارہ کو مطلع ضرور کریں۔

عمل نادعلی علیہ السلام صغیر باموکل

سید مرتضیٰ حسین (کراچی)
0301-2845261
0316-2245861
فون کے اوقات دوپہر 2 بجے تا رات 10 بجے

اللہ تعالیٰ خدائے پروردگار نے کائنات کے رحمت العالمین نبی آخر الزمان حضرت محمد ﷺ کو وحی فرمائی اور نادعلی نازل ہوئی حضور اکرم ﷺ نے دعا قبول ہونے اور ہر رنج و غم اور تکلیف میں نادعلی کے بارے میں بتایا کہ یہ امیر المومنین امام المتقین مظہر العجائب مدینۃ العلم امام الاولیا، لسان اللہ، ید اللہ، حیدر کرار، اسد اللہ غالب، حضرت علی علیہ السلام سے نادعلی کا ورد کر کے مدد طلب کریں ان شاء اللہ ہر جائز اور شرعی امور میں کامیابی ہوگی۔

دعا کی قبولیت اور ہر کام میں فتح یابی پانے کے لیے

110 مرتبہ نادعلی، 110 مرتبہ

یَا غِیَاثَ الْمُسْتَغِیْثِیْنَ اَغِثْنِیْ یَا اَرْحَمَ الْمَسَاکِیْنَ اِرْحَمْنِیْ یَا عَلِیُّ اَدْرِکْنِیْ یَا عَلِیُّ اَدْرِکْنِیْ بِرَحْمَتِكَ وَ مَنِّكَ وَجُوْدِكَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ (نادعلی کبیر)

لوگوں میں بلند مرتبہ کے لیے اور لوگ عزت محبت سے پیش آئیں

110 مرتبہ نادعلی، 110 مرتبہ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا (سورۂ فاطر آیت 10)

دشمن کے شر سے بچنے اور حفاظت کے لیے

110 مرتبہ نادعلی، 110 مرتبہ

اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ (سورۂ حجر آیت 95)

قرض کی ادائیگی اور دولت حاصل ہونے کے لیے

110 مرتبہ نادعلی، 100 مرتبہ

یَا وَهَّابُ یَا قَوِیُّ یَا غَنِیُّ یَا عَلِیُّ یَا وَفِیُّ (اسمائے اعظم)

دماغ سے شیطانی خیالات وسوسے دور کرنے اور نیکی کی طرف راغب ہونے کے لیے

110 مرتبہ نادعلی، 110 مرتبہ

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

حصول روزگار، ترقی کاروبار، اور رزق کی فراوانی کے لیے

110 مرتبہ نادعلی، 110 سورۂ القدر (پارہ 30)

ہر بیماری سے صحت یابی کے لیے، خواتین کے اولاد با حفاظت ہونے کے لیے

110 مرتبہ نادعلی، 41 مرتبہ سورۂ فاتحہ (الحمد)، 41 مرتبہ سورۂ اخلاص (پارہ 30)، 41 مرتبہ سورۂ کوثر (پارہ 30)

ہر عمل کے لیے ضروری ہے جمعرات سے شروع کریں اول و آخر 14-14 مرتبہ درود پاک پڑھیں بعد نماز عشاء پڑھیں۔ 2 رکعت نماز رسول خدا ﷺ اور حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کریں۔ ہر جمعرات نذر حضرت محمد ﷺ اور حضرت علی علیہ السلام کریں۔ 3 دن ایک پاؤ گوشت کا اپنا صدقہ کریں۔ ہر عمل 41 دن کا ہے سمجھ میں نہ آئے تو فون پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ نوٹ: دس سال سے کم عمر بچوں کو حاضرات ہوتے ہیں جس میں خانہ کعبہ، روضہ حضرت علیؑ، روضہ امام حسینؑ اور دیگر مقدس روضوں اور مقامات کی زیارت ہوتی ہے اور موکلان نادعلی سے ملاقات ہوتی ہے۔

نادعلی صغیر

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نَادِ عَلِيًّا مَظْهَرَ الْعَجَائِبِ تَجِدْهُ عَوْنًا لَكَ فِي
النَّوَائِبِ، كُلُّ هَمٍّ وَغَمٍّ سَيَنْجَلِي بِعَظَمَتِكَ
يَا اَللّٰهُ بِنُبُوَّتِكَ يَا مُحَمَّدُ وَبِوِلَايَتِكَ
يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ اَدْرِكْنِي

ترجمہ: ابتدا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

عجائب خدا کے جلوہ بردار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ذرا پکارو تو سہی! تم ہر مصیبت اور ہر بلا میں ان کو اپنا مشکل پاؤ گے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، آپ کو اپنی عظمتوں کا واسطہ۔ اے محمدؐ، اے محمدؐ، اے محمدؐ آپ کو اپنی نبوت کا واسطہ اے علیؑ، اے علیؑ، اے علیؑ، آپ کو اپنی ولایت کا واسطہ میرے تمام رنج و غم کو دور فرمائیے اور میری مدد کیجیے۔

۱۱۲۱	۱۱۳۵	۱۱۳۲	۱۱۲۸
۱۱۳۳	۱۱۲۷	۱۱۲۲	۱۱۳۴
۱۱۲۶	۱۱۳۰	۱۱۳۷	۱۱۲۳
۱۱۳۶	۱۱۲۴	۱۱۲۵	۱۱۳۱

ذوالفقار بک سنٹر جامعۃ المنتظر ماڈل ٹاؤن لاہور 0333-4037541
حسن بک ڈپو امامیہ مسجد کرشن آباد لاہور 0301-6894024

لوح گنج العرش

تحریر و تحقیق
راجا افتخار حسین (کراچی)
0333-2312068

میری کوشش ہوتی ہے کہ قارئین امامیہ جنتری کیلئے ہر سال اچھے سے اچھے مضمون تحریر کروں اور ایسی لوح دی جائے جس سے مومنین و مومنات بھر پور فائدہ حاصل کریں۔ اس دفعہ جنتری کیلئے دُعائے گنج العرش اور لوح سے فوائد حاصل کرنے کیلئے لکھ رہا ہوں۔

یہ لوح مکمل دعائے گنج العرش کے اعداد ۳۶۴۱۵۴۹ سے تیار کی گئی ہے جس کی چال آتشی ہے جہاں کہیں مجھے ناکامی کا سامنا ہوتا ہے تو میں یہ لوح تیار کر کے دیتا ہوں اس کے صدقے رُکے ہوئے ایسے تمام کام سرانجام پاتے ہیں جن سے ناامیدی ظاہر ہوتی ہے۔ میں کوئی لمبی چوڑی تمہید اس بارے میں نہیں باندھوں گا بلکہ وہ فوائد لکھ رہا ہوں جو میرے تجربہ میں ہیں دعائے گنج العرش کافی طویل ہے جو جنتری کے صفحات کی کمی کی وجہ سے نہیں دی جاسکتی۔ روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دعا عرش رب العالمین کے آس پاس لکھی ہے۔ دعا گنج العرش اور لوح گنج العرش کے فوائد کاغذ اور قلم یا زبان سے بیان کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ یہ لوح گنج العرش پاس رکھنے سے سحر و جادو باطل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو ایسا مرض ہو جائے کہ کسی طبیب سے علاج نہ ہو تو ہر روز اس نقش کو زعفران سے چینی کی پلیٹ پر لکھ کر پلایا جائے تو کیسی ہی بیماری ہو خدا تعالیٰ اسے عافیت بخشے گا اگر کسی کی اولاد نہ ہوتی ہو تو دونوں میاں بیوی الگ الگ اس نقش کو زعفران سے لکھ کر گلے میں پہنیں اور اسکو چینی کے برتن پر لکھ کر اکیس روز پئیں تو ان شاءاللہ تعالیٰ اولاد نیک عطا ہو۔ اس لوح کے حامل کو اللہ تعالیٰ چغل خوروں اور غیبت کرنے والوں سے اور تمام بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی شخص اس لوح کو کشادگی رزق کے واسطے بنائے گا تو اللہ تعالیٰ روزی میں کشادگی عطا فرمائے گا۔ اگر اس پر قرض ہو تو خدا تعالیٰ قرض اُتارنے کے اسباب پیدا کرے گا۔ اس لوح کو حمائل کر کے اپنے پاس رکھے گا تو تمام آفتوں سے امن میں رہے گا۔ اگر کوئی حاجت روائی کے لئے لوح کو بنائے تو خدا تعالیٰ اس کی حاجت برلائے گا۔ اس لوح کو بنا کر اپنے پاس رکھے گا تو اس بندے کو جمیع نعمتوں سے سرفراز کریگا اور اس کے دشمنوں کو مقہور کریگا جو شخص کبھی راہ بھولے گا تو راہ پائے گا۔ اگر بدبخت ہوگا تو بخت اسکا بلند ہوگا اگر کوئی اس لوح کو اپنے پاس رکھے گا تو فاقہ سے محفوظ رہے گا اور کبھی بھوکا نہیں مرے گا۔



۹۱۰۳۷۹ 1	۹۱۰۳۹۲ 14	۹۱۰۳۸۹ 11	۹۱۰۳۸۶ 8
۹۱۰۳۹۰ 12	۹۱۰۳۸۵ 7	۹۱۰۳۸۰ 2	۹۱۰۳۹۱ 13
۹۱۰۳۸۴ 6	۹۱۰۳۸۷ 9	۹۱۰۳۹۴ 16	۹۱۰۳۸۱ 3
۹۱۰۳۹۳ 15	۹۱۰۳۸۲ 4	۹۱۰۳۸۳ 5	۹۱۰۳۸۸ 10

بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیاً ولی اللہ
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ العلی العظیم اللّٰھم صل علی
محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراھیم وعلی آل ابراھیم انک
حمید مجید اللّٰھم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طبیب
القلوب ودوائھا وعافیة الابدان و شفائھا و نور الابصار ضیائھا و علی آلہ
الطیبین الطاھرین المعصومین و دائما ابد اللہ رب محمد صلی اللہ
علیہ وسلم بحق عبادۃ محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم

اس لوح کو پاس رکھنے سے سفر میں امن و سلامتی رہے مال و دولت کی فراخی ہو اگر دکان کی چوکھٹ پر لگائے یا غلہ کی جگہ پر رکھے تو مال و دولت کی حفاظت ہو اور کاروبار فراخ ہو اس لوح کو ہر فرض نماز سے پہلے اپنے مصلے پر رکھا کرے اور نماز کے بعد اسے اپنی جیب میں رکھیں تو مکمل روحانی فیض حاصل ہوں اور ایک عرصہ کے بعد ایک روحانی مخلوق حاضر ہو اور روحانی درجہ میں کمال پیدا ہوگا۔ اس طرح ہر عادت بد کے خاتمے کیلئے اور اگر بات بات پر غصہ آتا ہو تو اس نقش کو کسی میٹھی شے پر پڑھ کر کھائے یہ تمام فوائد اس لوح کے ادنیٰ کرشمات میں سے ہیں۔ لوح گنج العرش ہر ماہ شرف قمر میں چاندی کے پترے پر تیار کی جاسکتی ہے۔ ہر ستارے کے شرف و اوج، تثلیث شمس و مشتری، تثلیث زہرہ و مشتری، تثلیث مریخ و زہرہ اور قران السعدین میں تیار کی جاسکتی ہے۔ اگر کوئی عامل یہ لوح کسی سائل کو تیار کر کے دے تو اس پر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر دم کرے اور سائل کو بھی درود پڑھنے کی تاکید کرے۔ جو مومن اور مومنہ اس لوح سے فوائد حاصل کرے۔ بانی امامیہ جنتری آغا نثار احمد، زوجہ آغا افتخار حسین والدہ علی فرزاد کیلئے دُعائے مغفرت کرے۔ مجھ ناچیز اور آغا افتخار حسین اور علی فرزاد کیلئے دُعائے صحت و سلامتی کریں۔ اگر مضمون کی کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو جوابی لفافے سے وضاحت مفت حاصل کریں۔

راجا افتخار حسین مکان نمبر A-12، سروے نمبر 553، عقب مرکزی امام بارگاہ جعفر طیار سوسائٹی ملیر کراچی۔ E-mail:rihussain133@gmail.com

خزینہ عملیات

غلام کبریا عامل روحانی 0092-300-5537074
محمدیہ کالونی شیر شاہ سوری روڈ [illegible] ضلع میانوالی پاکستان

عزیزان گرامی! اس مرتبہ امامیہ جنتری 2019 کے لیے چند مجرب ترین اعمال تحریر کر رہا ہوں۔ جو بیشتر مرتبہ میرے خود آزمودہ ہیں یا جن سے متعدد مرتبہ کئی مومنین و مومنات مستفید ہو چکے ہیں۔

◉ سورۃ فاتحہ کا یہ عمل امام غزالی سے منقول ہے۔ بندہ نے اسے کئی بار انتہائی ناگہانی حالات اور مشکل ترین امور کیلئے پڑھا اور الحمدللہ مولا کا فضل ہمیشہ شامل حال رہا۔ یہ عمل صرف سات یوم کا ہے چونکہ اس سورۃ مبارکہ کی آیات سات ہیں۔ اس لئے اسے ہفتہ کے سات ایام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ عروج ماہ اتوار کا دن گزار کر جائے نماز پر لباس خاص کے ساتھ پڑھا جائے عمل کے دوران خوشبو روشن کی جائے روزانہ عمل کے اول آخر گیارہ بار درود ابراہیمی اور عمل کے شروع میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے۔ مضمون کی طوالت سے بچنے کیلئے نیچے پورا عمل درج کیے دیتا ہوں۔

دن	آیت	تعداد
اتوار	الحمدللہ رب العالمین	۵۸۲
پیر	الرحمن الرحیم	۶۱۸
منگل	مالک یوم الدین	۲۳۱
بدھ	ایاک نعبد وایاک نستعین	۸۳۶
جمعرات	اھدنا الصراط المستقیم	۱۰۷۳
جمعہ	صراط الذین انعمت علیھم	۱۸۰۷
ہفتہ	غیر المغضوب علیھم ولا الضالین	۳۲۰۳

عمل کے اختتام پر دو رکعت نماز قضائے حاجت پڑھیں بعد سلام اپنے مقصد کیلئے دعا کریں پورے عمل کے دوران دعا کے الفاظ میں رد و بدل نہ ہوں ان شاء اللہ کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔

مختلف آیات کریمہ "اسم اعظم" وسعت رزق اور حصول انعامات کیلئے

قرآن مجید ویسے تو مسلمانوں کیلئے باعث شفا اور حصول رحمت ہے مگر کاملین نے کئی ایک سورۃ ہائے اور آیات مقدسہ خصوص مقاصد کیلئے ترکیب دیں انہی میں سے ایک عمل سورۃ طلاق کی اس ایت کریمہ کا ورد کر رہا ہوں جو 100% (مجرب) اور درست عمل ہے۔ آیت

ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا..... قد جعل اللہ لکل شئ قدراہ"

عروج ماہ بدھ کا دن گزار کر بعد نماز عشاء علیحدہ جگہ جا کر عمل شروع کریں۔ ممکن ہو تو غسل کر کے باوضو لباس مخصوصہ کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھ جائیں۔ آنکھیں بند کر لیں جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں، چند ثانیہ کیلئے خود کو روضہ امام علی مقام کے سامنے تصور کریں اپنا محاسبہ کریں پھر خود کو لاچار بے یار و مددگار سمجھ کر مدد کیلئے پکاریں۔ یہ عمل پانچ منٹ جاری رہے بعد ازاں مندرجہ بالا ایت کریمہ اول آخر گیارہ بار درود شریف درمیان میں ایک ہزار بار پڑھ کر اپنے مقصد خصوصاً وسعت رزق کیلئے دعا کریں۔ یہ عمل 9 یوم کا ہے۔ انشاء اللہ ان ایام میں وسعت رزق

◉ عزیزان گرامی! پارہ نمبر ۳ رکوع گیارہ کی آیت "قل اللھم ملک الملک..... بغیر حساب" اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد اکتالیس بار پڑھ کر اپنے لئے دعا کرتا ہے تو خیر میں اللہ کریم کے خزانوں میں اس کا حصہ بڑھ کر دیا جاتا ہے۔ پڑھنے والے کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اسباب غیب سے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔

☆ سورۃ توبہ کی آخری دو آیات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ تیغ بند کا کام کرتی ہیں۔ اللہ پاک کے ایک برگزیدہ بندے ان آیات مبارکہ کا ورد تواتر سے فرماتے پڑھتے پڑھتے ان کی عمر 94 سال کے قریب ہو گئی تو ایک بار خواب میں انہیں حضور پاک ﷺ کا دیدار انور نصیب ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا اے بندہ خدا کیا تیرا دل ہمارے پاس آنے کو نہیں کرتا عرض کیا یا رسول اللہ ہر وقت دل میں یہی تمنا رہتی ہے تب آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تجھے معلوم ہے تیرے اور موت کے قریب کیا چیز حائل ہے عرض کیا نہیں معلوم یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا جب تک تو ان آیات مبارکہ کا ورد کرتا رہے گا۔ موت تیرے قریب نہیں آئے گی اس کے بعد اس شخص نے ان آیات کا ورد ترک کر دیا اور چند ایام میں اس کی وفات ہو گئی۔

اللہ عزوجل مولا پنجتن پاک کے صدقے ہماری مشکلات آسان فرمائے ہمیں سچا اور پرہیزگار مسلمان بنائے۔ (آمین)

منگنی، نکاح، شادی کے لیے امام ضامن سرخ و سبز رنگ میں کڑھائی شدہ دستیاب ہیں
042-37223686
ملنے کا پتہ افتخار بک ڈپو مین بازار اسلام پورہ لاہور۔

لَاحَوۡلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہ ثواب و اعمال

0346-2489941, 0335-3287307, 0307-4871132

علی احمد کاشف
مکان نمبر L-925 سیکٹر 2
نارتھ کراچی پاکستان

معزز قارئین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ! الحمد للہ کہ ہمیں خدا نے مومنین میں پیدا فرمایا۔ ویسے تو ہر بچہ مومن پیدا ہوتا ہے جو بچے بچپن میں مر جاتے ہیں وہ حضرت ابراہیمؑ کی محفل اطفال میں پہنچ جاتے ہیں۔

مومنین کرام! ہم غور نہیں کرتے کہ ہر بیماری اور ہر مسئلے کا حل ہمارے گھر میں ہی موجود ہے لیکن ہم خاک چھانتے چھانتے بہت دور تک نکل جاتے ہیں 6666 آیات، 114 سورہ، 30 جز (سپارے) یعنی قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ذاتی بے شمار اسماء الحسنیٰ (1000 اسماء تو مولا علیؑ نے دعائے جوشن کبیر، دعائے مشلول میں تعلیم فرمائے ہیں) 173 اسم اعظم ہیں لیکن ہم اپنے کردار کا محاسبہ نہیں کرتے اور بلائیں اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں۔

تسبیحات اربعہ سے آگے کا پانچواں لاحول ولا قوۃ الا باللہ کے بارے آج آپ سے ہم کلام ہوں۔ شکریہ اور دعا جزائے خیر برائے مومنین کیساتھ عرض کرتا ہوں کہ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اسکے معنی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت و قوت نہیں۔ تفصیل یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جن چیزوں پر اختیار دیا ہے وہ عارضی ہے۔ ہمیں اپنے اختیار کو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ اصل مالک اللہ ہی ہے وہ جب چاہے یہ اختیار واپس لے سکتا ہے۔ اللہ کے 4 طاقتور ترین فرشتے ہر وقت یہ ورد رکھتے ہیں۔

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین

✿ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ لاحول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنے والا اللہ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ کوئی پریشانی، خطرہ یا مہم درپیش ہو تو روزانہ 200 مرتبہ لاحول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیں۔

✿ روزانہ نماز فجر کے بعد سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھنے سے وہم دیوانگی، جذام، غربت اور بڑھاپے کی کمزوری سے محفوظ رہ سکتے ہیں ✿ سانس یعنی دمہ سے حفاظت کے لیے روزانہ 70 مرتبہ لاحول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیں ✿ لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھنے سے شیاطین دور بھاگ جاتے ہیں ✿ جس طرح دنیا میں تعمیر مکان کے لیے سیمنٹ، بجری وغیرہ استعمال ہوتا ہے اسی طرح جنت میں تعمیر رہائش کا سامان یہ 5 کلمات ہیں۔

سُبۡحَانَ اللّٰہِ وَالۡحَمۡدُ لِلّٰہِ وَلَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکۡبَرُ وَلَا حَوۡلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ الۡعَلِیِّ الۡعَظِیۡمِ۔ پڑھتے رہیں جنت میں گھر تعمیر ہوتا رہے گا پڑھنا روک دیں گے تو فرشتے بھی تعمیر روک کر سامان تعمیر کا انتظار کرنے لگیں گے۔ جنت میں یہ سامان تعمیر استعمال نہیں ہوتا وہاں سونا، چاندی، زمرد اور جواہر کام میں لائے جاتے ہیں ✿ اساتذہ، مقررین، ذاکرین اور مصلح حضرات اپنی بات شروع کرنے سے پہلے لاحول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیں تو انکی بات پُراثر ہوگی اور سمجھ میں جلدی آئے گی۔ ✿ وسعت رزق کے لیے ہر نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد بغیر پہلو بدلے بغیر کسی سے کلام کیے 100 مرتبہ بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ لَا حَوۡلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ الۡعَلِیِّ الۡعَظِیۡمِ پڑھیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ آغا افتخار حسین صاحب انکے اہل خانہ اور انکی ٹیم جو تعلیمات آل محمدؐ پھیلانے میں میرے معاون ہیں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہماری اس نوکری کو قبول فرمالیں۔ 2014 سے مسلسل شائع ہونے والے ہمارے مضامین اور اعمال بہت آسان، عظیم مفید اور دسترس میں ہیں۔ لازمی ہے کہ درود بر محمدؐ و آل محمدؐ اچھی خاصی تعداد میں پڑھیں۔ روحانی اور شرعی مسائل اور مشورے کے لیے رجوع فرمائیں۔

حوالہ جات: منہاج البراعہ، ثواب الاعمال، معانی الاخبار، چشمہ رستگارے، عیون اخبار الرضا، بصائر الدرجات، زاد الصالحین۔

بلا ہدیہ فی سبیل اللہ
قارئین امامیہ جنتری کے لیے: روغن شفاء ہزاروں مرتبہ سورۂ فاتحہ، چہار قل، و دیگر قرآنی آیات دم کیا ہوا۔
برائے شفا بیماری، نظر بد و سحری اثرات فون پر فی سبیل اللہ منگوائیں۔ علی احمد کاشف (روحانیت جنت)

ایک دن کی نمازوں کے حروف اور انکی نیکیاں

انور علی
لکھ درودی
0310-7078787

قارئین امامیہ جنتری السلام علیکم! قارئین امامیہ جنتری کو سال نو مبارک ہو۔ خصوصاً آغا نثار احمد مرحوم و اہلیہ مرحومہ کو پہلے کی طرح اس مرتبہ پھر ایک لاکھ درود پاک اور سورہ فاتحہ 5 مرتبہ آیت الکرسی 5 مرتبہ سورہ انا انزلنا 5 مرتبہ چاروں قل 5-5 مرتبہ۔ پہلے 10 سپاروں کا ثواب اور پہلے 10 روزوں کا ثواب ہدیہ ہو۔ جنہوں نے ضالین کو صراط مستقیم پر لگایا ہے۔ اس مرتبہ شائقین امامیہ جنتری کے لیے ایک دن کی نمازوں کا ثواب پیش کر رہا ہوں۔ ہر مومن روزانہ نماز پڑھتا ہے اور قیامت تک پڑھتا رہیگا اور پڑھنی چاہیے کیونکہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز گناہوں سے بچاتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ پارہ نمبر 8 سورۃ انعام رکوع 7 آیت نمبر 160 "**ترجمہ** اسکی رحمت تو دیکھو" جو شخص ایک نیکی کریگا تو اسکو 10 گنا ثواب عطا ہوگا اور جو شخص بدی کریگا تو اسکی سزا اس کو بس اتنی ہی دی جائیگی اور وہ لوگ کسی طرح ستائے نہ جائینگے" ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں بلکہ اس سے کہیں زیادہ دے سکتا ہے (وہ جو چاہے سو کرے) الٓمّٓ یہ ایک حرف نہیں بلکہ 3 حرف ہیں اور اسکے پڑھنے سے 30 نیکیاں ہونگی۔ نماز میں سورہ چھوٹی پڑھنے سے نیکیاں کم اور بڑی پڑھنے سے زیادہ ہونگی اسی طرح ذکر رکوع و ذکر سجود ایک مرتبہ پڑھنے سے نیکیاں کم اور 3 مرتبہ پڑھنے سے زیادہ ہونگی۔ دعا قنوت چھوٹی پڑھنے سے نیکیاں کم اور بڑی پڑھنے سے زیادہ ہونگیں۔

نوٹ کچھ مومنین نماز مختصر پڑھتے ہیں سورہ چھوٹی پڑھتے ہیں ذکر رکوع و ذکر سجود ایک مرتبہ پڑھتے ہیں دعا قنوت چھوٹی پڑھتے ہیں۔ کچھ مومنین تسبیح نہیں پڑھتے دعا شارٹ مانگتے ہیں سجدہ شکر نہیں کرتے اور نہ ہی زیارت پڑھتے ہیں اور ایسے ہی چلے آتے ہیں نماز تو ہو جاتی ہے لیکن نیکیاں کم ہو جاتی ہیں تو آئیے اس طرح نماز پڑھنے سے آپکو ایک دن کی اتنی نیکیاں ملتی ہیں یہ صرف 17 رکعت نماز فریضہ کی نیکیاں ہیں اگر آپ سنتیں اور نفل پڑھتے ہیں تو ثواب اور بڑھ جائیگا تو نوافل بھی ضرور پڑھنے چاہیے تفصیل صرف نماز کی دی جا رہی ہے آذان و اقامت تسبیح و دعا سجدہ شکر و زیارت کی نہیں اگر یہ ساری تفصیل دیتا تو کئی صفحات بھر جائیں گے لہذا اس پر اکتفا کرتے ہیں یہ سری آذان سے لیکر زیارت تک دی جا رہی ہے۔ (واللہ اعلم) ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں

ایک دن کی نمازوں کے حروف اور انکی نیکیاں	حروف	مرتبہ	ٹوٹل حروف	ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں	ٹوٹل نیکیاں
ایک دن میں اذان 3 مرتبہ پڑھی جاتی ہے	X 346	= 3	1038	= 10 X	10380
ایک دن میں اقامت 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے	X 258	= 5	1290	= 10 X	12900
ایک دن میں نمازیں 5 پڑھی جاتی ہیں	X8856	ایک دن =	8856	= 10 X	88560
ایک دن میں تسبیح 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے	X 833	= 5	4165	= 10 X	41650
ایک دن میں دعا 5 مرتبہ مانگی جاتی ہے	X 895	= 5	4475	= 10 X	44750
ایک دن میں سجدہ شکر 5 مرتبہ کیا جاتا ہے	X 150	= 5	750	= 10 X	7500
ایک دن میں زیارت 3 مرتبہ پڑھی جاتی ہے	X 602	= 3	1806	= 10 X	18060
ٹوٹل میزان	11940	*	22380	= 10 X	223800

یہ ایک دم درود ہے انسان کے علاوہ حیوان، گائے، بھینس، بکری، دنبہ، اونٹ، وغیرہ۔ پرندوں میں مرغی، کبوتر، بٹیر، تیتر، بطخ، مور، وغیرہ کے پیٹ و سینہ میں درد ہو تو ایک روٹی کا ٹکڑا لیں اور اس پر بسم اللہ الرحمٰن الرحیم و درود پڑھ کر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے یہ پاک نام لکھیں

۱ یَااللهُ ۲ اَلْقَابِضُ ۳ اَلْوَاجِدُ ۴ اَلشَّافِیْ ۵ اَلْکَافِیْ ۶ اَلْمُقِیْتُ ۷ یَاعَظِیْمُ

پھر ایک مرتبہ درود پڑھ کر کھالیں اور کھلادیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ 10 منٹ کے اندر آرام آئیگا اور پھر اسکو زندگی کا معمول بنالیں (عام اجازت ہے) یہ دم درود کافی عرصہ سے میرا آزمودہ ہے۔ آخر میں آغا افتخار حسین صاحب کی اہلیہ مرحومہ کے لیے سورۂ فاتحہ کی اپیل کرتا ہوں اور ادارے کی ترقی کے لیے دعا گو ہوں۔ فقط والسلام اللہ آپ سب کا حامی وناصر آپکا عزیز انور علی لکھدرودی بمقام وڈاک خانہ خاص قائم بھروٓنہ تحصیل شورکوٹ ضلع جھنگ۔

ایک دن کی 5 نمازوں کے حروف اوران کا ثواب

فجر 2 رکعت ظہر 4 رکعت عصر 4 رکعت مغرب 3 رکعت عشاء 4 رکعت

سورہ ذکر نماز	تفصیلات	حروف	مرتبہ	ٹوٹل حروف	ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں	ٹوٹل نیکیاں
تکبیرۃ الاحرام	اَللّٰهُ اَکْبَرُ	X 08	=110	X 880	= 10	8800
تسمیہ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	X 19	=27	X 513	= 10	5130
سورۃ الفاتحہ	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ	X122	=17	X2074	= 10	20740
سورۃ القدر	اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ	X110	=05	X 550	= 10	5500
اخلاص	قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ	X 47	=05	X 235	= 10	2350
دعا قنوت	اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا	X 61	=05	X 305	= 10	3050
درود	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ	X 21	=70	X1470	= 10	14700
ذکر رکوع	سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیْمِ وَبِحَمْدِهٖ	X 20	=17	X 340	= 10	3400
ذکر قرار	سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ	X 14	=17	X 238	= 10	2380
ذکر سجود	سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی وَبِحَمْدِهٖ	X 20	=34	X 680	= 10	6800
ذکر استراحت	اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّیْ وَاَتُوْبُ اِلَیْهِ	X 22	=17	X 374	= 10	3740
سجدہ سے اٹھتے وقت	بِحَوْلِ اللّٰهِ وَ قُوَّتِهٖ اَقُوْمُ وَاَقْعُدُ	X 22	=12	X 264	= 10	2640
تشہد	اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِیْكَ لَهٗ	X 52	=09	X 468	= 10	4680
سلام	اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُهٗ	X 93	=05	X 465	= 10	4650
	ٹوٹل میزان	*	=*	8856	= 10	88560

انسانی جسم پر نماز کے اثرات

ڈاکٹر اسد عباس رضوی (لکھنو)
Mob:9415075312

عالمی ادارہ صحت یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (WHO) نے صحت کو سمجھانے کے لیے جس عبارت کا استعمال کیا ہے اس میں انسان کی مکمل جسمانی و روحانی صحت کیساتھ اجتماعی و سماجی صحت کو بھی شامل کیا گیا ہے یعنی صحت صرف بیماری کا جسم میں نہ ہونا نہیں ہے بلکہ مکمل صحت جسمانی، روحانی اور سماجی صحت ہوتی ہے

نماز اور جسمانی صحت نماز سے بہتر ہلکی اور مسلسل ورزش کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسکی ترتیب ایک مختصر وقت میں اعلیٰ معیار کی عضلاتی، ذہنی اور اعصابی کسرتوں پر مشتمل تحفہ ہے۔ نماز کے لیے جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو اسی وقت سے ہمارا ذہن دنیاوی کاموں سے الگ ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جب یہ کام ہم دن میں 5 مرتبہ کریں تو آج کی سائنس کے لحاظ سے یہ صحت پر Meditation کے اثر کا بہترین نمونہ عمل ہے Meditation کا مطلب کسی ایک ٹارگٹ پر فوکس کرنا جس سے ذہن باقی سبھی سوچ اور فکر سے دور رہے نماز میں نیت کرنے کیساتھ ہی ہمارا پورا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے جو ہمیں سکون دیتا ہے۔ یہ اختلاج (Anxiety) اور ڈپریشن (Depression) مایوسی جیسی بیماری کو دور کرتا ہے۔

نماز ان حضرات کو جو زیادہ تر بیٹھ کر کام کرتے ہیں 5 مرتبہ نماز پڑھنا انکو امراض قلب، ذیابیطس (Diabetes) دماغی پریشانی اور جوڑوں کے درد جیسے امراض سے نجات دلاتی ہے۔ نماز ہمارے خون کے دوران کو بہتر کرتی ہے۔ خون میں چربی (Cholesterol) کو کم رکھتی ہے جو دل کی بیماریوں میں بے حد مفید ہے۔ میڈیکل سائنس کے حساب سے کھانا کھانے کے بعد ہمارے جسم میں کولیسٹرول کا لیول بڑھ جاتا ہے اگر کھانے کے ساتھ ساتھ ہلکی کسرت کی جائے تو یہ کولیسٹرول Liver کے ذریعہ ہمارے جسم سے باہر ہو جاتا ہے۔

وضو وضو کرنے کے لیے ہم اپنے ہاتھ اور چہرے کو دھوتے اور پیر کا مسح کرتے ہیں جس سے الگ الگ بیماریوں کے جراثیم ہمارے جسم سے الگ ہو جاتے ہیں اور ہم Infectious بیماریوں سے بچتے ہیں۔ ایک فلسفہ کے حساب سے ہمارے جسم میں Accupressure کے مقام ہوتے ہیں جو وضو کرنے سے Stimulate ہوتے ہیں اور ہمیں صحت مند بناتے ہیں۔ وضو کرتے وقت کلی کرنے کے دوران ہمارے منہ کے جراثیم دور ہوتے ہیں جس سے نزلہ زکام جیسی بیماریوں میں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ناک میں پانی ڈالنے سے ناک میں ہونے والے جراثیم اور الرجی پیدا کرنے والے جراثیم دور ہوتے ہیں۔ چہرہ دھونے سے چہرے پر نکھار یا نور آتا ہے مہاسے جھریاں اور داغ دھبے چہرے سے دور ہوتے ہیں۔

تکبیر نماز میں دونوں ہاتھوں کا کانوں تک اٹھانا اس لئے اہم ہے کہ اس عمل سے دونوں ہاتھوں، گردن اور شانوں کے پٹھوں (Muscles) کی ورزش ہوتی ہے۔ تحقیق کے مطابق دل کے مریضوں کے لیے یہ ورزش بے حد مفید ثابت ہوتی ہے جو نماز پڑھنے سے خود بخود ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی ورزش عام حالات میں فالج کے خطرے سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔

قیام نماز میں قیام انسانی جسم پر وہ اثر ڈالتا ہے جو کسی بھی ورزش کے بیچ میں Muscles کو آرام دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے نماز کے درمیان میں قیام ہمارے جسم کو آرام دیتا ہے اور حرکت قلب کو Maintain کرتا ہے۔ نماز میں قیام کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کے جسم کا وزن دونوں پاؤں پر یکساں پڑتا ہے۔

رکوع جب ہم رکوع کرتے ہیں تو ہماری Nerves کھنچتی ہیں جو بدن میں طاقت پیدا کرتی ہیں۔ اس سے کمر درد، گردن کا ورم اور ہاتھ پیر کے درد میں فائدہ ملتا ہے۔ رکوع کے دوران ہمارے پیٹ پر دباؤ بنتا ہے جو کھانا ہضم کرنے میں مدد کرتا اور قبض نہیں ہونے دیتا۔ رکوع کے عمل سے معدے اور آنتوں کی خرابیاں دور ہو جاتی ہیں رکوع کے دوران ہمارے گردے کی رگوں میں بھی خون کا دوران بڑھ جاتا ہے۔ جو گردے کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ رکوع سے گردوں میں پتھری بننے کا عمل بھی سست پڑ جاتا ہے اور رکوع کی وجہ سے پتھری جلدی نکل جاتی ہے۔ برابر نماز پڑھنے سے رکوع کے دوران ہماری Spinal Muscle کی ورزش ہوتی ہے اگر ہم برابر یہ ورزش نہ کریں تو کمر درد (Slipped) کی پریشانی ہو جاتی ہے تب مریض کو جھکنے سے منع کرنا پڑتا ہے اسکا مطلب اگر ہم برابر نماز پڑھتے رہیں تو یہ نوبت ہی نہیں آنے پائے گی۔

سجدے کے فوائد جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے خون کا

عابد علی سبیل والے دربار بی بی پاکدامن لاہور

عابد بک سٹال امامیہ مسجد امامیہ کالونی لاہور 0331-4641575

دوران ہمارے دماغ کی طرف بڑھ جاتا ہے جو ہماری یادداشت کو بہتر کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سجدے میں کولہوں، کہنیوں، ٹخنوں اور گھٹنوں پر جھکاؤ ہوتا ہے جبکہ ٹانگوں اور رانوں کے پیچھے کے پٹھے اور کمر و پیٹ کے پٹھے کھنچے ہوئے ہوتے ہیں اور کندھے کے جوڑ کے پٹھے اس کو باہر کی طرف کھینچتے ہیں اسکے ساتھ ساتھ کلائی کے پیچھے کے عضلات بھی کھنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ سجدہ کرنے سے Brain Hemorrhage دماغ میں نس کا پھٹنا اور سر درد (Migrain) جیسی بیماریاں دور ہوتی ہیں (دماغ کی صحت کے لیے EEG میں دماغ میں اٹھنے والی Activity کو دیکھا جاتا ہے سجدے کے دوران دماغ میں Alpha waves نمایاں ہو جاتی ہیں جو صحت مند دماغ کی نشانی ہے یہ سب کچھ دماغی سکون، خوشی اور اطمینان دکھاتا ہے) سجدہ کرنے سے ہماری ریڑھ کی ہڈی میں کھنچاؤ بنتا ہے جو اسکی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ سجدے میں ٹانگوں اور رانوں کے پیچھے عضلات، کمر اور پیٹ کے عضلات کھنچے ہوئے ہوتے ہیں یہ ایک ایسی بہترین ورزش ہے جو ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط اور لچکدار بناتی ہے۔ سجدے کے دوران خون اور زمین کی کشش کا اضافی دباؤ ہاتھوں، پیشانی، چہرے، سینے اور دل کی طرف بڑھ جاتا ہے اور پھر چند سیکنڈ بعد سجدے سے سر اٹھاتے ہی نارمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خون کی نالیوں کی مقررہ حرکات اور طاقتور پمپنگ سے رکوع کی قوت لچک بڑھ جاتی ہے۔

تشہد تشہد کی حالت میں گھٹنے اور کولہے پر جھکاؤ ہوتا ہے، ٹخنے اور پیر کے عضلات پیچھے کھنچے ہوئے ہوتے ہیں کمر اور گردن کے پٹھے کھنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ایک اچھی کسرت ہے۔ آج میڈیکل سائنس نے کسرت کو تمام بیماریوں میں مددگار مانا ہے۔ جب ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے جسم کی مکمل کسرت ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے سے ہمارے جسم میں خوشی پیدا کرنے والے ہارمونس جیسے Serotonins بنتے ہیں جو ہماری جسمانی اور روحانی صحت کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔

نماز اور روحانی صحت جیسا کہ جدید سائنس نے نماز کا انسانی دماغ Relaxation Effect ثابت کیا ہے دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھنا انسان کو روحانی طور پر صحت مند رکھتا ہے۔

نماز اور سماجی صحت اسلام میں جماعت کی نماز کا تصور سماجی صحت کا بہترین نمونہ عمل ہے یہ ہمیں معاشرے میں ہونے والے حالات اور دوسرے مومنین کی پریشانیوں کو سمجھنے اور دور کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔

جدید تحقیق اور نماز کے جسمانی فوائد

ملیشیا میں ہوئی ایک میڈیکل سائنٹسٹ ریسرچ نے نماز کا انسانی ذہن پر اثر EEG ریکارڈنگ کے ذریعے ثابت کیا ہے۔ EEG ذہن میں ہونے والی الگ الگ کیفیت کو Waves کی شکل میں ریکارڈ کرتا ہے۔ Waves کا Type انسان کے ذہنی سکون کو دکھاتا ہے۔ Alpha Waves جتنی زیادہ تعداد میں Brain میں ریکارڈ ہوتی ہیں ذہن اتنا سکون میں رہتا ہے۔ ملیشیا کے سائنٹسٹ نے اپنے تجربہ میں نماز کے دوران انسانی ذہن میں Alpha Waves کی زیادہ مقدار دکھائی ہے۔ International Medical Scientist نے بھی اس بات کو قبول کیا ہے۔

WHO کی ایک تازہ Study میں یہ ثابت کیا ہے کہ صبح جلدی سو کر اٹھنے والے لوگوں کی زندگی دیر تک سونے والوں سے لمبی اور بہتر ہوتی ہے اسلام نے صبح کی نماز کو واجب قرار دے کر ان کی بہتر صحت کا انتظام چودہ سو سال پہلے ہی کر دیا تھا۔

Chinees reflexology نے تلوے میں کچھ پریشر پوائنٹ ایسے ثابت کئے ہیں کہ اگر ان پر دن میں کئی مرتبہ تھوڑا تھوڑا پریشر ڈالا جائے تو انسان کئی بیماریوں سے دور رہ سکتا ہے۔ جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے انکی Spots پر پریشر آتا ہے جو صحت کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز ایک مکمل روحانی، جسمانی اور سماجی صحت کے لئے اللہ کا بندوں کے لیے بہترین تحفہ ہے (بشکریہ اصلاح لکھنؤ)

طریقہ نذر، نیاز معصومین علیہم السلام

جس چیز پر نذر دینی ہو اسکو قبلہ رخ رکھیں اور خود بھی قبلہ رو رہیں پہلے تین مرتبہ درود پڑھیں پھر ہاتھ اٹھا کر بہ خلوص نیت تین مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھیں اور پھر ایک مرتبہ سورۂ الحمد اور تین مرتبہ سورۂ اخلاص پڑھیں اور جتنی بھی سورتیں پڑھنا چاہیں اور یہ کہیں جو کچھ تلاوت کیا ہے وہ آئمہ معصومین کی خدمت بابرکت میں ہدیۂ نذر ہوئے خصوصاً جن امامؑ کی نذر دینی ہے انکا اسم گرامی لے۔

طریقہ فاتحہ عام مومنین اول و آخر تین مرتبہ درود، درمیان میں ایک مرتبہ سورۂ الحمد اور تین مرتبہ سورۂ اخلاص پڑھیں۔ پھر یوں کہیں کہ ان سورتوں کا ثواب آئمہ معصومین علیہم السلام کی خدمت میں ہدیہ ہو اور جو ثواب ملے وہ فلاں بن فلاں کی روح کو پہنچیں۔ آمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ کا مجرب عمل

اکرام عباس کاظمی
کاظمی ہاؤس ٹی ٹاؤن شاہ اللہ دتہ اسلام آباد
0300-9491015

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم ہے اور اتنی نزدیک ہے جتنی آنکھ کی سفیدی آنکھ کی سیاہی کے نزدیک ہے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کا دل سورۂ یسین ہے اور سورہ یسین کا دل سلام قولا من رب رحیم ہے اور سلام قولا من رب رحیم کا دل سورۂ فاتحہ میں ہے اور سورہ فاتحہ کا دل بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دل ب کے نقطے میں ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ب کا نقطہ میں علی ہوں اور میری حیثیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نقطہ ب میں موجود ہے۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورۂ فاتحہ میں ہے جو کچھ سورۂ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے اور جو بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ اسکے نیچے باء کے نقطے میں ہے حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا وہ نقطہ میں ہوں۔ اگر میں اسکی تشریح کروں تو پتا نہیں کتنے ہزار صفحے کی کتاب تیار ہو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کام کے آغاز میں ہمارے شیعہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ترک کیا تو اللہ تعالی اسے کسی ناگوار عمل سے آزمائے گا۔ تفسیر انوار النجف میں ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اللہ تعالی اسکے لیے جنت میں ستر ہزار محل یاقوت کے بناتا ہے اس لیے ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں پڑھنے کا ثواب ہے وہاں بے شمار مسائل میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ بے شمار عمل موجود ہیں جو کہ مجرب عمل ہیں آج کا عمل بھی مجرب ہے پیش کر رہا ہوں یہ ایسا عمل ہے جسکے باا ثر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں بس سچے دل اور کامل اعتقاد سے اس عمل کو جو بھی کرے گا ان شاء اللہ تعالی اللہ پاک کے کلام سے فیض یاب ہوگا واضح رہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلید اجواب مقاصد ہے اور اللہ تعالی حق سبحانہ اس عمل کے اثر کو زائل نہیں فرماتا یہ عمل 19 دن کا ہے کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کی تعداد (19) ہے ہر جائز مقصد اور حل نہ ہونے والی کسی بھی مشکل کے لیے عمل کیا جاسکتا ہے عروج ماہ میں کسی بھی دن عمل شروع کیا جاسکتا ہے کوئی بھی فرصت کا وقت مقرر کرلیں مگر جو وقت پہلے دن مقرر کریں اس میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی عمل کی جگہ تبدیل ہو یعنی وقت اور جگہ دونوں کی پابندی کے ساتھ عمل شروع کرنے سے پہلے غسل کرلیں پاک صاف جگہ اور لباس ضروری ہے دوران عمل 19 دن تک کچا پیاز اور لہسن کچا کھانا منع ہوگا۔ جس مقصد حاجت اور مشکل کے لیے عمل کریں گے ان شاء اللہ کامیابی ہوگی اگر دوران عمل کامیابی ہو بھی جائے تو عمل مکمل کرنا ہوگا۔ عمل سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک اور پہلے دن 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور روزانہ 786 میں ایک کا اضافہ کرتے جانا ہے کیونکہ عمل 19 دن کا ہے تو آخری دن تعداد 805 تک ہو جائے گی روزانہ عمل پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی دعا مانگیں جب دعا مانگیں تو انتہائی عاجزی سے اگر آپ کے دل میں سوز آنکھوں میں حقیقی طلب کے آنسو ہوں گے تو قدرت کاملہ کی طرف سے آپ کا مقصد حل ہونے میں ذرا دیر نہ ہوگی عمل شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے یہ نماز صرف پہلے دن پڑھنی ہے روزانہ نہیں پڑھنی۔ نماز صبح کی نماز کی طرح ہی پڑھنی ہے۔ جب عمل ختم ہو تو خدا سے دعا مانگیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی حاجت درپیش ہو تو خدا سے اس طرح دعا مانگیں۔ اے اللہ! تجھ کو محمدؐ و علیؑ کا واسطہ تیرے نزدیک ان حضرات کی جو قدر و منزلت ہے اسی قدر و منزلت اور شان و عظمت کے ذریعہ میری حاجت کو پورا فرما ایسا کہنے سے اللہ تعالی بندے کی دعا قبول فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دائرہ بنا کر پاس رکھ سکتے ہیں کسی بھی حاجت کے لیے دائرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نقش بنا کر اس نقش کو بازو پر باندھ لیں ہر کام میں فتح یابی ہوگی ہر قسم کی پریشانی کا خاتمہ ہوگا روزگار کے ذرائع ملیں گے۔ ان شاء اللہ



قرآن پاک اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (یٰسین)

نازش رضا ایڈووکیٹ
0345-2995094

مومنین کرام السلام علیکم! بانیان و کارکنان امامیہ جنتری میرے اور اپنے متعلقین کی صحت و سلامتی و مغفرت کے لیے اس مضمون کو پڑھنے کے لیے درود بر محمدؐ و آل محمدؐ پڑھ لیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک اسلام کے تمام احکامات اصول و قواعد کا حامل ہے کوئی قاعدہ، کوئی اصول، اللہ کا حکم، کوئی علم، کوئی بھی فلاح کی بات غرض کچھ بھی قرآن سے باہر نہیں ہے یہ 30 سپارے، 114 سورتیں، 6666 آیات، کائنات کا اہم ترین کلام ہے کائنات کے تمام انسان و جنات مل کر اس جیسی ایک آیت نہیں بنا سکتے یہ قرآن پاک وہ کلام ہے جس میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو بھیجنے کا مقصد اور ان کی کاوشیں اور ان کی زندگی شامل ہے اس مقصد تخلیق میں کل مخلوقات پوشیدہ ہے اس قرآن میں اسمائے اعظم بھی ہیں قیامت تک سامنے آنے والے علوم، واقعات، حادثات، حالات، واقعات ہر سوال کا جواب ہر مشکل کا حل ہر مرض کا علاج غرض پورا دین اسلام اس میں پوشیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ بقدر گنجائش انسان کو اس کا علم عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک ایسی مقدس کتاب ہے جس کی آیات محکم بھی ہیں متشابہات بھی، ان کے ظاہری معنی بھی ہیں اور باطنی معنی بھی ہیں۔ باطنی معنی کی تشریح صرف وہی کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے اللہ کی طرف سے متعین ہوتے ہیں یعنی جو معصوم ہیں یعنی جنہوں نے مہد سے لحد تک کبھی کوئی گناہ یا معمولی سی غلطی بھی نہ کی ہو۔ اگر تشریح کرنے والا معصوم نہیں ہوگا تو اپنی من پسند تشریح کرے گا اور فرقے بنتے چلے جائیں گے جیسا کہ تاریخ گواہ ہے جتنے بھی فرقے بن چکے یا بنیں گے سب کا قرآن یہی ایک ہے۔ الغرض یہ قرآن ہی مکمل اسلام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسم اسلام ہیں قرآن مکمل تحریری اسلام ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل عملی اسلام ہیں۔ مومنین کرام آپ سب جانتے کہ سورۂ یٰسین قرآن کا دل ہے قرآن پاک مکمل اسلام اور مکمل اسلام کا دل یٰسین! (یہ سب جانتے ہیں کہ جسم کے لیے دل کی اہمیت کیا ہے) یٰسین تمام مخلوقات میں افضل ترین ہے یہ نام گرامی اللہ تعالیٰ کا کو اتنا پسند ہے کہ اپنے محبوب کو یٰسین یعنی اے سین کہہ کر مخاطب کیا سین بھی کیا نام ہے سبحان اللہ۔ اللہ کے نام کے قمری اعداد 3=2+1=12=6+6=66 = اللہ کے نام کا عدد بھی 3 اور سین نام بھی ایسا رکھا ہے = س + ی + ن = 60+10+50=120=1+2=3 سین کا عدد بھی 3 ہے سین میں حروف بھی 3 ہیں اللہ کے عدد بھی 3 ہیں۔ اگر یٰسین پر غور کریں تو ی اس ی ن۔ حروف بھی 5 ہیں۔ یٰسین کے عدد ملاحظہ فرمائیں 10+1+60+10+50=131=1+3+1=5 یٰسین کے عدد بھی 5 ہیں۔

❁ سورۂ یٰسین جس جائز مقصد کے لیے 3 مرتبہ روزانہ پڑھی جائے مقصد حاصل ہوگا ❁ مریض کو دم کر کے پلائیں شفا ہوگی ❁ حصول ثواب کے لیے پڑھی جائے تو 12 قرآن پاک اور بعض روایات میں 22 قرآن کا ثواب حاصل ہوگا ❁ قبرستان میں پڑھی جائے تو قبروں میں عذاب کم ہوگا ❁ مرحومین کو ایصال کیا جائے تو ان کے اعمال میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا ❁ کسی کو بدکرداری، بدزبانی سے روکنے کے لیے دم کر کے پلائیں۔
❁ مریض کے پاس بیٹھ کر پڑھی جائے تو صحت ہوگی یا موت کی سختیاں نہ ہوں گی۔

گمشدہ چیزوں کی تلاش

اکثر چیزوں کے گم ہو جانے سے لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ پس جس کو اس قسم کی پریشانی دوپہر سے پہلے پیش آئے وہ تین مرتبہ درج ذیل دعا پڑھ کر دستک دے یعنی تین مرتبہ ایک ہتھیلی دوسری ہتھیلی پر مارے پھر تلاش کرے ان شاء اللہ وہ شے مل جائے گی۔ اگر دوپہر کے بعد پریشانی پیش آئے تو اسی ترکیب سے دوسری دعا تین مرتبہ پڑھے اور دستک دے کر تلاش کرے۔

قبل دوپہر کی دعا	بسم اللہ الرحمن الرحیم اَصْبَحْتُ فِیْ اَمَانِ اللّٰہِ وَاَمْسَیْتُ فِیْ جِوَارِ اللّٰہِ
بعد دوپہر کی دعا	بسم اللہ الرحمن الرحیم اَمْسَیْتُ فِیْ اَمَانِ اللّٰہِ وَاَصْبَحْتُ فِیْ جِوَارِ اللّٰہِ

عمل حاجت روائی نادِ علیؑ

تحریر
راجا اعجاز حسین (کراچی)
0345-2887962
0321-2542434

قارئین امامیہ جنتری السلام علیکم، قارئین کی خدمت میں اس بار نادِ علی کا مجرب عمل پیش کر رہا ہوں جس میں مشکلات کا حل موجود ہے۔ خصوصاً یہ عمل حصول رزق کے لئے لاجواب ہے اور برسہا برس سے میرے مجربات سے ہے۔ نادِ علی کے فضائل سے ہر مومن آگاہ ہے۔ اگر نادِ علی کے فضائل لکھیں تو جنتری کے صفحات کم پڑ جائیں گے۔ اگر نیت جائز شرعی حاجت کی ہو تو انسان اس عمل کے کرنے سے کبھی اپنے مقصد میں ناکام نہیں ہوا ہے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک عمل کے صدقے ہر مومن، مومنہ کی مشکلات حل کرے۔ آمین

نادِ علی صغیر

نَادِ عَلِيًّا مَظْهَرَ الْعَجَائِبِ تَجِدْهُ عَوْنًا لَّكَ فِي
النَّوَائِبِ. كُلُّ هَمٍّ وَّغَمٍّ سَيَنْجَلِيْ بِعَظَمَتِكَ
يَا اَللهُ بِنُبُوَّتِكَ يَا مُحَمَّدُ وَبِوَلَايَتِكَ
يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ اَدْرِكْنِيْ

نمبر1 نادِ علی کو بسط حروف کریں۔

ن-ا-د-ع-ل-ی-ا-م-ظ-ه-ر-ا-ل-ع-ج-ا-ب-ت
ج-د-ه-ع-و-ن-ا-ل-ک-ف-ی-ا-ل-ن-و-ا-ب-
ک-ل-ه-م-و-غ-م-س-ی-ن-ج-ل-ی-ب-ع-
ظ-م-ت-ک-ی-ا-ا-ل-ل-ه-ب-ن-ب-و-ت-ک
ی-ا-م-ح-م-د-و-ب-و-ل-ا-ی-ت-ک-ی-ا-ع-ل-
ی-ی-ا-ع-ل-ی-ی-ا-ع-ل-ی-

نمبر۲: اب ان حروف کو تخلیص کریں یعنی جو حروف دو بار یا سہ مرتبہ آئے ان کو کاٹ دیں جو حروف تخلیص کے بعد برآمد ہوئے وہ یہ ہیں۔

ن-ا-د-ع-ل-ی-م-ظ-ه-ر-ج-ب-ت-و-ک-ف-
غ-س-ح-

جو حروف برآمد ہوئے 19 ہیں، اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بھی 19 حروف ہیں۔

نمبر۳: اب ان حروف سے عمل تیار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ سے ہر حروف کے اسم اعظم لیں۔

ن سے نافعُ، ا سے اللہُ، د سے دیانُ، ع سے علیُ، ل سے لطیفُ، ی سے یسیرُ، م سے مبینُ، ظ سے ظاهرُ، ه سے هادیُ، ر سے رحیمُ، ج سے جلیلُ، ب سے باسطُ، ت سے توابُ، و سے واسعُ، ک سے کریمُ، ف سے فتاحُ، غ سے غفورُ، س سے سلامُ، ح سے حبیبُ۔

عروج ماہ میں اتوار کے روز ساعت مشتری میں زعفران کی روشنائی سے نقش لکھیں یا پھر چاندی کے پترے پر کندہ کر لیں جو شخص خود تیار نہ کر سکے وہ کسی صاحب علم و مومن یا مومنہ سے تیار کروالے۔ نقش یا لوح کو اپنے سامنے رکھ کر بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مسلسل 19 یوم ورد کر کے لوح پر دم کریں۔ نقش کے نیچے اپنا نام بمعہ والدہ اور مقصد ضرور لکھیں۔ آپ جس مقصد کے لیے بھی عمل کریں گے۔ ان شاء اللہ 19 یوم میں آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔

اعداد نادِ علی 6427 - 30 = 6397 / 4 = 1599 باقی 1 بچا کسر خانہ 13 میں 1 کا اضافہ ہوگا۔

نمبر	ورد	تعداد ورد
1	بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نافعُ بحق نادِ علی صغیر (پوری ورد کرنی ہے)	84بار
2	بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہُ بحق نادِ علی صغیر (پوری ورد کرنی ہے)	66بار
3	بسم اللہ الرحمن الرحیم یا دیانُ بحق نادِ علی صغیر (پوری ورد کرنی ہے)	65بار
4	بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علیُ بحق نادِ علی صغیر (پوری ورد کرنی ہے)	110بار
5	بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لطیفُ بحق نادِ علی صغیر (پوری ورد کرنی ہے)	129بار
6	بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یسیرُ بحق نادِ علی صغیر (پوری ورد کرنی ہے)	100بار
7	بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مبینُ بحق نادِ علی صغیر (پوری ورد کرنی ہے)	102بار
8	بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ظاهرُ بحق نادِ علی صغیر (پوری ورد کرنی ہے)	98بار
9	بسم اللہ الرحمن الرحیم یا هادیُ بحق نادِ علی صغیر (پوری ورد کرنی ہے)	56بار
10	بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحیمُ حق نادِ علی صغیر (پوری ورد کرنی ہے)	96بار
11	بسم اللہ الرحمن الرحیم یا جلیلُ بحق نادِ علی صغیر (پوری ورد کرنی ہے)	73بار

حفاظت کے لیے عمل

فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

زیب النساء خواجہ۔ مغل حویلی موچی گیٹ لاہور

محترم قارئین کرام السلام علیکم۔ تحفہ یا علی مدد۔

سب سے پہلے آغا افتخار حسین صاحب کی بے حد ممنون ہوں جنکی حوصلہ افزائی میرے لیے یہ مضمون آپکی خدمت میں پیش کرنے کا سبب بنی۔ اللہ تعالیٰ انکی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور وہ اسی طرح تعلیمات محمدؐ و آل محمدؐ کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ آمین!

آج میں آپکی خدمت میں حفاظت کا ایک مختصر سا عمل پیش کر رہی ہوں امید ہے کہ تمام مومنین و مومنات اس سے مستفید ہوں گے۔ ان شاء اللہ

سید ابن طاؤس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جو شخص ایسی حالت میں صبح کرے کہ اس کی دائیں ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہو تو وہ کسی اور چیز کی طرف نظر کرنے سے پہلے انگوٹھی کے نگینے کو ہتھیلی کی طرف پھیرے اور اس پر نگاہ رکھ کر سورۂ قدر کو پڑھے اور اسکے بعد کہے

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَكَفَرْتُ بِالْجِبْتِ
وَالطَّاغُوْتِ وَاٰمَنْتُ بِسِرِّ اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّعَلَانِيَتِهِمْ
وَظَاهِرِهِمْ وَبَاطِنِهِمْ وَاَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ

ترجمہ میں ایمان رکھتا ہوں اللہ پر جو یکتا ہے اسکا کوئی شریک نہیں اور انکار کرتا ہوں بت اور طاغوت کا۔ اور ایمان رکھتا ہوں محمدؐ و آل محمدؐ کے نہاں و عیاں پر اور انکے ظاہر و باطن پر اور انکے اول و آخر پر۔

پس جو شخص یہ عمل کرے گا خدائے تعالیٰ اس دن کی شام تک آسمان سے اترنے والی چیزوں، آسمان کی طرف جانے والی چیزوں، زمین میں داخل ہونے والی چیزوں اور زمین سے نکلنے والی چیزوں کے شر سے اُسے محفوظ رکھے گا اور وہ خدا و دوستان خدا کی حفاظت میں رہے گا۔

فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

اولاد نرینہ کے لیے پریشان نہ ہوں اگر آپ کی 2 یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو آپ اللہ کے عطا کیے ہوئے علم اور قرآنی آیات سے اولاد نرینہ کے علاج کے لیے رجوع کریں۔ سید یاس حسین زیدی
0311-4546669
ھدیہ

12	بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا باسط بحق ناد علی صغیر (پوری ورد کرنی ہے)	72
13	بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا تواب بحق ناد علی صغیر (پوری ورد کرنی ہے)	85
14	بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا واسع بحق ناد علی صغیر (پوری ورد کرنی ہے)	47
15	بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حفیظ بحق ناد علی صغیر (پوری ورد کرنی ہے)	90
16	بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا فتاح بحق ناد علی صغیر (پوری ورد کرنی)	93
17	بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا غفور بحق ناد علی صغیر (پوری ورد کرنی ہے)	80
18	بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا سلام بحق ناد علی صغیر (پوری ورد کرنی ہے)	131
19	بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حسیب بحق ناد علی صغیر (پوری ورد کرنی ہے)	103

لوح مبارکہ یہ ہے



۱۵۹۹	۱۶۱۳	۱۶۰۹	۱۶۰۶
۱۶۱۰	۱۶۰۵	۱۶۰۰	۱۶۱۴
۱۶۰۴	۱۶۰۷	۱۶۱۵	۱۶۰۱
۱۶۱۲	۱۶۰۲	۱۶۰۳	۱۶۰۸

علی حسین بن کلثوم کو ترقی رزق عطا ہو

نوٹ: ہر ماہ کی 15 اور 16 تاریخ کو لاہور میں بالمشافہ ملاقات کریں۔

Email: raja.ejaz.hussain@gmail.com

کھجلی چنبل پھوڑا خارش اور ناسور کیلیے

نسخہ کھجلی و خارش کے لئے گندھک کے پاؤڈر کو سرسوں کے تیل میں حل کر کے مالش کرنا مفید ہے ☆ خارش و چنبل اور پھوڑوں کیلیے یہ دعا پڑھی جائے اور لکھ کر بیمار کے گلے میں ڈالی جائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ
خَبِيْثَةِ ۨاجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ مِنْهَا
خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى اَللّٰهُ اَكْبَرُ
وَاَنْتَ لَا تَكْبَرُ اَللّٰهُ يَبْقٰى وَاَنْتَ لَا تَبْقٰى وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

بفضل خدا اس آیت مجیدہ میں دعا کے تلاوت کرنے سے کھجلی خارش کھجلی و پھوڑے اور ناسور سے جلد آرام آ جاتا ہے

اسم اعظم اَلْعَلِیُّ

تحریر و تحقیق
ظہیر عباس
مکان نمبر H-13 شیٹ نمبر 27
ایکسٹینشن ماڈل کالونی، ملیر کراچی۔
E-mail:zabbas693@gmail.com 0333-3854175 0341-7571679

قارئین امامیہ جنتری کیلئے 99 اسمائے الحسنیٰ کی مالا میں سے **اسم اعظم اَلْعَلِیُّ** لکھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔

اللہ تعالیٰ کے 99 اسمائے مبارکہ میں سے یہ اسم مبارک اَلْعَلِیُّ بھی ہے۔ جس کے معنی ہیں بلندی والا، بزرگی و برتری والا، بڑائی و توانائی والا یعنی وہ ذات جو سب سے برتر ہے سب سے بزرگ ہے۔ سب سے بلند مرتبہ ہے، سب سے توانا ہے، برتری کی کئی صورتیں ہیں۔ مثلاً مرتبہ میں بلند ہونا، صلاحیتوں میں برتر ہونا، مال و دولت میں سب سے بڑا ہونا، علم و حکمت میں سب سے عظیم ہونا، حکمرانی میں سب سے بالا ہونا، توانائی اور طاقت میں سب سے آگے ہونا، ان میں کسی لحاظ سے بھی دیکھیں پروردگار ہر لحاظ سے سب سے بڑا ہے، وہ اتنا بلند ہے کہ انسان کی قوت ادراک سے بھی بلند اس کے تصور اور خیال سے بھی بہت آگے، مخلوقات میں آسمان اور عرش و کرسی بھی شامل ہے مگر وہ ان سب سے بلند ہے۔ اس کی حکومت میں ساری کائنات شامل ہے۔ اس اسم مبارک کے تحت پانچ تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں۔

(۱) اَلْعَلِیُّ: وہ ذات ہے جس کے رتبہ سے بڑا کوئی رتبہ نہیں ہے اور اس کے مرتبہ سے تمام مراتب نیچے ہیں۔

(۲) اَلْعَلِیُّ: یعنی "بلند ذات" کے ہیں۔ بلند ہونے والے کو 'عالی' اور 'علی' کہا جاتا ہے۔ وہ ذات جو اپنی مخلوق پر اپنی قدرت کی وجہ سے بلند ہے۔

(۳) اَلْعَلِیُّ: وہ ذات ہے جو اپنی مخلوق سے برتر ہے اور اس بات سے پاک ہے کہ اسکا کوئی مثل ہو۔

(۴) اَلْعَلِیُّ: کا مطلب اَلْعَالِیْ اَلْقَاہِرُ ہے یعنی بلند و غالب

(۵) اَلْعَلِیُّ: اللہ تعالیٰ کے ارشادات اَلْعَلِیُّ اَلْکَبِیْرُ یعنی وہ بلند ہے بڑائی والا ہے اَلْعَلِیُّ اَلْعَظِیْمُ یعنی وہ بلند مرتبے والا ہے۔
اَلْکَبِیْرُ اَلْمُتَعَالُ یعنی وہ بڑا ہے بلند ہے۔

سب ایک ہی معنی ہیں۔ اسم مبارک اَلْعَلِیُّ قرآن حکیم میں آٹھ مرتبہ آیا ہے۔ دو دفعہ عظیم کے ساتھ، چار دفعہ الکبیر کے ساتھ اور دو دفعہ حکیم کے ساتھ آیا ہے۔ جس میں سے تین یہ ہیں۔

(۱) وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ
(۲) وَاَنَّ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ
(۳) فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ

اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے تمام پستیوں سے پاک ہے تمام مخلوقات سے بلند ہے اور یہ اسکی بلندی اس وجہ سے ہے کہ وہ صفت کمال کی جامع ہے اور اس وجہ سے ہے کہ اس کی حکمت و دانش بھی سب سے بالا ہے اور اسکے احکام سب پر حاوی اور اس کی قدرت سب پر غالب ہے۔ شب معراج کے وقت حضور اکرمؐ نے جو تسبیح سنی ان تسبیحات میں یہ نام بھی مذکور ہیں۔

سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الْاَعْلٰى سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى

پاک ہے وہ ذات جو بلند، سب سے برتر، پاک اور عالی شان ہے۔

اسم مبارک اَلْعَلِیُّ اس کے نام اَلْعَظِیْمُ سے مشابہت رکھتا ہے لیکن اہل علم نے اس میں فرق کرتے ہوئے یہ کہا کہ عظیم وہ ذات ہے جو تمام صفات کمال کی جامع ہے لیکن علی وہ ذات ہے جو ہر نقص سے ماورا، ہر عیب سے بالاتر ہے۔ اس لئے اہل علم نے کہا

اَلْعَلِيُّ الرَّفِيْعُ فَوْقَ خَلْقِهِ الْمُتَعَالِيْ مِنَ الْاَشْبَاهِ وَالْاَنْدَادِ

ترجمہ کہ وہ اپنی تمام مخلوق سے بلند ہے اور ہر طرح کی مشابہت اور ہم سری سے بالا ہے

آپ نے مضمون میں مطالعہ کر لیا ہے کہ یا علیُّ کے کیا معنی ہیں پھر بھی چند ایک فوائد لکھ رہا ہوں۔ اس اسم کے پڑھنے سے سب فاسد خیالات کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ یہ سب چیزیں جھوٹی ہیں اور اللہ اَلْعَلِیُّ اَلْعَظِیْمُ ہے۔

وہ ہر بلندی سے بلند اور ہر بڑائی سے بڑا ہے وہی سب کو پالتا ہے اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں جس سے مانگا جائے۔ جو بھی مومن یا مومنہ لوح یا علیُّ سے کام لے کسی ستارے کے شرف یا اوج یا قران السعدین یا نوروز عالم افروز میں چاندی کے پترے پر تیار کر کے اپنے پاس رکھے اور چلتے پھرتے ۱۱۰ مرتبہ اس اسم مبارک کو چالیس دن تک اپنے ورد میں رکھیں، ترقی رزق، ترقی کاروبار، ترقی ملازمت، محبت

مابین بیوی و شوہر، بہن بھائی، ماں بیٹا، باپ بیٹا اور خاص طور پر وہ بچیاں جن کی شادی میں طرح طرح کی رکاوٹیں درپیش ہیں۔
اس عظیم اسم اعظم **یاعلیؑ** کی لوح سے فوائد حاصل کریں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قول

شمکائیل جبرائیل شفقیائیل

ودود 1	وھاب واحد 14	ابطحی 11	احد واجد 8
ھو ھادی 12	واجب جواد 7	طیب 2	واحد لحد 13
حاوی 6	وحید 9	طہ طیب 16	حبیب 3
اجل 15	طبیب 4	ھو احد 5	ھو حی 10

دردائیل میکائیل لوبیائیل

اگر مضمون کی کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو بذریعہ ڈاک یا فون وضاحت طلب کر سکتے ہیں

رجال الغیب معلوم کرنے کا آسان طریقہ

نقوش لکھتے وقت یہ دیکھیں کہ رجال الغیب کس طرف ہیں۔ اگر یہ سامنے ہونگے تو کام میں رکاوٹ ہوگی۔ اس لیے جب عمل کے لیے بیٹھیں تو ایسی طرف منہ کریں کہ رجال الغیب آپ کی پشت پر ہوں۔ نیچے نقش میں سمت اور چاند کی تاریخیں درج ہیں۔



رجال الغیب سے عملی استعانت حاصل کرنے کے لیے عمل سے پہلے درج ذیل دعا پڑھے

اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَارِجَالَ الْغَیْبِ اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا اَرْوَاحَ الْمُقَدَّسَۃِ اَغِیْثُوْنِیْ وَانْظُرُوْا اِلَیَّ بِنَظْرَۃٍ یَارُقَبَآءُ یَانُجَبَآءُ یَاَبْدَالُ یَااَوْتَادُ

انسانیت کی خدمت
اپنے مسائل کے قرآنی حل کے لیے رابطہ کریں
سید امتیاز حسین رضوی 0321-4352074
صبح 10
تا
شام 4 بجے

محمدؐ و آلِ محمدؐ کا فیض

الیکٹرو ہومیو ڈاکٹر حکیم زوار محمد ابصار حیدر (حیدری)

محترم قارئین کرام! کچھ عرصہ کی غیر حاضری کے بعد چند آزمودہ تحائف قبول فرمائیے

خونی و بادی بواسیر خونی و بادی بواسیر کے لیے کئی بار کا آزمودہ نسخہ حاضر خدمت ہے۔ قلمی شورہ 2 تولہ، نمک سیاہ 2 تولہ، رس انڈیا 2.5 تولہ، فلفل سیاہ 2.5 تولہ، مغز تخم نیم 1 پاؤ۔ تمام چیزوں کا سفوف بنا کر پانی کی مدد سے نخودی گولیاں تیار کر لیں۔

ترکیب استعمال تھوڑی سی خاک شفا ایک بوتل عرق گلاب میں مکس کر لیں 2 چمچ خاک شفا ملا عرق گلاب ایک گلاس پانی میں ملا کر روزانہ 2 گولی صبح اور شام کھانے کے بعد استعمال کریں اور سورۃ فاتحہ 9 مرتبہ اور سورۃ اعلیٰ کا اپنے اوپر دم کریں۔ نیز انجیر کا استعمال بھی کریں کیونکہ اسکا استعمال سنت نبوی ﷺ بھی ہے۔ اور یہ نقش شہادت کی انگلی سے پیٹ ایک مرتبہ پر لکھیں

ل ٹ ت
ن

اولاد کا نہ ہونا یا کمی اولاد خالق اکبر سے دعا ہے کہ محمدؐ و آل محمدؐ کے وسیلہ سے تمام مومنین و مومنات کی جھولیاں اولاد جیسی نعمت سے بھر جائیں آمین بحق معصوم شہزادہ علی اصغرؑ ابن امام حسینؑ مظلوم کربلا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کہتا ہے کہ اولاد کی کمی ہے وہ مرغی کا انڈہ پیاز کیساتھ کھائے اور استغفار کا ورد کرے نیز فرمان معصومؑ ہے کہ جو شخص زرد یا سفید جوتا پہنے گا اس کے بچے زیادہ ہوں گے۔ سفید جوتا عزت و توقیر میں اضافے کا سبب ہے۔ نیز روزانہ 116 مرتبہ یا قوی کا ورد کریں مع اول و آخر 11-11 مرتبہ درود شریف۔

ہر مسئلے کا تیر بہدف حل 2 رکعت نماز نفل ہدیہ حضرت امام حسین علیہ السلام پڑھ کر تسبیح بی بی پاک سلام اللہ علیہا کے بعد کر کے بغیر کسی سے بات کیے 128 مرتبہ یاحسینؑ ابن علیؑ مددی پڑھیں۔ اول و آخر 11-11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔

زوار محمد ابصار حیدر حیدری مطب، زرنال باڑہ سی ملہ گنگ
0306-5286954,0345-5628512

خیر و برکت کی چند مخصوص دعائیں

سید تنویر عصری حیدر نقوی (ایم اے)
معرفت اویس ٹریڈرز H-377
سردار عالم روڈ راولپنڈی
0333-5398050

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ قَبْلَ كُلِّ اَحَدٍ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ بَعْدَ

(ترجمہ) حمد ہے خدا کے لیے ہر ذکر سے پہلے اور حمد ہے خدا کی ہر ذکر کے بعد) درود و سلام ذوات مقدسہ ہستیوں پر جن کا وجود خلقت کائنات کا سبب بنا۔ دینی علوم سے محرومی کے ذمہ دار والدین ہیں جو بروز محشر جوابدہ ہوں گے۔ بچوں کے اکثر گناہوں کا ذمہ دار والدین کو ٹھیرایا جائے گا (حضور اکرم ﷺ) نیز آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 خصائص سے آراستہ کرو ✿ اپنے رسول کی محبت ✿ اہل بیت سے محبت ✿ تلاوت قرآن پاک ترجمہ کیساتھ۔ مگر افسوس یہ ہے کہ پوری ملت منفی سوچوں سے مثبت تبدیلیوں کی خواستگار ہے جو کہ ناممکنات میں سے ہے۔ حضرت محمد ﷺ کا یہ فرمان کہ "جب میری امت کے گناہ کثرت اختیار کر لیں گے تو اللہ تعالی میری امت کو مہنگائی کے عذاب میں مبتلا کر دے گا اور ان پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا" اس وقت ہمیں تدبر و فکر کی ضرورت ہے۔

اسی سبب امام خمینیؒ نے ارشاد فرمایا کہ ✿ کبھی علم توحید انسان کو دوزخ میں ڈال دے گا، کبھی علم عرفان کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جائے گا، کبھی علم فقہ اور کبھی علم اخلاق کے باعث صرف علم سے کام نہیں بنتا جب تک تزکیہ نفس نہ ہو (تو جوانوں کو دعوت فکر ہے) ✿ علم و تہذیب نفس ہی انسان کو مقام انسانیت پر فائز کرتے ہیں۔ ✿ جس نفس کی تہذیب و اصلاح نہ ہوئی ہو اس میں علم ایک تاریک حجاب بن جاتا ہے ✿ اگر علم تہذیب کے بغیر ہو تو اس کا نقصان جہل سے زیادہ ہے۔ اس تمہید کے بعد سورۃ الفرقان آیت نمبر 77 میں ارشاد باری تعالی ہے کہ "اے رسول ﷺ آپ فرما دیں کہ اگر تم دعا نہ کرتے ہوتے تو میرا پروردگار تمہاری پرواہ نہ کرتا" یعنی واجبات کی ادائیگی کے بغیر قبولیت دعا کا تصور عبث ہے۔

چند تعقیبات درج ذیل ہیں وقت کے اعتبار سے 11-3-5 مرتبہ اپنی عادت بنا کر دونوں جہانوں کی سعادتوں سے جھولی بھر لیں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَمَا هُوَ اَهْلُهٗ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ

اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِى الْهُدٰى وَثَبِّتْنِىْ عَلَيْهِ وَاحْشُرْنِىْ عَلَيْهِ اٰمِنًا (امام علی رضا) (ترجمہ: خداوند مجھے ہدایت عطا فرما اور اس پر ثابت قدم رکھ اور اس پر ایمان کیساتھ محشور فرما)

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ نِعْمَةٍ كَانَتْ اَوْ هِىَ كَائِنَةٌ (اللہ کے نام سے جو رحمن و رحیم ہے حمد کل ہے اس اللہ کے لیے ہر اس نعمت پر جو ہے یا ہوگی)

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ (پاک ہے خدا اور حمد خدا کے لیے ہی ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدا کے اور وہ بزرگ تر ہے اور نہیں کوئی حرکت و قوت مگر جو خدائے بزرگ و برتر سے ہے۔

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ (3 مرتبہ)

يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ يَا لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ فَاكْفِنِىْ مَاۤ اَهَمَّنِىْ وَلَا تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ (اے زندہ اے پائندہ اے کہ نہیں معبود سوائے تیرے بواسطہ تیری رحمت کے فریاد کرتا ہوں پس مشکل میں میری مدد فرما اور مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر)

اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْنِىْ فِىْ كُلِّ خَيْرٍ اَدْخَلْتَ فِيْهِ مُحَمَّدًا وَّاٰلَ مُحَمَّدٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ اَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدًا وَّاٰلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ (اے معبود! مجھے ہر نیکی میں داخل فرما

جس میں تو نے محمدؐ و آل محمدؐ کو داخل فرمایا ہے اور مجھے ہر اس برائی سے بچا کہ جس سے تو نے محمدؐ و آل محمدؐ کو محفوظ و مامون رکھا خدا کی رحمت ہو محمدؐ و آل محمدؐ پر۔ اللہ پاک ہے ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ ہی بزرگ تر ہے۔

یہ دعا مفاتیح الجنان سے پیش خدمت ہے براہ مہربانی اس کے ترجمہ کو سکون اور تسلی سے غور کر کے کم سے کم 5 مرتبہ دہرائیں اور غور کریں کہ کیا یہ دعا اس دہشت گردی کے دور میں آپ کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ اگر توفیق خداوندی سے جواب مثبت میں ہو تو اسکو اپنی نمازوں کی زینت بنانے کی کوشش کریں خصوصاً فجر کی نماز کے بعد اور بچوں کو زبانی یاد کروا کر ان کی عادت بنوائیں۔

أُعِيذُ نَفْسِي وَدِينِي وَأَهْلِي وَمَالِي وَ وَلَدِي وَإِخْوَانِي فِي دِينِي وَمَا رَزَقَنِي رَبِّي وَ خَوَاتِيمَ عَمَلِي وَمَنْ يَعْنِينِي أَمْرُهُ بِاللّٰهِ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ الصَّمَدِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَبِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَبِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

ترجمہ: میں اپنے نفس، اپنے دین، اپنے اہل، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے دینی بھائیوں کو اور اپنے رب کے دیئے ہوئے رزق، اپنے عمل کے انجام اور جس کسی سے تعلق رکھتا ہوں ان سب کو خدائے واحد و یکتا کے بے نیاز کی پناہ میں دیتا ہوں کہ جس نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ جنا گیا ہے اور نہ کوئی اسکا ہمسر ہے، میں انکو صبح کے مالک کی پناہ میں دیتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور اندھیری رات کے شر سے جب چھا جائے۔ گرہوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے۔ میں ان سب کو انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے معبود کی پناہ میں دیتا ہوں۔ شیطان کے وسوسوں کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ جنوں میں سے یا انسانوں میں سے ہو

درج ذیل دعا کو غور و فکر سے وقت دے کر اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

ترجمہ: خدا کی ذات اور اسکے ذکر کیساتھ اے معبود محمدؐ و آل محمدؐ پر رحمت نازل فرما اور مومن مردوں اور عورتوں کی بخشش فرما دے۔

واجب نمازوں کے بعد اس کی ایک تسبیح کی ادائیگی خیر کثیر کا حصول ثابت ہوگی۔ **نوٹ:** اس درج بالا دعا کو جنازے میں شریک لوگوں کو اپنی زبانوں کی زینت بنانا چاہیے نیز قبرستان میں قیام کے دوران دنیاوی گفتگو کی بجائے اسکی ادائیگی اجر کثیر کا سبب ہوگی جبکہ قبرستان میں دنیاوی گفتگو سے 70 سال کی عبادت کا ثواب ختم ہو جاتا ہے (حضور اکرمؐ)

درج بالا خیر کثیر ذخیرہ "آخرت کے بعد" عنوان سے ربط دیتے ہوئے عرض ہے کہ قرآن کریم کی مندرجہ ذیل سورتوں کو قرآن کریم سے دیکھ کر ترجمے سے تلاوت کی سعادت اور انکے نقوش کو اپنے پاس رکھنا انتہائی تیز تاثیر کا حامل ثابت ہوگا۔ وسعت رزق کے لیے

✿ سورۂ حجر ✿ سورۂ مزمل ✿ سورۂ الّیل ✿ سورۂ دہر ✿ سورۂ قٓ والقرآن المجید ✿ سورۂ واقعہ ✿ سورۂ یٰسٓ اور والصّٰفّٰت کو ملا کر جمعہ کے دن پڑھنا ✿ الکاثر قرآن پاک کی 5 آیات کی تلاوت کیساتھ کسی ایک سورۂ کی تلاوت عادت بنالیں۔

اسی ضمن میں 3 مخصوص دعائیں ایک جناب عیسیٰؑ سے منسوب ہے۔ ایک امام جعفر صادقؑ سے اور ایک دعا امیر المومنین حضرت علیؑ ابن ابی طالبؑ کی ہے جو پیش خدمت ہے عربی متن سے پہلے ان دعاؤں کے ترجموں کو اتنا پڑھیں کہ مقصد ذہن نشین ہو جائے فجر، عصر اور عشاء کی نماز کے بعد ایک دعا کی عادت بنالیں۔ سید سعید علی بن فضل اللہ حسینی راوندی کی کتاب "نثر اللئالی" سے منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت عیسیٰؑ سے اپنے مقروض ہونے کی شکایت کی تو حضرتؑ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو۔

اَللّٰهُمَّ يَا فَارِجَ الْهَمِّ وَمُنَفِّسَ الْغَمِّ وَ مُذْهِبَ الْأَحْزَانِ وَ مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ يَا رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا أَنْتَ رَحْمٰنِي وَ رَحْمٰنُ كُلِّ شَيْءٍ فَارْحَمْنِي رَحْمَةً تُغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ وَتَقْضِي بِهَا عَنِّي الدَّيْنَ

ترجمہ: اے معبود! اے اندوہ ہٹانے والے اے غم کے دور کرنے والے اور اے رنج و غم کے مٹا دینے والے اے ناچاروں کی دعائیں قبول کرنے والے اے دنیا و آخرت میں رحمت کرنے والے اور دونوں جہانوں میں مہربان تو مجھ پر رحمت کرنے والا اور ہر چیز پر رحمت کرنے والا ہے

پس مجھ پر ایسی رحمت فرما کہ جس سے تو مجھے اپنے غیر کی رحمت سے بے نیاز کر دے اور اسکے ذریعے میرا قرض ادا کر دے۔

امام جعفر صادقؑ سے منقول ہے کہ ادائے قرض کے لیے دعا پڑھو:

اَللّٰهُمَّ لَحْظَةٌ مِّنْ لَحَظَاتِكَ تُيَسِّرُ عَلٰى غُرَمَائِيْ بِهَا الْقَضَاءَ وَتُيَسِّرُ لِيْ بِهَا الْاِقْتِضَاءَ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

اے میرے معبود تیری نظروں میں سے ایک ہی نظر میرے قرض خواہوں کا قرض ادا کر دے گی اور ان کے تقاضے مجھ پر ہلکے کر دے گی کیونکہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ جلیل القدر دعا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالبؑ سے منسوب ہے اسکو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ بِحَقِّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَنْ تَرْحَمَنِيْ بِلَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ بِحَقِّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَنْ تَرْحَمَنِيْ بِلَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ يَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَنْ تَغْفِرَ لِيْ بِلَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام اللہ تعالیٰ کے جو بخشش کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے میرے پالنے والے۔ اے میرے پالنے والے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود مگر تو اس کلمے کی برکت سے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پھر مہربانی فرما دے اے وہ ذات کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پھر مہربانی فرما دے اے پالنے والے تو پھر مہربانی فرما دے اے وہ ذات کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ہی معبود برحق ہے میں تجھ سے اس کلمے کے ذریعے سوال کرتا ہوں تو میرے گناہ بخش دے گا

نوٹ اللہ کے فضل و کرم اور محمد و آل محمد کی سرپرستی اور عنایت کے سبب بچوں کے نام اور اسم اعظم نکالنے کے علاوہ محدود پیمانے پر ہر قسم کی انگشتریاں، کلمہ طیبہ کے چھلے، قاضی الحاجات انگشتری، نقوش، الواح ستاروں کے طلسمات، جفر جامع کا صفحہ، تکسیرات جفری، شرف مشتری میں تیار طلسم صحت و دولت بھی موجود ہے شائقین فیض اٹھا سکتے ہیں۔

تنویر عصری ویلفیئر ٹرسٹ واہ کینٹ
0320-5398050

التماس سورہ فاتحہ برائے ایصال ثواب مولانا سید ذوالفقار حسین نقوی (لاہور) جو قضائے الٰہی سے انتقال فرما گئے ہیں (ادارہ)۔

نماز کُن فَیَکُون

علامہ سید حسن عسکری نقوی (مشہد ایران)
فون 0098 9153106265, 0300 8104565

اگر کسی کا اہم ترین کام یا مشکل ہو بیماری یا تنگدستی ہو۔ شب جمعہ کو غسل کرے اور خلوص کامل کے ساتھ اس عمل کو انجام دے۔

طریقہ عمل ۴ رکعت نماز (۲،۲) رکعت کر کے ادا کرے۔

پہلی رکعت میں الحمد کے بعد (۱۰۰) مرتبہ کہے، وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ **المومن ۴۴**

دوسری رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد ۱۰۰ مرتبہ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ؕ پڑھ کر نماز مکمل کرے۔ **الصف ۱۳**

پہلی رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد (۱۰۰) مرتبہ کہے۔ اَلَاۤ اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ **الشوریٰ ۵۳**

دوسری رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد (۱۰۰) مرتبہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا پڑھ کر نماز مکمل کریں

کسی سے کلام کیے بغیر ۱۰۰ مرتبہ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ۔ پڑھ کر سجدے میں سر رکھ کر سو مرتبہ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اس کی حاجت پوری ہو جائیگی۔ انشاء اللہ

برائے دفعیہ نظر بد

(1) ان اسماء کو پڑھ کر دم کرے اور زعفران سے لکھ کر پلائے اول و آخر 14 مرتبہ درود پڑھے

يَا حَسِيْبُ يَا حَفِيْظُ يَا بَرُّ يَا مَانِعُ يَا مُنِيْرُ يَا خَلِيْلُ
يَا حَلِيْمُ يَا مُرْتَضٰى

(2) ایک مرغی کا انڈا لیکر بچے کے سر سے لگا کر یہ دعا 7 مرتبہ پڑھیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا مَّلَّغَ لَوْ

پھر اپنی ہتھیلی پر رکھ کر دھنیے کی دھونی انڈے کو دیں اور سورۃ اخلاص پڑھتے جائیں۔ اگر نظر ہے تو انڈہ ہتھیلی پر کھڑا ہو جائے گا تب انڈے کو توڑ کر دیکھیں اگر اندر سرخ خون کے قطرے ملیں تو پھر اسی انڈے کو نظر زدہ کی پیشانی پر مالش کر دیں۔ کیونکہ یہ نظر لگنے کا ثبوت ہے ورنہ کوئی بیماری ہے

فہم القرآن

علی عباس ابن علی اکبر (پشاور شہر)

0315-9894472, 0302-5582669
0300-5831879

قارئین امامیہ جنتری السلام علیکم! امامیہ جنتری میں چھپنے والے مضمون فہم القرآن جو کئی سالوں سے میرے والد بزرگوار علی اکبر کربلائی مرحوم لکھا کرتے تھے 13 جنوری 2017 کو انتقال کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جوار معصومینؑ میں جگہ عنایت فرمائے۔ آمین!

میں مشکور ہوں سرپرست امامیہ جنتری آغا افتخار حسین صاحب کا جنکی خدمات کے ثمر سے آپ قارئین کرام تک بہترین اعمال و وظائف پڑھنے اور عمل کرنے کو ملتے ہیں۔ سال نو میں آپکی خدمت میں اپنے والد بزرگوار کا ایک مجرب اور آسان عمل جو انہوں نے مجھے عطا فرمایا تھا پیش کر رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ اس عمل سے بھرپور فائدہ اٹھائینگے۔

عمل کوئی بھی مشکل یا پریشانی ہو، کوئی سفر درپیش ہو اور اس میں رکاوٹ ہو، مقدمہ ہو، کسی صاحب اختیار یا آفیسر کے پاس کسی کام کی غرض سے جانا ہو الغرض کوئی بھی کام جو ناممکن ہو، ان شاء اللہ پروردگار کے حکم سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیگا اور آپ بامراد ہونگے۔ ایک دن پہلے روزہ رکھیں اور صرف خرمہ سے افطار کریں، مغرب کی نماز کے بعد 141 مرتبہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ پڑھیں اور پڑھ کر اپنے پہ پھونکیں رات کو سونے سے پہلے اسی طرح 141 مرتبہ پھر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ پڑھ کر سو جائیں اور صبح کو نماز فجر کے بعد اس طرح پھر 141 مرتبہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ پڑھیں اور وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اسی آیت کریمہ کو بسط حرفی میں لکھ کر بطور تعویذ اپنے پاس رکھیں اور اپنے مطلوبہ کام کی طرف نکل کھڑے ہوں ان شاء اللہ کامیابی قدم چومے گی۔

نوٹ ہر قسم کے کینسر جیسے موذی مرض کی دوا (دم شدہ) دستیاب ہے۔ جو مومنین عارضہ قلب میں مبتلا ہوں انکے لیے دوا (حیات قلب) بھی دستیاب ہے۔

قرآن پاک سے مسائل کا حل

ڈاکٹر و حکیم محمد ثناء اللہ تلہ گنگ، ضلع چکوال

0300-6080973,0333-6849263

السلام علیکم! تحفہ یا علیؑ مدد:۔ صدق دل سے دعا گو ہوں کہ معزز قارئین امامیہ جنتری اور محترم آغا افتخار حسین صاحب اور آپکی ٹیم کو اللہ بزرگ و برتر عزت اور خوشحالی کی زندگی دے اور خدا آپ کو شر شیطان اور شر انسان سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین! نیز بانی امامیہ جنتری کے مرحومین کے لیے سورۂ فاتحہ کی استدعا ہے۔ معزز قارئین آپکی خدمت میں سورۂ محمد ﷺ کا ایک ایسا نقش پیش کر رہا ہوں جو کہ آپکی ہر مشکل کا حل ہے۔ کاروبار میں رکاوٹ، سحر، جنات، آسیب، نظر بد، جانی دشمن، میاں بیوی کی محبت کے لیے۔

نقش لکھنے کا طریقہ سب سے پہلے خاتون جنت کے دو نفل ادا کریں۔ صدقہ تین کلو آٹا کسی غریب کو دیں۔ شروع چاند کے پہلے اتوار نقش زعفران سے لکھیں چال خانہ دہم میں ہے اور نقش پر روزانہ سورۂ محمد ﷺ کو تین مرتبہ پڑھ کر دم کریں نقش کو سامنے رکھ کر یہ عمل روزانہ کرنا ہے۔ اگر پسند کی شادی کرنی ہے تو پھر اس کے نیچے طالب بمعہ والدہ کا نام لکھیں اسکے بعد الحب مطلوب کا نام والدہ کے نام کے ہمراہ لکھیں۔ اگر کوئی اور مشکل ہے تو پھر نقش کے نیچے یا اللہ بحق محمدؐ و آل محمدؐ فلاں بن فلاں کی مشکل حل ہو جائے۔

نوٹ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو فون کر کے معلوم کر لیں۔ اگر پریشان ہیں تو استخارہ بذریعہ قرآن پاک کروائیں۔ فی سبیل اللہ

یَا اللّٰهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ یَا مُحَمَّدُ یَا اَللّٰهُ یَا رَحْمٰنُ یَا رَحِیْمُ یَا کَرِیْمُ یَا وَدُوْدُ یَا سَمِیْعُ یَا بَصِیْرُ یَا وَکِیْلُ یَا قَیُّوْمُ یَا فَتَّاحُ

۷۸۶

۴۵۱۵۶	۴۵۱۷۰	۴۵۱۶۶	۴۵۱۶۳
۴۵۱۶۷	۴۵۱۶۲	۴۵۱۵۷	۴۵۱۶۹
۴۵۱۶۱	۴۵۱۶۴	۴۵۱۷۲	۴۵۱۵۸
۴۵۱۷۱	۴۵۱۵۹	۴۵۱۶۰	۴۵۱۶۵

[illegible] [illegible]

الا : ۱۱۱۹ ۱۱۱۹ الا : ۱۱۱ محیطے

یا اللہ بحق محمدؐ و آل محمدؐ فلاں بن فلاں کی مشکل حل ہو جاوے

ایم غلام رضا عسکری (ماہر علوم فلکیات)

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

0333-7014915

لَا یَعْلَمُ الْغَیْبَ اِلَّا هُوَ

2019 عیسوی

۱۴۴۰ ھجری

نوروز عالم افروز

طول بلد 73-04E

تحویل آفتاب در برج حمل

عرض بلد 33-43N

مورخہ 21 مارچ 2019 بروز جمعرات (بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب)

علی الصبح 2 بجکر 58 منٹ 20 سکینڈ پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم بمطابق دارالحکومت اسلام آباد

مراتب سیارگان برائے نوروز

بادشاہ: مشتری

وزیر: زہرہ

سپہ سالار: قمر

مشیر: شمس

رنگ: زرد

نوٹ سواری، پوشاک وغیرہ کی کیفیت صرف اہل ہنود میں پائی جاتی ہے اسلام میں اسکا تصور نہیں ہے


مشتری برج قوس
23:40 درجہ
زہرہ برج دلو
22:54 درجہ
طالع برج جدی
23:55:30 درجہ
پلوٹو 22:51 درجہ
کیتو، ذنب 24:31 درجہ
نیپچون
برج حوت
16:41 درجہ
عطارد راجعت
13:58 درجہ
زائچہ نوروز
بحساب یونانی
نجوم
شمس برج حمل
00:00 درجہ
مریخ
برج ثور
23:08
درجہ
یورینس
00:41
درجہ
راہو، راس برج سرطان
24:31 درجہ
قمر برج سنبلہ
27:48:44
درجہ

خوارک

لڈو، موتی چور، بیسن کا حلوہ، زرد پھیپھے، دال چنا، مکئی دانہ، مکئی کا روٹیاں، زردہ چاول، اور زرد اشیا، پسند رہیں

صدقات

دال چنا، دال مونگ، سنہری مچھلیاں، ہلدی، زرد چربی، زردہ چاول، زرد کپڑا، بہترین صدقہ نادر ضعیف لوگوں کو پہننے کے کپڑے یا کھانا کھلانا ہے۔

بین الاقوامی اوقات برائے نوروز امریکہ، واشنگٹن، نیو یارک، کیلیفورنیا 20 مارچ شام 5:58:20۔ فلوریڈا، امریکہ 20 مارچ دوپہر 03:58 لندن، برطانیہ 20 مارچ رات 21:58:20، جاپان 21 مارچ صبح 06:58:20 کینیڈا 20 مارچ شام 17:58:20 ایران 21 مارچ درمیانی شب 01:58:21 عراق 21 مارچ رات 00:58:21 سعودی عرب 21 مارچ درمیانی شب 00:58:20

تحویل کے وقت مولا مشکل کشاؑ کی نذر دیکر ان کے وسیلہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ حاجت پوری کرے گا۔

نوٹ کچھ بڑے ممالک کے نوروز کے اوقات قارئین کی سہولت کے لیے دیئے جا رہے ہیں۔ امریکہ، کینیڈا کی ریاستوں میں مختلف ٹائم زون ہیں اپنے مقامی وقت کو جمع یا نفی کر کے درست وقت نکال لیں۔ قریب و جوار کے ممالک بھی درست وقت کے لیے مقامی وقت میں جمع یا نفی اپنے قریبی ملک کے مطابق درست وقت نکال لیں۔ پاکستانی وقت نوروز میں سے 5 گھنٹے نفی کر لیں تو گرین وچ ٹائم نکل آئے گا۔

آداب و اعمال نوروز

تحویل آفتاب کا وقت نہایت مبارک ہوتا ہے۔ یہ استجابت دُعا کا وقت ہے۔ مومنین کو چاہیے کہ مقررہ وقت سے پہلے پاک صاف ہو کر لباس مطہرہ زیب تن کریں اور کسی پاک جگہ پر پاک فرش کا اہتمام کریں۔ خوشبویات مثل لوبان، اگربتی وصندل وغیرہ سلگائیں۔ دسترخوان پر مٹھائی پھل میوے وغیرہ رکھیں اور نذر حضرت امیر المومنین علیہ السلام دیں۔ بعد ازاں ایک کٹورے یا پیالے میں پانی بھر کر اس میں گلاب کا سرخ پھول ڈال دیں اور بوقت تحویل آفتاب اس پر نظر رکھیں جو وقت تحویل کا ہوگا اس وقت خود بخود ساکن پھول میں حرکت پیدا ہوگی بس یہ وقت دُعاؤں کے مستجاب ہونے کا ہے۔ اس وقت ۳۶۹ مرتبہ "یَاذَاالْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ" اور کم از کم ۳۶ مرتبہ یہ دُعا پڑھیں۔

یَامُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ وَالْاَبْصَارِ یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَالْاَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا اِلٰی اَحْسَنِ الْحَالِ ؕ

مومنین کو چاہیے کہ نوروز کے دن بعد نماز ظہرین چار رکعت نماز اس طرح ادا کریں۔ اوّل یہ نیت کریں کہ دو رکعت نماز نوروز پڑھتا ہوں۔ "قُرْبَةً اِلَی اللّٰهِ اَللّٰهُ اَکْبَرُ" اور اوّل رکعت میں بعد سورہ حمد دس مرتبہ سورۃ "اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ" اور دوسری رکعت میں بعد سورہ حمد دس مرتبہ "قُلْ یَاۤاَیُّهَا الْکٰفِرُوْنَ" اور بعد سلام ختم کرے اور پھر دو رکعت کی نیت کر کے نماز شروع کریں۔ اوّل رکعت میں بعد سورہ حمد دس مرتبہ "قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ" اور دوسری رکعت میں بعد سورہ حمد دس دس مرتبہ "قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ" پڑھے اور بعد سلام ختم کرے اور سجدے میں جائے اور یہ دُعا پڑھے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ الْاَوْصِیَاءِ الْمَرْضِیِّیْنَ وَعَلٰی جَمِیْعِ اَنْبِیَائِكَ وَرُسُلِكَ بِاَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ وَبَارِكْ عَلَیْهِمْ بِاَفْضَلِ بَرَکَاتِكَ وَصَلِّ عَلٰی اَرْوَاحِهِمْ وَاَجْسَادِهِمْ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ لَنَا فِیْ یَوْمِنَا هٰذَا الَّذِیْ فَضَّلْتَهُ وَکَرَّمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ وَعَظَّمْتَ خَطَرَهُ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِیْ فِیْمَا اَنْعَمْتَ بِهٖ عَلَیَّ حَتّٰی لَآ اَشْکُرَ اَحَدًا غَیْرَكَ وَوَسِّعْ عَلَیَّ فِیْ رِزْقِیْ یَاذَاالْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ اَللّٰهُمَّ مَاغَابَ عَنِّیْ فَلَا یَغِیْبَنَّ عَنِّیْ عَوْنُكَ وَحِفْظُكَ وَمَا فَقَدْتُ مِنْ شَیْءٍ فَلَا تُفْقِدْنِیْ عَوْنَكَ عَلَیْهِ حَتّٰی لَآ اَتَکَلَّفَ مَا لَآ اَحْتَاجُ اِلَیْهِ یَاذَاالْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ

علی جنرل سٹور اینڈ بیوٹی پیر شاپ ٹینکی چوک جنڈ (اٹک)
مسٹر بکس گول باغ گلگشت ملتان 0300-6302380

اس کے بعد، دُعا کرے بعض نے لکھا ہے کہ نوروز کے دن موافق اعداد ایام سال نکال کر اس دُعا کو پڑھے۔

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ سَنَةٌ جَدِيْدَةٌ وَاَنْتَ مَلِكٌ قَدِيْمٌ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَافِيْهَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَافِيْهَا وَاَسْتَكْفِيْكَ مَئُوْنَتَهَا وَشُغْلَهَا يَاذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ (زادالمعاد)

سات سلام

مشہور ہے کہ جو شخص یہ سات سلام نوروز کے دن مشک و زعفران سے کسی چینی کے برتن پر لکھ کر گلاب کے عرق سے دھوئے اور اس میں سے پیئے تو آئندہ سال تک کوئی رنج و درد اُس کو نہ ستائے گا۔ اگر زہریلا جانور کاٹے تو اس پر اثر نہ ہوگا۔

1 سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ
2 سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعَالَمِيْنَ
3 سَلَامٌ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ
4 سَلَامٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهَارُوْنَ
5 سَلَامٌ عَلٰى اٰلِ يَاسِيْنَ
6 سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ
7 سَلَامٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (ازحاشیہ زادالمعاد)

مندرجہ ذیل نقش کو مشک و زعفران سے لکھ کر گلاب میں دھو کر پیئے وبا و امراض جسمانی سے محفوظ رہے گا۔ اس نقش کی انگوٹھی چاندی پر کندہ کر کے پہنے کبھی محتاج نہ ہوگا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الا=۱۱۱۹ ۱۱۱۱۹=الا=۱۱۱ محطیٰ

برائے درد زہ سات مرتبہ اس آیت کو زعفران یا کسی مناسب عرق پر پڑھ کر کھلائے یا پلائے۔ فوراً بچہ پیدا ہوگا۔

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ
وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ وَاَلْقَتْ مَافِيْهَا وَتَخَلَّتْ

نقش نوروز

اعداد ۵۰۴۶

تحویل آفتاب کے وقت کسی پاک جگہ باوضو ہو کر گلاب و زعفران سے اس نقش کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں تو تمام سال جملہ امراض و بلیات غم و صدمات سے محفوظ رہیں گے دشمن مقہور ہوگا مقاصد پورے ہوں گے۔ نہایت مجرب اور راز سربستہ ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم



۱۲۵۴	۱۲۶۷	۱۲۶۴	۱۲۶۱
۱۲۶۵	۱۲۶۰	۱۲۵۵	۱۲۶۶
۱۲۵۹	۱۲۶۲	۱۲۶۹	۱۲۵۶
۱۲۶۸	۱۲۵۷	۱۲۵۸	۱۲۶۳

اور مدت حمل تک واسطے حفاظت حمل کے ایضاً اس شکل کو لکھ کر ران پر اندر کی جانب باندھے اور گردی عبارت کو چشم کشادہ لکھے اور بعد پیدائش بچے کے فوراً کھول دے۔

الشکور البکور

اثنین	ثلثہ	اربعہ
ثلثہ	اثنین	اربعہ

نقش نوروز 2018

امامیہ جنتری کے کرم فرما ساعت نوروز میں تیار کردہ سونا پالش طلسم نوروز اور زرد کاغذ پر بنا ہوا نقش نوروز جوابی لفافہ بھیج کر **مفت** طلب کریں۔

آغا حسنین احمد عامل 41 ٹی وی ٹی ہاؤسنگ سکیم VPM بہاول پور

0300-6802983, 0331-7560412

نوروز کے احکام اور شرعی حیثیت

اس سال بفضل پروردگار 21 مارچ 2019، 8 چیت 2075 بکرمی اور یکم حمل 1940 بروز جمعرات، بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب علی الصبح 2 بجکر 58 منٹ 20 سیکنڈ بمطابق دارالحکومت اسلام آباد پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم شمس درحمل کے صفر درجہ پر تحویل ہوگا۔

نوروز کی شرعی حیثیت

عید نوروز شمسی کیلنڈر کے حساب سے منائی جاتی ہے۔ نوروز 20 یا 21 مارچ کے بارے میں جو لکھا جاتا ہے وہ علم نجوم اور حرکت سیارگان ہے۔ نیا دن اس لیے کے شمس برج حمل میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ سب روایات گردش ایام سے متعلق ہے جن کا دین اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں 18 ذوالحجہ 10 ہجری چونکہ اتفاقاً 21 مارچ کو آ گیا اس لیے اس جشن کو دوبرا منانے کے لیے دونوں تاریخوں کو عید نوروز سے معنون کر دیا گیا۔ ہم جو اعمال بجالاتے ہیں وہ 20 یا 21 مارچ کو شمس کے برج حمل میں داخل ہونے کے نہیں ہیں بلکہ عید غدیر کے ہیں۔ شمسی کیلنڈر کی اکیسویں مارچ سے بہت سے اور تہوار بھی مربوط ہیں مگر سال ہائے وقوع میں فرق ہے۔ اعمال کی کتب مفاتیح الجنان، تحفۃ العوام وغیرہ میں اس تاریخ کے جو اعمال آپ پڑھیں گے وہ نوروز سے متعلق نہیں ہیں بلکہ عید نوروز سے تعلق رکھتے ہیں مثلاً یہ واقعات ایک نئے دن سے متعلق ہیں۔ اس لیے یاد خدا میں تشکر کے طور پر بجالائے جاتے ہیں۔ آئمہ معصومین علیہم السلام کے ارشادات اور اعمال سے ثابت ہے کہ اس دن کو آل محمدؐ نے اپنا دن فرمایا ① اللہ تعالیٰ نے اس دن اپنے بندوں عہد لیا ہے کہ اس کی واحدنیت کیساتھ عبادت کریں ② یہ پہلا دن ہے کہ آفتاب کی پہلی کرن زمین پر پڑی ③ حضرت نوحؑ کی کشتی کا کنارے لگنا ④ رجعت آئمہ طاہرینؑ اور حضرت علیؑ کی خلافت ظاہرہ ⑤ حضرت محمد ﷺ پر نزول وحی کا آغاز ⑥ حضرت ابراہیمؑ کا کافروں کے بتوں کو توڑنا ⑦ حضرت علیؑ کا خوارج پر فتح پانا ⑧ حضرت علیؑ کا تطہیر کعبہ کا عمل بجالانا وغیرہ۔ عید نوروز کے اعمال مومنین اپنے تہواروں کی یاد میں مناتے ہیں یہ اعمال نوافل دعائیں، اور نمازیں تحویل آفتاب سے متعلق نہیں بلکہ متذکرہ بالا اسلامی تہواروں سے مربوط ہیں جنکی یاد منانا باعث تقویت ایمان ہے۔

آب نیساں

نوروز سے 23 دن کے بعد جو مہینہ شروع ہوتا ہے جو 30 دن کا ہے اس مہینے میں جو پانی برستا ہے اسے آب نیساں کہتے ہیں امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے جو شخص اس پانی کو جمع کرکے اس پر سورۃ الحمد، آیت الکرسی، چاروں قل اور سورۃ انا انزلناہ کو 70، 70 مرتبہ پڑھے 70 مرتبہ اللہ اکبر 70 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور پھر 70 مرتبہ درود شریف پڑھے اور پھر اسے پئے تو خداوند عالم اس کے دل کو نور کی روشنی اور فہم و فراست اور بینائی سے بھر دے گا اور تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے گا۔ جو شخص صبح و شام اس پانی کو پئے گا اسکی ہڈیوں اور رگوں سے ہر قسم کی کا درد اور بیماری ختم ہو جائیں گی۔ جس عورت کے لڑکا نہ ہوتا ہو تو وہ آب نیساں کو اس نیت سے پئے تو خداوند عالم اس کو فرزند عطا کرے گا اور بانجھ عورت ہو تو بفضل خدا اسکی گود ہری ہوگی۔

نماز حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا

✪ یہ دو رکعت مستحب نماز حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے تعلیم فرمائی اور آپؑ کو حضرت جبرائیلؑ نے تعلیم فرمائی تھی ✪ یہ نماز دنیاوی و اخروی تمام امور کی آسانی کے لیے انتہائی موثر ہے ✪ اسکی ترکیب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورۃ قدر اور دوسری رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورۃ توحید پڑھے نماز کے بعد گھٹنے اور کہنیوں سے کپڑا ہٹا کر بحالت سجدہ یہ دعا پڑھے دعا کے بعد خضوع و خشوع سے بوسیلہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات طلب کرے تو اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔

سُبْحَانَ ذِی الْعِزِّ الشَّامِخِ الْمُنِیفِ سُبْحَانَ ذِی الْجَلَالِ الْبَاذِخِ الْعَظِیمِ سُبْحَانَ ذِی الْمُلْكِ الْفَاخِرِ الْقَدِیمِ
سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ الْبَهْجَةَ وَالْجَمَالَ سُبْحَانَ مَنْ تَرَدَّى بِالنُّورِ وَالْوَقَارِ سُبْحَانَ مَنْ یَرَى أَثَرَ النَّمْلِ فِی الصَّفَا
سُبْحَانَ مَنْ یَرَى وَقْعَ الطَّیْرِ فِی الْهَوَاءِ سُبْحَانَ مَنْ هُوَ هَكَذَا لَا هَكَذَا غَیْرُهُ



عالمی حالات 2019

زائچہ نورو ز کی روشنی میں

تحریر و تحقیق غلام رضا عسکری اعوان نواب شاہ Ph: 0300 3210024, E mail: razaaskri@gmail.com

جمعرات کے دن کا نوروز سعد حیثیت کا حامل ہوتا ہے علماء اقرباء اور اعلیٰ طبقات کو بہتری ملے گی۔ عدلیہ کا وقار بلند ہوگا جبکہ ججز اور دیگر قانونی مسائل میں مزید آسانیاں لائی جائیں گی اسکے ساتھ ہی مالی طور پر قوم وملت میں بہتری آئیگی جب کہ روپیہ اور ملکی کرنسی میں مظبوطی ظاہر ہوتی ہے غربت میں کمی واقع ہوگی۔ دینی اور شرعی اداروں میں نئے قوانین سامنے لائے جانے کے امکانات ہوسکتے ہیں چونکہ اس سال مشتری بھی زائچہ میں سعد حیثیت کا حامل ہوگا لہذا متوازن اور مساوی قانون بنائے جانے کی امید ہوگی۔ ڈرائی فروٹ اور خشک میوہ جات کی قیمتیں ارزاں رہیں گی۔ خشک میوہ جات کی فراوانی ہوگی فصلوں اور اجناس از قسم مکئی گندم دالیں چنا اور فروٹ میں آم کنو مالٹا اور دیگر فصلیں کثرت سے پیدا ہونگی جبکہ موسمی حالات اور بارشیں اس سال اوسط درجہ کی ہونگی تاہم جنوب مغربی علاقوں اور شمالی مشرقی علاقوں میں بارشیں زیادہ ہوسکتی ہیں۔

پاکستان کے حالات

مملکت پاکستان کے حالات تغیرات کا شکار رہیں گے سیاسی ماحول گرم سرد ہوتا ہوا نظر آئے گا لیکن موجودہ حکومت کو اس سال ناکام کرنے کی کوششیں ناکامی سے دوچار ہونگیں۔ زحل زائچہ نوروز میں اپنے ہی گھر کا حاکم ہوکر نہایت مضبوطی کے ساتھ موجود رہیگا جبکہ ٹرانزٹ میں زحل نویں گھر موجود رہ کر طالع کو سعد نظر سے دیکھتا ہوا بادشاہ وقت اور وزیراعظم کو مظبوط بناتا ہوا عالمی سطح پر سفارتی کامیابیاں پاکستان کو ملنے کی امیدیں ہیں۔ حکومتی کفایت شعاری کی مہم تقویت پکڑتی نظر آتی ہے۔ جبکہ ٹیکسز اور ریونیو میں تبدیلیاں لائی جائیں گی ٹیکس کا نظام وسیع اور مضبوط کیا جائے گا۔ روپے کی قدر میں کمی مہنگائی میں اضافہ کرے گی تاہم موجودہ حکومت مالی بدنظمی پر اپنی گرفت مضبوط کرلے گی، زحل طالع میں سعد ہوکر عالمی سطح پر ملکی وقار میں اضافہ کا باعث بنے گا۔ قمر مریخ زحل باہم تثلیث بناتے ہوئے سیاست اور عوام عامہ کے ساتھ افواج پاکستان کو ایک پلیٹ فارم ایک نکتہ پر قائم رکھیں گے جب کہ پلوٹو عطارد تیسرے گھر میں ہمسایہ ممالک خصوصاً انڈیا اور افغانستان کے ساتھ سرحدی جھڑپیں چلتی رہیں کوئی امکان نہیں ہے۔ یورانس کا پانچویں گھر ثور میں قیام اسٹاک مارکیٹ اور خزانے کے ذخائر عدم استحکام کا شکار رہیں گے۔ تاہم اچانک بڑی سرمایہ کاری ملکی ذخائر میں اضافہ کرے گی۔ مشتری کا داخلہ دسمبر سال کے آخر میں جدی میں ہوگا عدلیہ اور حکومت کا یکساں کرپشن کے خلاف مضبوط اور جامع حکمت عملی سامنے آنے کے امکانات ہونگے۔ پاکستان کے زائچہ میں دونوں ستارے اہم کردار ادا کریں گے۔ اپوزیشن کی جانب سے حکومت مخالف کاروائیاں جولائی سے زور پکڑیں گی اور موجودہ وزیراعظم کو مشکل حالات کا سامنا ہوسکتا ہے وزیراعظم کا زائچہ حلف برداری منقلب میزان حکومتی تبدیلی کا اشارہ دیتا ہے ایسا آنے والے سال میں 2020 ممکن ہوسکتا ہے۔ کرپشن میں سیاست کے بڑے بڑے برج الٹ جائیں گے۔ کرپشن کے خلاف محاذ حکومتی مسائل میں اضافہ لائیگا۔ قدرتی آفات سے شمالی علاقہ جات متاثر ہونگے خصوصاً بارشیں مون سون کی اور زلزلے سے اکتوبر اور دسمبر میں محتاط رہنے کا وقت ہوگا۔ مئی جون اور اکتوبر نومبر بحیرہ عرب میں سمندری طوفان بننے کا موسم ہوتا ہے لیکن کراچی کی ساحلی پٹی کو کوئی خطرہ نا ہوگا البتہ گوادر پسنی میں نقصانات ہوسکتے ہیں۔ سی پیک میں روس بانگ ریاستوں کی شمولیت پاکستان کو جنوبی ایشیاء میں معاشی استحکام کی جانب لے جانے میں معاون ثابت ہوگی۔ سی پیک شمالی علاقہ جات کو

شمال مغربی علاقوں میں سخت سردی اور برفانی طوفان کثیر جانی نقصانات کا باعث بن سکتے ہیں جبکہ مون سون بارشوں کا سلسلہ اس سال شمال مشرقی اور جنوب مشرقی علاقوں میں زیادہ ہو سکتا ہے جبکہ آسمان پر سیاہ بادل جولائی کے اوائل سے ہی آنا شروع ہو جائیں گے تاہم باد و باراں کی زیادتی رہے گی۔ شمالی علاقہ جات میں بارشوں کی زیادتی اور میدانی علاقوں میں بارشوں کی کمی دیکھنے میں آئے گی۔ پڑوسی ملک کی جانب سے پانی چھوڑے جانے اور بارشوں کی وجہ سے سیلاب سے اموات جانی مالی ہو سکتے ہیں۔ سردی کا موسم خشک سردی کی وجہ سے موسمی امراض کی شدت رہے گی جبکہ اس سال شمالی علاقہ جات میں برف باری کثرت سے ہو سکتی ہے جسکی وجہ سے آبی ذخائر میں بہتری کے امکانات موجود ہیں زلزلہ کے امکانات پشاور اور بلوچستان ایران کی سرحدی پٹی اور شمال مشرقی انڈین سرحد کے ساتھ ساتھ زلزلہ کے امکانات ہو سکتے ہیں۔

بھارت

یہ سال انڈیا میں الیکشن کا سال ہوگا اپریل یا مئی کے ماہ میں نئے الیکشن میں نریندر مودی کا مستقبل مشکلات کا شکار ہوگا۔ ممکن ہے نئے الیکشن میں نریندرا مودی کی کامیابی نہ ہو۔ مسلم کش فسادات کا خطرہ دوران الیکشن اور اس سال میں زیادہ ہو سکتا ہے خصوصاً ہندو اکثریتی علاقوں میں تشدد میں اضافہ ہوگا۔ کانگریس کو انتخابات میں کامیابی ملنے کی قوی امیدیں ہیں۔ بھارتی خارجہ پالیسی میں تبدیلی کے امکانات ہو سکتے ہیں تاہم روایتی بھارتی ہٹ دھرمی مذاکرات میں ناکامی کا خوف انڈیا کو گفتگو سے دور رکھے گا۔ مالیاتی مسائل کرنسی کی قدر میں کمی اور دفاعی بجٹ میں بے پناہ اضافہ انڈیا کو استحکام لینے میں بڑی رکاوٹ ہوگی۔ انڈین ایکسپورٹ میں کمی انڈیا کو کرنسی میں کمی پر مجبور کر دے گی۔ یورانس کا سات سال کے لئے ثور میں قیام اور نوروز کے زائچے میں چوتھے قیام اندرونی تحریکیں انڈین گورنمنٹ کو پریشان کر سکتی ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ اور زرمبادلہ کے ذخائر میں کمی کے ساتھ اسکینڈلز بھارتیہ جنتا پارٹی کو الیکشن میں ناکامی سے دوچار کر سکتے ہیں۔ میزائل تجربات اور دفاعی خریداریوں میں جنگی جنون بھارت کو کم کرنا ہوگا۔ انڈیا پاکستان تجارت کے امکانات محدود سطح پر اس سال جاری ہو جائیں گے۔ بھارتی ایجنسی را کے مزید شواہد پڑوسی ممالک کو ملیں گے۔ پاکستان کی جانب سے عالمی دباؤ میں اضافہ انڈیا کی پریشانیوں میں اضافہ کا باعث ہوگا۔ زلزلہ اور قدرتی آفات بارشیں اور سمندری طوفان انڈیا کو جانی مالی نقصان سے دوچار کر سکتا ہے مئی جولائی اگست اکتوبر نومبر اہم مہینے ہونگے۔ خالصہ تحریک اور جنوبی انڈین تامل کشمیر سمیت انڈیا کے ایک تہائی علاقوں میں علیحدگی پسند تحریکیں زور پکڑیں گی۔ مشتری کا سال کے آخر میں داخلہ جدی میں ہوگا زحل اور مشتری کی نشستیں عالمی دباؤ میں اضافہ کشمیر کے مذاکرات کا آغاز ثابت ہوگا۔ روایتی گیدڑ بھبکیاں انڈیا کی جانب سے پڑوسی ممالک کو ملتی رہیں گی جبکہ افغانستان اور بلوچستان میں مداخلت اقوام عالم میں سامنے آئے گی۔

ایران

ایران پاکستان تعلقات میں بہتری آئے گی ایران گیس پائپ لائن کے منصوبوں میں پیش رفت ہوگی۔ عالمی سطح پر ایران ایٹمی معاملات کے بارے میں امریکہ کے خلاف حمایت حاصل کر لے گا۔ امریکہ کی جانب سے منفی پروپیگنڈہ کسی کام نہیں آئے گا۔ امریکی پابندیوں کے خلاف اقوام عالم و متحدہ میں کئی ایک ممالک ایران کی کھل کر حمایت میں سامنے آجائیں گے۔ جدی میں زحل کا قیام ایران کے عالمی وقار میں اضافہ کا باعث بنے گا۔ ایران میں برطانوی و امریکی ایجنسیز کی مداخلت اور ایجنٹس کا پکڑے جانا اسکے ساتھ ہیں انڈیا اور اسرائیل کے یکساں مفادات سامنے آنے پر انڈیا ایران تعلقات میں کچھ سرد مہری نظر آئے گی۔ تیل گیس اور معدنیات کے نئے ذخائر سامنے آئیں گے۔ تیل کی پیداوار میں اضافہ اور معاشی طور پر ایران پابندیوں پر عالمی اختلاف رائے ایران کے معاشی حالات میں بہتری لانے میں معاون ثابت ہوگا سعودی اور یہودی مخالفتیں اور خصوصاً یہودی سازشوں کو ایران ناکام بناتے ہوئے اندرونی مسائل پر قابو پا لے گا۔ نوجوانوں میں بغاوت کی کوششیں ناکام ہونگی۔ زلزلہ اور قدرتی آفات ایرانی عوام کے لئے پریشانیوں کا باعث بن سکتے ہیں خصوصاً فروری مارچ اور نومبر دسمبر میں قدرتی آفات مسائل پیدا کر سکتی ہیں۔ زحل پلوٹو قران مارچ اپریل تا اگست حکومتی اراکین اور سپریم کمانڈ میں کسی بڑے لیڈر کی موت ایرانی عوام کو حزن و ملال سے دوچار کر سکتی ہے اسکے ساتھ ہی ایران کی سالمیت کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ ایران ایٹمی معاملات کو بین الاقوامی ایٹمی ایجنسیز کے سامنے لانے میں اظہار کرے گا۔ عراق اور شام میں ایران کی حمایت اور شدت پسندوں کے خلاف کامیابیاں اور روس کی جانب سے شام میں ایران کے ساتھ شدت پسندوں کے خلاف کاروائیوں میں کامیابیاں ملیں گی۔ معاشی طور پر ایران کی کرنسی میں قدرے استحکام پیدا ہوگا۔ ایران پاکستان میں دفاعی معاہدے تشکیل پا سکتے ہیں۔ مشتری دسمبر تک جدی میں مقیم رہے گا یہاں پلوٹو زحل اور مشتری کا قیام عالمی عدالتوں میں ایرانی معاملہ اور موقف کو کامیابی ملے گی۔

راہو کی موجودگی طالع میں پلوٹو زحل کے ساتھ ہوگی راہو کا داخلہ بارہویں قوس میں اس سال ہوگا۔ سال کے اواخر میں ایران کو عالمی دشمنوں سے محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔

عراق

مشتری کی طالع میں اور زحل کی دوسرے جدی میں موجودگی زائچہ نوروز میں سعد حیثیت کی حامل ہوگی عراق کو معاشی معاملات میں بہتری اور مالی استحکام مل سکتا ہے جبکہ پڑوسی ممالک کے ساتھ عراق کے تعلقات میں بہتری رونما ہوگی۔ عراق داخلی معاملات میں کافی الجھا ہوا ہے خصوصاً مذہبی شدت پسند تنظیموں کی وجہ سے عراق میں اندرونی خلفشار میں کمی واقع ہوگی۔ عراق کو داخلی معاملات پر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ عراق کو معاشی طور پر تیل کی فروخت اور دیگر پابندیوں میں نرمی کا سامنا ہوگا۔ ممکن ہے کہ عراق اپنی افواج میں اضافہ یا ایران کے ساتھ فوجی تعاون پر معاہدے تشکیل پا جائیں۔ مشتری کا داخلہ دسمبر تک دوسرے گھر میں ہو جائے گا مالی استحکام میں مزید بہتری آئے گی۔ شام کے ساتھ تو تعلقات میں معمول آ جائے گا لیکن سعودیہ اور عرب ممالک کا عراق کے ساتھ منفی رویہ زور پکڑے گا۔ بلکہ یمن کے ساتھ عرب ممالک کی جانب سے عراق کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی کوششیں کی جائیں گی لیکن ایران اور شام کی حمایت عراق کو محفوظ رکھے گی۔ عراق تباہ شدہ شہروں میں تعمیر نو کا کام جاری کرتے ہوئے بین الاقوامی کمپنیوں کو شامل کرے گا۔ عراقی عوام میں مذہبی انتہا پسندی کو ترغیب دینے کی مغربی کوششیں کی جائیں گی تاہم ناکام ہوگی۔ ساتویں دسویں کا مالک نحس واقع ہو کر ملکی قیادت کو درپیش مسائل اندرونی طور پر بغاوت کو جنم دے سکتے ہیں۔ عراق کی حکومت کو ختم یا تبدیل کرنے کی تحریک سامنے آ سکتی ہے۔ عراقی بجٹ غیر متوازن کیفیات سے دوچار ہوگا تاہم عراق کے زر مبادلہ کے ذخائر میں نمایاں اضافہ ہوگا عراقی کرنسی میں استحکام دیکھنے میں آئے گا۔ مولا سلامت رکھے اہل بیت اطہار کے مقامات مقدسہ کو اور ہر غلط نگاہ کو اٹھنے نہ دے۔ عربی اور عجمی کا فرق آج بھی بیانات میں واضح نظر آئے گا۔ تیل کی قدرتی پیداوار میں عراقی حکومت نئے ذخائر اور پیداوار میں اضافہ کر سکتی ہے۔

شام

شام کے حق میں کثیر الملکی اتحاد بننے کی خبریں عام ہو سکتی ہیں روس ایران عراق کی جانب سے شام کی حمایت میں دیگر کئی ممالک اکٹھے ہو جائیں گے۔ شام کے مقبوضہ علاقوں میں شامی افواج دیگر ممالک کی مدد سے خالی کروا لے گی جب کہ شام کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کی تلاش اور استعمال کی افواہیں بین الاقوامی سطح پر سامنے آئیں گی۔ یہود و سعودی سازشیں اور کوششیں شام کو عالمی سطح پر تنہا کرنے میں ناکامی سے دوچار ہوگی۔ فلسطین اور لبنان کی جانب سے بھی شام کی کھل کر حمایت سامنے آ جائے گی۔ زحل کی طالع میں موجودگی شام کی عالمی سطح پر وقار میں معاون ثابت ہوگی۔ جبکہ مشتری کا داخلہ طالع میں بین الاقوامی تنظیموں یو این او اور عالمی اداروں کی جانب سے لگی پابندیوں میں نرمی کا باعث بنے گا۔ مریخ کی چھٹے گھر موجودگی شام کی افواج میں اضافہ یا شامی افواج کو مزید طاقتور بنانے میں معاون ثابت ہوگی۔ قدرتی آفات اور سخت سردی کے ساتھ کثیر جانی ومالی نقصان ہو سکتا ہے۔ شام کے راستے زائرین کے لئے سال کے اکثر اوقات میں کھل جائیں گے۔ زینبیہ اور حلب کے ساتھ دیگر علاقے جہاں زیارات و مقامات ہیں سیکیورٹی اور امن و عام کو بہتر کر لیا جائے گا۔ کسی امریکی یا عرب ممالک کی جانب سے فوج کشی کا کوئی امکان زائچہ میں نہیں ہے۔ شام کی جانب سے تیل کی پیداوار میں اضافہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔

سعودی عرب

عرب ممالک کو معاشی استحکام ہوگا تاہم متحدہ عرب فوج کے بے پناہ اخراجات کی وجہ اور یمن کی جنگ کی وجہ سے سعودی معیشت تنزلی کا شکار ہوگی۔ زحل مریخ تثلیث کی وجہ سے جنگی جنون میں قدرے کمی لیکن پراکسی وار عرب ممالک کی جناب سے اپنے مخالفین پر جاری رکھیں گے۔ کرنسی میں کمی کے ساتھ سعودیہ کو اور عرب ممالک کو مذہبی انتہا پسندی کا سامنا ہوگا۔ سعودی عوام کی جانب سے یک طرفہ کاروائیوں پر سعودی عوام کی جانب سے مخالفت سامنے آئے گی۔ جبکہ یمن کی جنگ میں سعودیہ اپنے عوام اور معیشت دونوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ شاہی خاندان میں اختلافات اور خصوصاً موجودہ ولی عہد کے ساتھ شاہی خاندان کے افراد کی مخالفتیں زور پکڑ جائیں گی۔ تیل کی پیداوار میں سعودیہ خود کفیل ہوتے ہوئے اضافہ کرے گا نئے ذخائر دریافت کیے جائیں گے۔ موسمی تغیرات اور تبدیلیاں سعودی عوام اور حکومت دونوں کے لئے پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں۔ عرب امارات میں غیر عجمی خصوصاً شیعہ افراد کے داخلہ کو سخت قوانین سے مربوط کیا جائیگا۔ یمن میں ظلم اور جنگی کاروائیوں پر اقوام عالم کی جانب سے سعودیہ پر دباؤ میں اضافہ ہوگا۔ ایران کے ساتھ حالات کشیدہ یا سفارتی تعلقات میں تعطل پیدا ہو سکتا ہے۔ پلوٹو زحل کا طالع میں قیام اچانک سعودی معیشت زر مبادلہ کی کمی کا شکار ہو سکتی ہے۔ سی پیک کی وجہ سے دبئی اور امارات

میں سرمایہ کاری بتدریج کمی کا شکار ہو جائے۔ پلوٹو نیپچون کی تسدیس سعودیہ کی جانب سے ایٹمی پاور یا صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہیں تاہم عالمی دباؤ سے ایسا نا ہو سکے گا۔ مریخ کا پانچویں قیام سعودی نوجوانان کی جانب سے سختیوں میں کمی کی تحریک سامنے آنے اور مخالفت کے اثرات نمایاں ہونگے۔ عالمی لیبر قوانین سے انحراف سعودی عرب میں افرادی قوت کی کمی کے امکانات ہو سکتے ہیں۔

امریکہ امریکہ کو اپنی روایتی پالیسی تبدیل کرنا ہوگی۔ مشتری کا قوس میں قیام اور زحل کا جدی میں قیام عدل وانصاف کے تقاضوں سے ہٹ کر کوئی بھی امریکی پالیسی اقوام عالم قبول نا کرے گی۔ دنیا کا نظریہ تبدیل ہوتا نظر آتا ہے جنوبی ایشیاء میں چین کی بڑھتی ہوئی معیشت اور سی پیک کے ذریعے جنوبی ایشیاء کے علاقوں میں نیا بلاک امریکی تسلط اور امریکی اجارہ داری کو آنے والے سالوں میں کمزور کر دے گا۔ ساتویں گھر عطارد نیپچون کا نحس قران مخالف ممالک کے خلاف امریکہ کی جانب سے نئے قوانین اور سختیاں سامنے آنے اور اور مخالف ممالک کی لسٹ میں اضافہ کے امکانات پائے جاتے ہیں۔ مریخ کی ثور میں موجودگی بین الاقوامی طور پر ممالک میں فوجی دخل اندازی واضح طور پر نظر آتی ہے۔ ایٹمی معاملات پر امریکہ کی دوغلی پالیسی اقوام عالم میں منظر عام پر آجائے گی۔ سعود اور یہود کے ساتھ امریکی لابی میں بننے والے فوجی اتحاد اور فوجی کاروائیوں میں زیادتی کا امکان ہے جبکہ زہرہ کا دلو میں نحس ہونا امریکہ کی معیشت میں ایک خطرے کی طرح موجود ہے امریکی قرضوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہوگا زحل پلوٹو پانچویں گھر میں موجود ہو کر میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے غیر اخلاق سرگرمیوں کو امریکہ مزید تقویت دیتا ہوا نوجوانوں کے لئے نئے قوانین اور انٹرٹینمنٹ کے اسباب مہیا کرے گا۔ ساتویں گھر میں نحس ستاروں کی موجودگی امریکی ریاستوں میں عدم اطمینان اور وفاق کے خلاف ٹیکسز و دیگر مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے کئی ریاستیں ٹرمپ کے نئے قوانین کو ماننے سے انکار کریں گی۔ سمندری طوفانوں اور قدرتی آفات کی وجہ سے امریکہ کو خاصہ مالی نقصان ہو سکتا ہے خصوصا کیلیفورنیا فلاڈلفیا نیو یارک اور لاس اینجلس کے علاقے متاثر ہونگے۔ صحت کے معاملات میں امریکہ کو مزید محنت کرنا ہوگی۔ امریکی تجارت میں ٹیکسز کی وجہ سے کمی آئے گی امریکہ کو ایکسپورٹ بڑھانے کی کوشش کرنا ہوگی۔ ورنہ مالی ذخائر خطرناک حد تک کمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔

نقوش ایام ہفتہ کی خصوصیات

بروز اتوار یکشنبہ جو شخص اتوار کا نقش دیکھے گا۔ آتش دوزخ سے نجات پائیگا اور جملہ کام اس پر آسان ہونگے خلق وا کابر واشراف میں معزز ہوگا اور دشمن اس کے مقہور رہیں گے۔

بروز پیر دوشنبہ جو شخص اس نقش کو بروز پیر دیکھے ہر قسم کی بلاؤں و آفات ارضی و سماوی اور دشمنوں سے محفوظ رہے گا اور لوگوں میں محبوب ہوگا اور دعا اسکی مستجاب ہوگی۔

بروز منگل سہ شنبہ جو کوئی اس نقش کو بروز منگل دیکھے جملہ آفات وبلیات سے خداوند تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا اور گناہان صغیرہ وکبیرہ کی عقوبت سے اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے گا اور مراد قبول ہوگی

بروز بدھ چارشنبہ جو کوئی اس نقش کو بروز بدھ دیکھے جملہ بلاؤں آفتوں سے اس مہینے محفوظ رہے گا اور خلائق کی نظر میں محترم رہے گا اور اسکی حاجت شرعی خداوند تعالیٰ بر لائے گا۔

بروز جمعرات پنجشنبہ جو شخص نقش کو بروز جمعرات دیکھے وہ تمام خلائق کی نظر میں عزیز و محترم ہو اور دولت ملے اور جملہ آفات وبلیات سے حق تعالیٰ کی امان میں رہے گا۔

بروز جمعہ جو کوئی نقش کو بروز جمعہ دیکھے اس روز سے اس کے دشمن دوست ہو جائے گے اور مراد حسب دل خواہ بر آئے۔ خلائق کی نظر میں عزیز و مکرم ہو جائے۔

بروز ہفتہ شنبہ جو شخص اس نقش کو بروز ہفتہ دیکھے جملہ بلاؤں و آفتوں سے آئندہ ہفتہ تک حفاظت خدا تعالیٰ میں رہے گا اور جو اسکو دیکھے گا اس سے محبت کرے گا

سعد ونحس ایام ہفتہ بنا بر احادیث معصومین علیہم السلام

ایام	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ہفتہ	نحس	نیک	نیک	میانہ	نیک
اتوار	نحس	میانہ	میانہ	نیک	برائے تعمیر مکان کے لیے نیک
پیر	نیک	نحس	نحس	نحس	نحس
منگل	نحس	نیک	نیک	میانہ	میانہ
بدھ	نیک	نحس	نحس	نحس	برائے تعمیر مکان کے لیے نیک
جمعرات	نیک	نیک	نیک	نیک	نیک
جمعہ	نیک	نیک	نیک	نیک	نیک

۷۸۶

نقوش ایام ہفتہ از حضرت امام زین العابدین علیہ السلام

ہر روز دنوں کی مناسبت سے ان نقوش پر نظر ڈالنے والے کی دینی و دنیاوی جائز حاجات پوری ہونگیں
جملہ آفات و بلیات سے خداوند تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ خلائق کی نظر میں محترم رہے گا۔ اس کے دشمن مقہور ہونگے

بروز اتوار

انا فتحنا	لک فتحا	مبینا	یا سبوح	یا قدوس
۱	۱۱۶۱	۹۷	۱۸۱	۲۵۸
۸۷	۷	۲	۵۹۵	۶۹
ع	۱۸ع	۱۹۳	۱۶۵	۵۵ع۵
۱۹۲	۶۹	ع	۱ع	۱۸
لا	الہ	الا اللہ	محمد رسول	اللہ

بروز پیر

نصر من اللہ	وفتح قریب	وبشر المومنین	فاللہ خیر حافظا	وھو ارحم الراحمین
۱	۱۸۱	۸	۷	۱۵
۸	ع	۷	۱۷۳	۵ عہ
۶	۱ع	۲۷۲	۷	۸۶
۲۶	۱۸	۳ع	۷	۷۱ع
لا الہ	الا اللہ	محمد	رسول	اللہ

بروز منگل

یا نور النور	یا منور	النور	یا خالق	النور
۱۹	۱۸	۹۷۱	۸	ع۹
۵۶۳	۷	۲۶	۷	۷۲
۲۲	۲۲	۲	۲	۵ع۳
۳۹	عہ ۵	۱ع	۷۶	عہ۲۲
لا الہ	الا اللہ	محمد	رسول	اللہ

بروز بدھ

یا اللہ	یا فتاح	یا اللہ	یا قدوس	یا رزاق
۱	۱۸۱	۸۱۸۸	۱۱۸	۹۸
۹	۱۸	۷	۳	۳
ع	ع	۲۱	۲۸۲	۳
۱۲	عہ	ع	عہ	۵۲۵
۱	۸۱	۱۱	۲۸	۳

بروز جمعرات

یا ملیح	یا ودود	یا اللہ	یا فتاح	یا سبوح
۱	۲۱	۱۰۰	۷	۲۰۳
۱۲	۶	۱۳	۳	۲
عہ	ع	۹	۹	۱۹
۲	۹	۱۲۹	ع	۱۹۹
۹۶	۸	۳۱	۳	۳

بروز جمعہ

علیما	علیما	انت تعلم	مافی قلوبھم	علیما
۱	۱ع	۲	ع	۱۸
ع	۵عہ۵	۵۵۷۸	۱۲	۱۲
۷۲	ع	۱۲	۵ع	۱۳
۵۲۵	ع	۱۲۱	۱۹ع	۳
لا الہ	الا اللہ	محمد	رسول	اللہ

بروز ہفتہ

وافوض	امری	الی اللہ	ان اللہ	بصیر بالعباد
محمد علی	۵۳	۷۶	۱۲۰۳	۷
۱۷۳	ے	۰ ۱۲	ع	۱۷
۶	۷۰۹	۸۱۷۵	۱۹	۱۷
۱۸	۱۷	۶۹	ع	۱۰۷۱
لا	اللہ	الا اللہ	محمد رسول	اللہ

نقش اسمائے پنجتن پاک علیہم السلام

(برائے حل مشکلات و مہمات) کل اعداد: ۵۸۳

محمد علی فاطمہ حسن حسین

۱۳۸	۱۵۲	۱۴۸	۱۳۵
۱۲۹	۱۴۴	۱۳۹	۱۵۱
۱۴۳	۱۳۶	۱۵۴	۱۳۰
۱۵۳	۱۴۱	۱۴۲	۱۴۷

وسعت رزق کیلئے جب بھی گھر میں داخل ہوں گھر والوں پر اس طرح سلام کریں۔ (سَلَامٌ عَلَیْکُمْ) اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو (اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمْ) اس کے بعد سورہ توحید پڑھیں۔ انشاء اللہ کچھ دنوں کے بعد روزی کی زیادتی پر لوگ تعجب کریں گے۔

تاریخی مجلس عزا شہادت حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا 3 جمادی الثانی شب بمقام گلستان زہرا اہلبیت روڈ۔ منجانب: عقیل حیدر جعفری 0321 8430095

امامیہ تقویم ماہ جنوری 2019 عیسوی

ربیع الثانی / جمادی الاول ۱۴۴۰ ہجری

جمادی الاول کا چاند دیکھ کر آیت پڑھیں، قرآن یا ہادی کی صورت دیکھیں، سورہ حمد کی تلاوت کریں۔

ایام 31	عمومی تقویم عیسوی 2019 جنوری	بکرمی 2075 پوہ	شمسی 1940 جدی	استخراج و کوائف سیارگان (مطابق افق برصغیر) قمر فی البروج	قمر فی المنازل	سیارگان فی البروج	ہجری ۱۴۴۰ ربیع الثانی	نیک / نحس	اسلامی تقویم ولادت و شہادت معصومین علیہم السلام اسلامی معلومات	یادداشت
منگل	1	19	11	عقرب	شولہ 21:50	مریخ در حمل 07:20	۲۴	نحس		قمر در عقرب
بدھ	2	20	12	قوس 13:58	نعائم 22:07		۲۵	نحس		13:58 قمر در عقرب ختم
جمعرات	3	21	13		بلدہ 22:49		۲۶	نیک	نکاح و سفر کے لئے بد	
جمعہ	4	22	14	جدی 21:55	ذابح 23:55		۲۷	نیک		
ہفتہ	5	23	15			عطارد در جدی 08:10	۲۸	نحس اکبر		
اتوار	6	24	16		بلع 01:22		۲۹	نیک	نکاح کے لئے بد	جزوی سورج گرہن
پیر	7	25	17	دلو 11:46	سعود 03:07	زہرہ در قوس 16:18	۳۰	نیک	نکاح کے لئے بد	
منگل	8	26	18		اخبیہ 05:07		جمادی الاول	نیک		
بدھ	9	27	19		مقدم 07:16		۲	نیک		
جمعرات	10	28	20	حوت 00:44	موخر 09:27		۳	نحس		عرس رکن الدین ملتان
جمعہ	11	29	21		رشا 11:31		۴	نیک		
ہفتہ	12	30	22	حمل 13:18	شرطین 13:18		۵	نیک	بروایت میلاد مسعود حضرت زینبؑ ۵ھ	
اتوار	13	ماگھ	23		بطین 14:39		۶	نیک		
پیر	14	2	24	ثور 21:32	ثریا 15:25		۷	نیک		جنگ موتہ ۸ھ
منگل	15	3	25		دبران 15:30		۸	نیک	سفر کے لئے بد	
بدھ	16	4	26		ہقعہ 14:51		۹	نیک		
جمعرات	17	5	27	جوزا 06:00	ہنعہ 13:28		۱۰	نحس اکبر		عرس صوفی بابا کوئٹہ
جمعہ	18	6	28		ذراع 11:24		۱۱	نحس اکبر		
ہفتہ	19	7	29	سرطان 08:44	نثرہ 08:44		۱۲	نیک		
اتوار	20	8	دلو		طرفہ 05:35	شمس در دلو 13:59	۱۳	نحس	احتمال شہادت حضرت فاطمۃ الزہراؑ ۱۱ھ	
پیر	21	9	2	اسد 08:54	جبہہ 02:07 زبرہ 22:27		۱۴	نیک		چاند گرہن
منگل	22	10	3		صرفہ 18:46		۱۵	نیک	میلاد مسعود امام زین العابدینؑ ۳۸ھ	
بدھ	23	11	4	سنبلہ 08:22	عوا 15:12		۱۶	نحس	تعمیر مکان کے لئے نیک	
جمعرات	24	12	5		سماک 11:55	عطارد در دلو 10:49	۱۷	میانہ	قرض لینے دینے کے لئے بد	جنگ جمل ۳۶ھ
جمعہ	25	13	6	میزان 09:02	غفرہ 09:02		۱۸	نیک		
ہفتہ	26	14	7		زبانہ 06:41		۱۹	نیک		
اتوار	27	15	8	عقرب 12:31	اکلیل 04:57		۲۰	میانہ	تعمیر مکان کے لئے نیک	12:31 قمر در عقرب شروع
پیر	28	16	9		قلب 03:52		۲۱	نحس		
منگل	29	17	10	قوس 19:33	شولہ 03:27		۲۲	نیک		19:33 قمر در عقرب ختم
بدھ	30	18	11		نعائم 03:41		۲۳	نیک		
جمعرات	31	19	12		بلدہ 04:30		۲۴	نحس		

3 جمادی الثانی کی مجلس [illegible] 8 بجے شب [illegible] 042-37155253

قمر در عقرب ختم 2 جنوری۔ ابتدا قمر در عقرب 27 جنوری 12 بجکر 31 منٹ دن۔ اختتام قمر در عقرب 29 جنوری 7 بجکر 33 منٹ شام

اوقات شرعی برائے لاہور۔ کراچی

جنوری

تاریخ	لاہور				کراچی	
	طلوع فجر	طلوع آفتاب	زوال آفتاب	غروب آفتاب	طلوع آفتاب	غروب آفتاب
01	05:36	07:03	12:07	05:10	07:16	05:55
02	05:36	07:03	12:07	05:10	07:16	05:55
03	05:36	07:03	12:07	05:11	07:17	05:56
04	05:36	07:03	12:08	05:11	07:17	05:56
05	05:36	07:04	12:08	05:12	07:17	05:57
06	05:36	07:04	12:09	05:13	07:17	05:58
07	05:36	07:04	12:09	05:14	07:18	05:59
08	05:36	07:04	12:10	05:15	07:18	05:59
09	05:36	07:04	12:10	05:16	07:18	06:00
10	05:36	07:04	12:11	05:17	07:18	06:01
11	05:36	07:03	12:11	05:17	07:18	06:02
12	05:36	07:03	12:11	03:18	07:18	06:02
13	05:36	07:03	12:12	05:19	07:18	06:03
14	05:36	07:03	12:12	05:20	07:18	06:04
15	05:36	07:03	12:12	05:21	07:18	06:05
16	05:37	07:03	12:13	05:22	07:18	06:05
17	05:37	07:02	12:13	05:22	07:18	06:06
18	05:37	07:02	12:13	05:23	07:18	06:07
19	05:37	07:02	12:14	05:24	07:18	06:08
20	05:37	07:02	12:14	05:25	07:18	06:08
21	05:37	07:02	12:14	05:26	07:18	06:09
22	05:37	07:01	12:15	05:27	07:18	06:10
23	05:36	07:01	12:15	05:28	07:17	06:11
24	05:36	07:01	12:15	05:29	07:17	06:11
25	05:35	07:00	12:15	05:30	07:17	06:12
26	05:35	07:00	12:16	05:31	07:17	06:13
27	05:34	06:59	12:16	05:32	07:16	06:14
28	05:34	06:59	12:16	05:33	07:16	06:14
29	05:32	06:58	12:16	05:34	07:15	06:15
30	05:32	06:58	12:16	05:35	07:15	06:15
31	05:32	06:57	12:16	05:36	07:14	06:16

کیفیات قمر 2019

شرف قمر (درجہ ثور)

تاریخ	وقت آغاز	تاریخ	وقت اختتام
14 جنوری	23:31	17 جنوری	06:00
11 فروری	06:28	13 فروری	14:32
10 مارچ	12:10	12 مارچ	20:48
06 اپریل	18:06	09 اپریل	02:15
04 مئی	01:18	06 مئی	08:40
31 مئی	09:43	02 جون	16:48
27 جون	16:32	30 جون	02:09
25 جولائی	02:42	27 جولائی	11:29
21 اگست	09:37	23 اگست	19:34
17 ستمبر	15:31	20 ستمبر	01:38
14 اکتوبر	21:24	17 اکتوبر	07:30
11 نومبر	04:18	13 نومبر	13:46
08 دسمبر	12:29	10 دسمبر	21:47

اوج قمر (درجہ سنبلہ)

تاریخ	وقت آغاز	تاریخ	وقت اختتام
23 جنوری	08:22	25 جنوری	09:02
19 فروری	19:47	21 فروری	19:17
19 مارچ	06:41	21 مارچ	06:28
15 اپریل	15:14	17 اپریل	16:22
12 مئی	21:22	14 مئی	23:51
09 جون	02:45	11 جون	05:29
06 جولائی	09:25	08 جولائی	11:07
02 اگست	18:20	04 اگست	18:30
30 اگست	04:57	01 ستمبر	04:08
26 ستمبر	15:37	28 ستمبر	15:03
24 اکتوبر	00:29	26 اکتوبر	01:20
20 نومبر	06:54	22 نومبر	09:19
17 دسمبر	12:16	19 دسمبر	15:04

ہبوط قمر (درجہ عقرب)

تاریخ	وقت آغاز	تاریخ	وقت اختتام
31 دسمبر	06:23	02 جنوری	13:58
27 جنوری	12:31	29 جنوری	19:33
23 فروری	20:56	26 فروری	02:19
23 مارچ	07:16	25 مارچ	11:06
19 اپریل	17:40	21 اپریل	20:59
17 مئی	02:26	19 مئی	06:21
13 جون	09:02	15 جون	14:03
10 جولائی	14:28	12 جولائی	20:05
06 اگست	20:31	09 اگست	01:35
03 ستمبر	04:35	05 ستمبر	08:08
30 ستمبر	14:42	02 اکتوبر	16:44
28 اکتوبر	01:29	30 اکتوبر	02:58
24 نومبر	10:58	26 نومبر	13:11
21 دسمبر	17:57	23 دسمبر	21:34

وبال قمر (درجہ جدی)

تاریخ	وقت آغاز	تاریخ	وقت اختتام
04 جنوری	23:55	07 جنوری	11:46
01 فروری	05:47	03 فروری	18:03
28 فروری	11:18	03 مارچ	00:06
27 مارچ	19:07	30 مارچ	06:46
24 اپریل	03:50	26 اپریل	14:27
21 مئی	12:56	23 مئی	22:49
17 جون	21:13	20 جون	07:00
15 جولائی	04:05	17 جولائی	14:19
11 اگست	09:50	13 اگست	20:35
07 ستمبر	15:37	10 ستمبر	02:24
04 اکتوبر	22:43	07 اکتوبر	08:42
01 نومبر	07:38	03 نومبر	16:19
28 نومبر	17:32	01 دسمبر	01:13
26 دسمبر	02:45	28 دسمبر	10:20

طرح قمر (درجہ قوس)

تاریخ	وقت آغاز	تاریخ	وقت اختتام
02 جنوری	13:58	04 جنوری	23:55
29 جنوری	19:33	01 فروری	05:47
26 فروری	02:19	28 فروری	11:48
25 مارچ	11:06	27 مارچ	19:07
21 اپریل	20:59	24 اپریل	03:50
19 مئی	06:21	21 مئی	12:56
15 جون	14:03	17 جون	21:13
12 جولائی	20:05	15 جولائی	04:05
09 اگست	01:35	11 اگست	09:50
05 ستمبر	08:08	07 ستمبر	15:37
02 اکتوبر	16:44	04 اکتوبر	22:43
30 اکتوبر	02:58	01 نومبر	07:38
26 نومبر	13:11	28 نومبر	17:32
23 دسمبر	21:34	26 دسمبر	02:45

حصص قمر (درجہ حوت)

تاریخ	وقت آغاز	تاریخ	وقت اختتام
10 جنوری	00:44	12 جنوری	13:18
06 فروری	07:02	08 فروری	19:34
05 مارچ	13:11	08 مارچ	01:27
01 اپریل	19:48	04 اپریل	07:56
29 اپریل	03:11	01 مئی	15:24
26 مئی	11:07	28 مئی	23:32
22 جون	19:01	25 جون	07:38
20 جولائی	02:19	22 جولائی	15:02
16 اگست	08:49	18 اگست	21:33
12 ستمبر	14:51	15 ستمبر	03:32
09 اکتوبر	21:05	12 اکتوبر	09:46
06 نومبر	04:08	08 نومبر	16:49
03 دسمبر	12:10	06 دسمبر	00:44
30 دسمبر	20:41		

ہدایات حضرت امام رضا علیہ السلام

ان دنوں میں بلغم پیدا ہوتا ہے۔ گرم پانی کے چند گھونٹ پینا مفید ہے۔ دن کے ابتدائی حصہ میں مالش مفید ہے۔ گرم سبزیاں اور پودینہ استعمال کریں۔

برائے بلڈ پریشر

نماز صبح کے بعد 14 مرتبہ پانی پر پڑھ کر پیجئے سے فشار خون میں کمی کا باعث ہے

یٰنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ۞ (انبیاء ۶۹-۷۰)

ترجمہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی کا باعث ہو جا اور انہوں نے ان کے ساتھ چالبازی کرنی چاہی تو ہم نے ان ہی کو ناکام کر دیا۔

کاروان امام رضاؑ
ایران، عراق، شام کی زیارات کے لیے قدیمی ادارہ
قافلہ سالار الحاج سید جاوید زیدی
0321-4502614

9 محرم الحرام سلسلہ شب عاشور و اذان علی اکبرؑ بمقام عزاخانہ پانڈا [illegible] اسلام پورہ لاہور سید مقبول حسین نقوی 0301-4268871

[illegible] 0300-5411734 [illegible] 04237155253

امامیہ تقویم ماہ فروری 2019 عیسوی

جمادی الاول | جمادی الثانی ۱۴۴۰ ہجری

ماہ جمادی الثانی کا چاند دیکھ کر سورہ مدثر (پارہ ۲۹) ورد سے فرزند [illegible]

عمومی تقویم — استخراج و کوائف سیارگان — مطابق افق برصغیر

اسلامی تقویم — ہجری ۱۴۴۰

نیک — ولادت و شہادت معصومین علیہم السلام

نحس — اسلامی معلومات — یادداشت

ایام 28	عیسوی 2019 فروری	بکرمی 2075 ماگھ	شمسی 1940 دلو	قمر فی البروج	قمر فی المنازل	سیارگان فی البروج	جمادی الاول	نحس	اسلامی معلومات	یادداشت
جمعہ	1	20	13	جدی ♑ 05:47	ذابح 05:47		۲۵	نحس		عرس پیر سید عبدالقادر گیلانی جانی جھنگ
ہفتہ	2	21	14		بلع 07:27		۲۶	نیک	نکاح و سفر کے لئے بد	
اتوار	3	22	15	دلو ♒ 18:03	سعود 09:22		۲۷	نیک		عرس خواجہ اللہ توکل [illegible] شریف
پیر	4	23	16		اخبیہ 11:27	03:29 زہرہ در جدی	۲۸	نحس اکبر		
منگل	5	24	17		مقدم 13:36		۲۹	نیک	نکاح کے لئے بد	یوم کشمیر
بدھ	6	25	18	حوت ♓ 07:02	موخر 15:44		۳۰	نیک	نکاح کے لئے بد	
جمعرات	7	26	19		رشا 17:45		جمادی الثانی	نحس اکبر		عرس سلطان باہو گڑھ مہاراجہ
جمعہ	8	27	20	حمل ♈ 19:34	شرطین 19:34		۲	نیک		
ہفتہ	9	28	21		بطین 21:05		۳	نحس	شہادت بی بی فاطمۃ الزہراؑ ۱۱ھ	
اتوار	10	29	22		ثریا 22:12	15:50 عطارد در حوت	۴	نیک	سفر کے لئے بد	
پیر	11	30	23	ثور ♉ 06:28	دبران 22:49		۵	نحس		عرس امام سید شاہ جلال پور جہلم
منگل	12	پھاگن	24		ھقعہ 22:52		۶	نیک		
بدھ	13	2	25	جوزا ♊ 14:32	ھنعہ 22:15		۷	نیک		عرس بی بی پاک دامن لاہور
جمعرات	14	3	26		ذراع 20:59	15:51 مریخ در ثور	۸	نیک	سفر کے لئے بد	
جمعہ	15	4	27	سرطان ♋ 19:03	نثرہ 19:03		۹	نیک		
ہفتہ	16	5	28		طرفہ 16:30		۱۰	نیک		فتح جنگ جمل ۳۶ھ
اتوار	17	6	29	اسد ♌ 20:21	جبہ 13:28		۱۱	نحس اکبر		
پیر	18	7	30		زبرہ 10:01		۱۲	نحس اکبر		
منگل	19	8	حوت	سنبلہ ♍ 19:47	صرفہ 06:19	04:04 شمس در حوت	۱۳	نحس	شہادت ام البنینؑ والدہ حضرت عباسؑ	
بدھ	20	9	2		عوا 02:31 سماک 22:47		۱۴	نیک		
جمعرات	21	10	3	میزان ♎ 19:17	غفرہ 19:17		۱۵	نیک		
جمعہ	22	11	4		زبانہ 16:11		۱۶	نحس	تعمیر مکان کے لئے نیک	
ہفتہ	23	12	5	عقرب 20:56	اکلیل 13:38		۱۷	میانہ	قرض لینے دینے کے لئے بد	20:56 قمر در عقرب شروع
اتوار	24	13	6		قلب 11:46		۱۸	نیک	شہادت قاضی نور اللہ شوستری	
پیر	25	14	7		شولہ 10:38		۱۹	نیک		عرس سید جلال الدین اوچ شریف
منگل	26	15	8	قوس 02:19	نعائم 10:18		۲۰	نیک	میلاد مسعود بی بی فاطمۃ الزہراؑ	02:19 قمر در عقرب ختم
بدھ	27	16	9		بلدہ 10:43		۲۱	نحس		
جمعرات	28	17	10	جدی ♑ 11:48	ذابح 11:48		۲۲	نیک	منت دسترخوان امام حسن علیہ السلام	

قمری تاریخوں کی سعادت و نحوست معتبر روایات سے ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا انکی اہمیت اس درجہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ ضروریات دینی دنیاوی کو محض اس وجہ سے معطل کیا جائے۔ کام اہم ہو، تاریخ نحس ہو تو اس کام کو صدقہ دیکر کر لیا جائے۔ قمر در عقرب کے ایام نحس ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی نیا کام، شادی، نکاح، یا کسی قسم کا معاہدہ ہرگز نہ کریں۔ (علامہ علی نقی مجتہد فی السنۃ)

ابتدا قمر در عقرب 23 فروری رات 8 بجکر 56 منٹ۔ اختتام قمر در عقرب 26 فروری بعد نصف شب 2 بجکر 19 منٹ

29 جمادی الاول تا 3 جمادی الثانی خمسہ مجالس شہادت سیدہ فاطمہؑ 8 بجے شب۔ مقام علی نثار حویلی اندرون موچی گیٹ لاہور۔ عباد علی کردیزی ✦ سالانہ مجلس عالی ایام عزائے فاطمہ 3 جمادی الثانی رات 8 بجے مرکزی امام بارگاہ آگاہی سیداں۔ بدر عباس 0344-4514572

3 جمادی الثانی بمطابق چاند کی 8 بجے سالانہ مجلس عزا بسلسلہ شہادت بی بی فاطمۃ الزہراؑ مرکزی امام بارگاہ مہاجرین سادات بھون روڈ چکوال۔ ڈاکٹر صفدر جعفری 0302-5609091

اوقات شرعی برائے لاہور۔ کراچی

فروری

تاریخ	طلوع فجر	طلوع آفتاب	زوال آفتاب	غروب آفتاب	طلوع آفتاب	غروب آفتاب
	لاہور				کراچی	
01	05:32	06:56	12:16	05:37	07:14	06:17
02	05:31	06:56	12:17	05:38	07:14	06:18
03	05:31	06:55	12:17	05:39	07:13	06:19
04	05:30	06:54	12:17	05:39	07:13	06:19
05	05:30	06:54	12:17	05:40	07:12	06:20
06	05:29	06:53	12:17	05:41	07:12	06:20
07	05:29	06:52	12:17	05:42	07:11	06:21
08	05:28	06:52	12:17	05:43	07:11	06:22
09	05:28	06:51	12:17	05:44	07:10	06:23
10	05:27	06:50	12:17	05:44	07:10	06:23
11	05:27	06:49	12:17	05:45	07:09	06:24
12	05:26	06:48	12:17	05:46	07:08	06:24
13	05:26	06:47	12:17	05:47	07:07	06:25
14	05:25	06:46	12:17	05:48	07:07	06:26
15	05:24	06:45	12:17	05:49	07:06	06:27
16	05:23	06:44	12:17	05:50	07:05	06:27
17	05:22	06:43	12:17	05:51	07:04	06:28
18	05:21	06:42	12:17	05:52	07:04	06:28
19	05:21	06:41	12:16	05:53	07:03	06:29
20	05:20	06:40	12:16	05:54	07:02	06:29
21	05:19	06:39	12:16	05:55	07:01	06:30
22	05:18	06:38	12:16	05:55	07:01	06:30
23	05:17	06:37	12:16	05:56	07:00	06:31
24	05:16	06:36	12:16	05:57	06:59	06:31
25	05:15	06:35	12:16	05:58	06:58	06:32
26	05:14	06:34	12:16	05:58	06:57	06:32
27	05:13	06:33	12:16	05:59	06:56	06:33
28	05:12	06:32	12:16	05:59	06:55	06:33

ہدایات حضرت امام رضا علیہ السلام

ماہ فروری میں ٹھنڈی اشیاء کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔

پودینہ، لونگ اور لہسن کا استعمال مفید ہے۔

لنگر/دسترخوان سرکار امام حسنؑ شہزادہ سبز قبا

کا اہتمام ہر ماہ کی 14 تاریخ کو سید ناصر علی بخاری ٹرسٹ اسلام آباد کی طرف سے کیا جاتا ہے

امام بارگاہ امام موسیٰ کاظمؑ I-10-1
اسلام آباد

ممنون شرکت

سید ناظم حسین بخاری (ناظم شاہ)
0333-999-0786
[illegible]

برائے بلندی درجات

سید امیر شاہ کربلائی

سید ملازم حسین شاہ، [illegible]، سید ناصر بخاری

معاون خصوصی مولانا عمران حیدر 0335-7743503

کیفیات قمر 2019

فرح قمر (… درجہ جوزا)

تاریخ	وقت آغاز	تاریخ	وقت اختتام
17 جنوری	06:00	19 جنوری	08:44
13 فروری	14:32	15 فروری	19:03
12 مارچ	20:48	15 مارچ	02:49
09 اپریل	02:15	11 اپریل	08:31
06 مئی	08:40	08 مئی	14:06
02 جون	16:48	04 جون	21:17
30 جون	02:09	02 جولائی	06:24
27 جولائی	11:29	29 جولائی	16:31
23 اگست	19:34	26 اگست	02:05
20 ستمبر	01:58	22 ستمبر	09:50
17 اکتوبر	07:30	19 اکتوبر	15:43
13 نومبر	13:46	15 نومبر	21:15
10 دسمبر	21:47	13 دسمبر	04:23

ترمع قمر (… درجہ سرطان)

تاریخ	وقت آغاز	تاریخ	وقت اختتام
19 جنوری	08:44	21 جنوری	08:54
15 فروری	19:03	17 فروری	20:21
15 مارچ	02:49	17 مارچ	05:57
11 اپریل	08:31	13 اپریل	12:50
08 مئی	14:06	10 مئی	18:14
04 جون	21:17	07 جون	00:16
02 جولائی	06:24	04 جولائی	08:19
29 جولائی	16:31	31 جولائی	18:18
26 اگست	02:05	28 اگست	04:53
22 ستمبر	09:50	24 ستمبر	14:19
19 اکتوبر	15:43	21 اکتوبر	21:28
15 نومبر	21:15	18 نومبر	02:57
13 دسمبر	04:23	15 دسمبر	08:56

دعائے مناجات

معتبر روایات میں ہے کہ یہ دعا استغاثہ باللہ ہے جو تمام پریشانیوں کے حل کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں اور اسکے فوری نتائج سے لطف اندوز ہوں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ يَا مُفَتِّحَ الْاَبْوَابِ وَيَا مُسَبِّبَ الْاَسْبَابِ وَيَا مُقَلِّبَ
الْقُلُوْبِ وَالْاَبْصَارِ وَيَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ وَيَا دَلِيْلَ الْمُتَحَيِّرِيْنَ وَيَا مُفَرِّجَ
الْمَحْزُوْنِيْنَ اَغِثْنِیْ اَغِثْنِیْ تَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَفَوَّضْتُ اِلَيْكَ
اَمْرِیْ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا اَللّٰهُ يَا بَاسِطُ يَا رَازِقُ يَا فَتَّاحُ يَا كَرِيْمُ

ترجمہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم اے کھولنے والے دروازوں کے اور اے پیدا کرنے والے اسباب کے اور اے پھیرنے والے دلوں کے اور نگاہوں کے اور اے فریاد سننے والے فریاد والوں کی اور اے راہ بتانے والے حیرانوں کے اور اے فرحت دینے والے غمگینوں کے میری فریاد سن میری فریاد سن بھروسہ کیا ہے میں نے تجھ پر اے میرے رب اور میں نے تیرے سپرد کیا اپنا کام اے پروردگار اے پروردگار اے پروردگار اے اللہ اے خوشحال کرنے والے اے رزق کے کھولنے والے کریم۔

مجرب ترین نسخہ برائے شوگر

درج ذیل 16 اشیاء ہم وزن لیکر سفوف بنا کر آدھا چمچ چائے والا یا حسب ضرورت منہ نہار پھانک کر پانی پی لیا کرے چند دنوں کے اندر اندر شوگر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ (از علامہ ظفر عباس اسدی)

نوٹ نسخہ استعمال سے پہلے شوگر کا پوائنٹ چیک کر لیں بہت زیادہ کم ہونے پر دوائی کا استعمال کم کر دیں۔

(۱) کلونجی (۲) گٹھلی جامن (۳) گڑمار بوٹی (۴) خام کریلہ (۵) تخم سرس (۶) حنظل
(۷) گوند کیکر (۸) تخم آم (۹) زیرہ سیاہ (۱۰) تخم نیم (۱۱) ماجو (۱۲) [illegible]
(۱۳) رسونت (۱۴) ہرڑ سبز (۱۵) کالے چنے (۱۶) افسنتین۔

[illegible] 37159601 [illegible]

قدیمی سالانہ مجلس عزا و زیارت ضریح امام مظلوم 15 محرم 7 بجے شب بمقام قصر بنی ہاشم نزد فوری بلڈنگ اسلام پورہ لاہور۔ فریاد علی شاہ 0334-4273800

امامیہ تقویم ماہ مارچ 2019 عیسوی

جمادی الثانی | رجب المرجب ۱۴۴۰ ہجری

ماہ رجب کا چاند دیکھ کر سورہ یٰسین (پارہ ۲۲) یا اول یا ہفتم قرآن پاک پڑھیں

ایام	عیسوی 2019 مارچ 31	بکرمی 2075 بھاگن	شمسی 1940 حوت	قمر فی البروج	قمر فی المنازل	سیارگان فی البروج	ہجری ۱۴۴۰	نیک / نحس	ولادت و شہادت معصومین علیہم السلام اسلامی معلومات	یادداشت
جمعہ	1	18	11		بلع 13:25	زہرہ در دلو 21:45	۲۳	نیک		
ہفتہ	2	19	12		سعود 15:24		۲۴	نحس		عرس داؤد بندگی (شیرگڑھ)
اتوار	3	20	13	دلو ♒ 00:06	اخبیہ 17:34		۲۵	نحس		
پیر	4	21	14		مقدم 19:45		۲۶	نیک	نکاح و سفر کے لئے بد	
منگل	5	22	15	حوت ♓ 13:11	موخر 21:52		۲۷	نیک		عرس عنایت قادری لاہور
بدھ	6	23	16		رشا 23:47		۲۸	نحس اکبر		عرس غنی زمان راولپنڈی
جمعرات	7	24	17				۲۹	نیک	نکاح کے لئے بد	
جمعہ	8	25	18	حمل ♈ 01:27	شرطین 01:27		۳۰	نیک	نکاح کے لئے بد	
ہفتہ	9	26	19		بطین 02:50		رجب	نیک	میلاد مسعود امام محمد باقرؑ ۵۷ھ	
اتوار	10	27	20	ثور ♉ 12:10	ثریا 03:53		۲	نیک		
پیر	11	28	21		دبران 04:35		۳	نحس	شہادت امام علی نقیؑ ۲۵۴ھ	
منگل	12	29	22	جوزا ♊ 20:48	ہقعہ 04:52		۴	نیک	سفر کے لئے بد	
بدھ	13	30	23		ہنعہ 04:41		۵	نیک	میلاد مسعود امام علی نقیؑ ۲۱۲ھ	
جمعرات	14	چیت	24		ذراعہ 04:01		۶	نیک		بکرمی سال کا آغاز
جمعہ	15	2	25	سرطان ♋ 02:49	نثرہ 02:49		۷	نیک		
ہفتہ	16	3	26		طرفہ 01:05 جبہہ 22:48		۸	نیک	سفر کے لئے بد	
اتوار	17	4	27	اسد ♌ 05:57	زبرہ 20:04		۹	نیک	میلاد مسعود شہزادہ علی اصغرؑ	
پیر	18	5	28		صرفہ 16:56		۱۰	نیک	میلاد مسعود امام محمد تقیؑ ۱۹۵ھ	
منگل	19	6	29	سنبلہ ♍ 06:41	عوا 13:32		۱۱	نحس اکبر		
بدھ	20	7	30		سماک 09:59		۱۲	نحس اکبر		
جمعرات	21	8	حمل	میزان ♎ 06:28	غفرہ 06:28	شمس در حمل 02:58	۱۳	نیک	ظہور پرنور حضرت علیؑ در خانہ کعبہ	نوروز عالم افروز
جمعہ	22	9	2		زبانہ 03:08		۱۴	نیک		
ہفتہ	23	10	3	عقرب 07:16	اکلیل 00:09 قلب 21:42		۱۵	نحس	بروایتے شہادت بی بی زینبؑ	[illegible] یوم پاکستان
اتوار	24	11	4		شولہ 19:53		۱۶	نحس	تعمیر مکان کے لئے نیک	
پیر	25	12	5	قوس 11:06	نعائم 18:50		۱۷	میانہ	قرض لینے دینے کے لئے بد	11:06 قمر در عقرب ختم
منگل	26	13	6		بلدہ 18:35		۱۸	نیک		
بدھ	27	14	7	جدی ♑ 19:07	ذابح 19:07	زہرہ در حوت 00:43	۱۹	نیک		
جمعرات	28	15	8		بلع 20:21		۲۰	میانہ		
جمعہ	29	16	9		سعود 22:06		۲۱	نحس		
ہفتہ	30	17	10	دلو ♒ 06:46			۲۲	نیک	نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام	عرس سخی سرور ڈیرہ غازی خان
اتوار	31	18	11		اخبیہ 00:10	مریخ در جوزا 11:12	۲۳	نحس		

07:16 قمر در عقرب شروع

0333-6462077

ابتدا قمر در عقرب 23 مارچ صبح 7 بجکر 16 منٹ۔ اختتام قمر در عقرب 25 مارچ 11 بجکر 6 منٹ صبح

تاریخی مجلس 25 صفر بعد مغرب شبیہ تابوت امام حسن مجتبیٰ بمقام قصر فیروز انصاری روڈ اسلام پورہ لاہور ۔ پسران فیروز علی خواجہ مرحوم 042-37155253

اوقات شرعی برائے لاہور۔ کراچی

مارچ

تاریخ	لاہور طلوع فجر	لاہور طلوع آفتاب	لاہور زوال آفتاب	لاہور غروب آفتاب	کراچی طلوع آفتاب	کراچی غروب آفتاب
1	05:10	06:30	12:16	06:00	06:54	06:34
2	05:09	06:29	12:15	06:01	06:54	06:34
3	05:08	06:28	12:15	06:01	06:53	06:35
4	05:07	06:27	12:15	06:02	06:52	06:35
5	05:06	06:26	12:15	06:02	06:51	06:36
6	05:05	06:25	12:14	06:03	06:50	06:36
7	05:04	06:24	12:14	06:04	06:49	06:37
8	05:03	06:23	12:14	06:05	06:48	06:37
9	05:02	06:22	12:14	06:06	06:47	06:38
10	05:00	06:21	12:14	06:07	06:46	06:38
11	04:59	06:19	12:13	06:07	06:45	06:39
12	04:58	06:18	12:13	06:08	06:44	06:39
13	04:57	06:17	12:13	06:09	06:43	06:40
14	04:56	06:16	12:13	06:10	06:42	06:40
15	04:54	06:14	12:12	06:10	06:41	06:41
16	04:53	06:13	12:12	06:11	06:40	06:41
17	04:52	06:12	12:12	06:12	06:39	06:42
18	04:51	06:10	12:11	06:13	06:38	06:42
19	04:50	06:09	12:11	06:14	06:37	06:43
20	04:48	06:08	12:11	06:14	06:36	06:43
21	04:47	06:06	12:10	06:15	06:35	06:44
22	04:46	06:05	12:10	06:16	06:34	06:44
23	04:44	06:03	12:10	06:16	06:33	06:45
24	04:43	06:02	12:09	06:17	06:32	06:45
25	04:41	06:01	12:09	06:18	06:31	06:46
26	04:40	06:00	12:09	06:18	06:30	06:46
27	04:39	05:58	12:09	06:18	06:29	06:46
28	04:38	05:57	12:08	06:19	06:27	06:46
29	04:36	05:56	12:08	06:20	06:26	06:47
30	04:35	05:55	12:08	06:20	06:25	06:47
31	04:33	05:54	12:07	06:21	06:24	06:48

ہدایات حضرت امام رضا علیہ السلام

اس ماہ میں بلغم پیدا ہوتا ہے۔ گرم پانی کے چند گھونٹ پینا مفید ہے۔ دن کے اولین حصہ میں مالش مفید ہے۔ گرم سبزیاں اور پودینہ استعمال کریں۔

تسبیح اسمائے حسنیٰ

کاروبار میں وسعت و نفع اور ہر نقصان و گھاٹے سے محفوظ رہنے کیلئے ان اسماء کا ورد ہر نماز کے بعد گیارہ بار کریں یہ موثر ترین عمل ہے

یَا رَزَّاقُ یَا نَافِعُ یَا غَنِیُّ یَا وَهَّابُ یَا بَاسِطُ یَا مُعْطِی

[illegible]

اوقات شرف و ہبوط سیارگان

عطارد

حالت	تاریخ	وقت آغاز	تاریخ	وقت اختتام
ہبوط	10 فروری	15:51	17 اپریل	11:01
قران	17 اپریل	11:01	06 مئی	23:25
حضیض	06 مئی	23:25	21 مئی	15:52
تربیع	21 مئی	15:52	05 جون	01:04
شرف	29 اگست	12:48	14 ستمبر	12:14
طرح	14 ستمبر	12:14	03 اکتوبر	13:14
اوج	03 اکتوبر	13:14	09 دسمبر	14:41
وبال	09 دسمبر	14:41	29 دسمبر	09:55

زہرہ

حالت	تاریخ	وقت آغاز	تاریخ	وقت اختتام
حضیض	07 جنوری	16:18	04 فروری	03:29
طرح	01 مارچ	21:45	27 مارچ	00:43
شرف	27 مارچ	00:43	20 اپریل	21:10
وبال	20 اپریل	21:10	15 مئی	14:46
تربیع	15 مئی	14:46	09 جون	06:37
اوج	09 جون	06:37	03 جولائی	20:18
فرح	28 جولائی	06:54	21 اگست	14:06
ہبوط	21 اگست	14:06	14 ستمبر	18:43
تربیع	14 ستمبر	18:43	08 اکتوبر	22:06
وبال	08 اکتوبر	22:06	02 نومبر	01:25
حضیض	02 نومبر	01:25	26 نومبر	05:28

مریخ

حالت	تاریخ	وقت آغاز	تاریخ	وقت اختتام
تربیع	01 جنوری	07:20	14 فروری	15:51
وبال	14 فروری	15:51	31 مارچ	11:12
ہبوط	16 مئی	08:09	02 جولائی	04:19
اوج	02 جولائی	04:19	18 اگست	10:18
فرح	18 اگست	10:18	04 اکتوبر	09:22
وبال	04 اکتوبر	09:22	19 نومبر	12:40
تربیع	19 نومبر	12:40	03 جنوری	14:37

شمس

حالت	تاریخ	وقت آغاز	تاریخ	وقت اختتام
حضیض	20		20 جنوری	13:59
وبال	20 جنوری	13:59	19 فروری	04:04
شرف	21 مارچ	02:58	20 اپریل	13:55
طرح	20 اپریل	13:55	21 جون	20:54
اوج	21 جون	20:54	23 جولائی	07:50
تربیع	23 جولائی	07:50	23 اگست	15:02
ہبوط	23 ستمبر	12:50	23 اکتوبر	22:20
فرح	22 نومبر	19:59	22 دسمبر	09:19

امامیہ جنتری خریدتے وقت معیار ضرور چیک کریں

مجلس عزا ہر سال اپریل کا دوسرا اتوار بمقام کربلا گامے شاہ لاہور ۔ ملک شجر حسین اعوان اینڈ برادرز نیو گارڈن ٹاؤن
18 رمضان المبارک سالانہ مخصوصی مجلس بمقام اعوان چک 39 پتوکی ۔ پنجاب: ملک ریاض اعوان 0300-9430948

55ویں سالانہ مجالس تبلیغ ایمان یکم تا 10 صفر 6 بجے شب زیر اہتمام شہدائے کربلا گرین ٹاؤن آچارہ سٹاپ وحدت روڈ لاہور 0321-4870392 سید محمد احمد نقوی

امامیہ تقویم ماہ اپریل 2019 عیسوی

رجب المرجب | شعبان المعظم ۱۴۴۰ ھجری

[illegible]

ایام 30	عمومی تقویم عیسوی 2019 اپریل	بکرمی 2076 چیت	شمسی 1941 حمل	استخراج و کوائف سیارگان (مطابق اہل برصغیر) قمر فی البروج	قمر فی المنازل	سیارگان فی البروج	اسلامی تقویم ہجری ۱۴۴۰ رجب	نیک / نحس	ولادت و شہادت معصومین علیہم السلام اسلامی معلومات	یادداشت
پیر	1	19	12	حوت 19:48	مقدم 02:22		۲۴	نیک	فتح جنگ خیبر بدست حضرت علیؑ ۷ ہجری	
منگل	2	20	13		موخر 04:29		۲۵	نحس	شہادت امام موسیٰ کاظمؑ	
بدھ	3	21	14		رشا 06:23		۲۶	نیک	نکاح و سفر کے لئے بد	شب معراج شریف
جمعرات	4	22	15	حمل 07:56	شرطین 07:56		۲۷	نیک	عید بعثت رسول خدا	معراج شریف
جمعہ	5	23	16		بطین 09:07		۲۸	نحس	امام حسینؑ کی مدینہ سے روانگی برائے کربلا ۶۰ھ	
ہفتہ	6	24	17	ثور 18:06	ثریا 09:55		۲۹	نیک	نکاح کے لئے بد	
اتوار	7	25	18		دبران 10:21		شعبان	نیک	میلاد مسعود بی بی زینب	
پیر	8	26	19		ہقعہ 10:24		۲	نیک	ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے ۲ ہجری	
منگل	9	27	20	جوزا 02:15	ہنعہ 10:07		۳	نیک	میلاد مسعود امام حسینؑ	
بدھ	10	28	21		ذراع 09:29		۴	نیک	میلاد مسعود حضرت عباس علمدارؑ	
جمعرات	11	29	22	سرطان 08:31	نثرہ 08:31		۵	نحس		
جمعہ	12	30	23		طرفہ 07:11		۶	نیک		
ہفتہ	13	31	24	اسد 12:50	جبہ 05:29		۷	نیک	میلاد مسعود شہزادہ قاسم ابن امام حسنؑ	
اتوار	14	[illegible]	25		زبرہ 03:25		۸	نیک	سفر کے لئے بد	
پیر	15	2	26	سنبلہ 15:14	صرفہ 01:00 عوا 22:18		۹	نیک		
منگل	16	3	27		سماک 19:23		۱۰	نیک		
بدھ	17	4	28	میزان 16:22	غفرہ 16:22	عطارد در حمل 11:00	۱۱	نیک	میلاد مسعود شہزادہ علی اکبرؑ	
جمعرات	18	5	29		زبانہ 13:22		۱۲	نیک		
جمعہ	19	6	30	عقرب 17:40	اکلیل 10:33		۱۳	نیک	یوم عرفہ	17:40 قمر در عقرب شروع
ہفتہ	20	7	ثور		قلب 08:03	زہرہ در حمل 21:10 شمس در ثور 13:55	۱۴	نصف خیر	شب برات (دن گزرنے کے بعد)	
اتوار	21	8	2	قوس 20:59	شولہ 06:01		۱۵	نیک	میلاد مسعود حضرت صاحب العصرؑ ۲۵۵ھ	وفات علامہ اقبالؒ
پیر	22	9	3		نعائم 04:35		۱۶	نحس	تعمیر کے لئے نیک	
منگل	23	10	4		بلدہ 03:50		۱۷	میانہ	قرض لینے دینے کے لئے بد	
بدھ	24	11	5	جدی 03:50	ذابح 03:50		۱۸	نیک	وفات حضرت حسین ابن روحؒ	عرس شہباز قلندر سیہون شریف
جمعرات	25	12	6		بلع 04:33		۱۹	نیک		
جمعہ	26	13	7	دلو 14:27	سعود 05:54		۲۰	نصف خیر	تعمیر کے لئے نیک	
ہفتہ	27	14	8		اخبیہ 07:42		۲۱	نحس		عرس سید احمد حسن سیالکوٹ
اتوار	28	15	9		مقدم 09:46		۲۲	نیک		
پیر	29	16	10	حوت 03:11	موخر 11:53		۲۳	نیک		
منگل	30	17	11		رشا 13:48		۲۴	نحس		

ابتدا قمر در عقرب 19 اپریل 5 بجکر 40 منٹ شام ۔ اختتام قمر در عقرب 21 اپریل رات 8 بجکر 59 منٹ

[illegible] 0300-5290020 [illegible] ✦ 0307 3394931 [illegible]

76واں سالانہ مجلس عزا [illegible] 03009476110

اوقات شرعی برائے لاہور۔ کراچی

اپریل	لاہور				کراچی	
تاریخ	طلوع فجر	طلوع آفتاب	زوال آفتاب	غروب آفتاب	طلوع آفتاب	غروب آفتاب
1	04:32	05:52	12:07	06:21	06:23	06:49
2	04:30	05:51	12:07	06:22	06:22	06:49
3	04:29	05:49	12:06	06:22	06:21	06:49
4	04:27	05:48	12:06	06:23	06:20	06:49
5	04:26	05:47	12:06	06:24	06:19	06:50
6	04:24	05:46	12:06	06:25	06:18	06:50
7	04:23	05:45	12:05	06:26	06:17	06:51
8	04:21	05:43	12:05	06:26	06:16	06:51
9	04:19	05:42	12:05	06:27	06:15	06:52
10	04:18	05:41	12:05	06:28	06:14	06:52
11	04:16	05:39	12:04	06:28	06:13	06:53
12	04:15	05:38	12:04	06:29	06:13	06:53
13	04:13	05:37	12:04	06:29	06:12	06:54
14	04:12	05:36	12:04	06:30	06:11	06:54
15	04:10	05:35	12:03	06:30	06:10	06:55
16	04:09	05:34	12:03	06:31	06:09	06:55
17	04:08	05:33	12:03	06:32	06:08	06:55
18	04:06	05:32	12:03	06:32	06:07	06:55
19	04:05	05:31	12:02	06:33	06:06	06:56
20	04:04	05:30	12:02	06:34	06:05	06:56
21	04:02	05:29	12:02	06:34	06:04	06:57
22	04:01	05:28	12:02	06:35	06:04	06:57
23	03:59	05:26	12:01	06:36	06:03	06:58
24	03:58	05:25	12:01	06:36	06:02	06:58
25	03:57	05:24	12:01	06:37	06:01	06:59
26	03:55	05:23	12:01	06:38	06:00	06:59
27	03:54	05:22	12:01	06:39	05:59	07:00
28	03:53	05:21	12:00	06:39	05:59	07:00
29	03:52	05:20	12:00	06:40	05:58	07:01
30	03:51	05:19	12:00	06:41	05:57	07:01

ہدایات حضرت امام رضا علیہ السلام

اس ماہ میں زیادہ نمکین اشیاء، بڑا گوشت اور مچھلی کا دودھ استعمال نہ کریں۔ دن کے اول حصے میں غسل مفید ہے۔

سالانہ مجلس عزا
ہر سال اپریل کا دوسرا اتوار
بمقام: کربلا گامے شاہ لاہور۔
منجانب: ملک شجر حسین اعوان اینڈ برادرز۔ نیو گارڈن ٹاؤن لاہور۔
0333-4210919, 0345-4010919

اوقات شرف و ہبوط سیارگان

مشتری

حالت	تاریخ	وقت آغاز	تاریخ	وقت اختتام
ہبوط	02 دسمبر	23:20		

زحل

حالت	تاریخ	وقت آغاز	تاریخ	وقت اختتام
رخ	22 مارچ	08:58		

سیارگان در منازل فلک 2019

زہرہ

منازل	تواریخ	اوقات	منازل	تواریخ	اوقات
نعائم	11 جنوری	19:13	صرفہ	14 اگست	15:46
بلدہ	23 جنوری	16:57	عوا	25 اگست	01:11
ذابح	04 فروری	03:29	سماک	04 ستمبر	10:05
بلع	15 فروری	07:18	غفر	14 ستمبر	18:43
سعود	26 فروری	06:42	زبانا	25 ستمبر	03:08
اخبیہ	09 مارچ	03:01	اکلیل	05 اکتوبر	11:21
مقدم	19 مارچ	21:20	قلب	15 اکتوبر	19:37
موخر	30 مارچ	14:11	شولہ	26 اکتوبر	03:53
رشا	10 اپریل	05:59	نعائم	05 نومبر	12:12
شرطین	20 اپریل	21:10	بلدہ	15 نومبر	20:44
بطین	01 مئی	11:49	ذابح	26 نومبر	05:28
ثریا	12 مئی	02:03	بلع	06 دسمبر	14:33
دبران	22 مئی	16:04	سعود	17 دسمبر	00:16
ہقعہ	02 جون	05:43	اخبیہ	27 دسمبر	10:50
ہنعہ	12 جون	19:01	مقدم	06 جنوری	22:41
ذراع	23 جون	07:56	موخر	17 جنوری	12:31
نثرہ	03 جولائی	20:18	رشا	28 جنوری	04:56
طرفہ	14 جولائی	08:07	شرطین	08 فروری	01:02
جبہہ	24 جولائی	19:19	بطین	19 فروری	02:25
زبرہ	01 اگست	05:49	ثریا	01 مارچ	11:03

مشتری

منازل	تواریخ	اوقات	منازل	تواریخ	اوقات
بلدہ	28 جنوری	15:25	بلع	28 جنوری	11:56
ذابح	02 دسمبر	23:20			

زحل

منازل	تواریخ	اوقات	منازل	تواریخ	اوقات
بلدہ	13 جنوری	18:28	سعد	07 فروری	01:56

نیپچون

منازل	تواریخ	اوقات	منازل	تواریخ	اوقات
رشا	02 اپریل	18:16			

یورانس

یورانس سارا سال منزل [illegible] پر گردش کرتا رہے گا

پلوٹو

پلوٹو سارا سال منزل بلدہ پر گردش کرتا رہے گا

20ویں سالانہ مجلس عزا 28 رجب صبح 10 بجے ڈھوک سیداں [illegible] تحصیل کلر سیداں ضلع راولپنڈی۔ مولانا اسد حسین نقوی 0300-9743014

امامیہ تقویم ماہ مئی 2019 عیسوی

شعبان المعظم | رمضان المبارک ۱۴۴۰ ہجری

عمومی تقویم | استخراج و کوائف سیارگان | اسلامی تقویم

مطابق افق بر صغیر

نیک: ولادت و شہادت معصومین علیہم السلام

ایام 31	عیسوی 2019 مئی	بکرمی 2076 بیساکھ	شمسی 1941 ثور	قمر فی البروج	قمر فی المنازل	سیارگان فی البروج	ہجری ۱۴۴۰ شعبان	نحس	اسلامی معلومات	یادداشت
بدھ	1	18	12	حمل ♈ 15:24	شرطین 15:24		۲۵	نحس	یوم مئی	عرس بابا ولایت کراچی
جمعرات	2	19	13		بطین 16:32		۲۶	نحس اکبر		
جمعہ	3	20	14		ثریا 17:11		۲۷	نیک		
ہفتہ	4	21	15	ثور ♉ 01:18	دبران 17:21		۲۸	نیک	نکاح کے لئے بد	
اتوار	5	22	16		ہقعہ 17:04		۲۹	نیک	نکاح کے لئے بد	
پیر	6	23	17	جوزا ♊ 08:40	ہنعہ 16:24	23:25 عطارد در ثور	۳۰	نیک	نکاح کے لئے بد	
منگل	7	24	18		ذراع 15:24		رمضان	نیک	صحیفۂ ابراہیم نازل ہوا	غزوۂ تبوک ۹ھ
بدھ	8	25	19	سرطان ♋ 14:06	نثرہ 14:06		۲	نیک	امام رضا کی ولی عہدی کا آغاز	
جمعرات	9	26	20		طرفہ 12:35		۳	نحس		
جمعہ	10	27	21	اسد ♌ 18:14	جبہہ 10:51		۴	نیک	سفر کے لئے بد	
ہفتہ	11	28	22		زبرہ 08:56		۵	نحس		
اتوار	12	29	23	سنبلہ ♍ 21:22	صرفہ 06:50		۶	نیک	نزول توریت	
پیر	13	30	24		عوا 04:36		۷	نیک	وفات بی بی فاطمہؑ بنت اسد	
منگل	14	31	25	میزان ♎ 23:51	سماک 02:15 غفر 23:51		۸	نیک	سفر کے لئے بد	
بدھ	15	جیٹھ	26		زبانہ 21:27	14:46 زہرہ در ثور	۹	نیک		
جمعرات	16	2	27		اکلیل 19:09	08:09 مریخ در سرطان	۱۰	نحس	وصال بی بی خدیجۃ الکبریٰؑ 10 نبوی	
جمعہ	17	3	28	عقرب ♏ 02:26	قلب 17:04		۱۱	نیک		02:26 قمر در عقرب شروع
ہفتہ	18	4	29		شولہ 15:18		۱۲	نیک	نزول انجیل ـ روز مواخات	
اتوار	19	5	30	قوس 06:21	نعائم 13:57		۱۳	نحس		06:21 قمر در عقرب ختم
پیر	20	6	31		بلدہ 13:09		۱۴	نیک		
منگل	21	7	جوزا	جدی ♑ 12:56	ذابح 12:56	12:59 [illegible] 15:52 [illegible]	۱۵	نیک	میلاد مسعود حضرت امام حسنؑ ۳ھ	
بدھ	22	8	2		بلع 13:21		۱۶	نحس	تعمیر کے لئے نیک	
جمعرات	23	9	3	دلو ♒ 22:49	سعود 14:22		۱۷	میانہ	قرض لینے دینے کو بد	فتح غزوۂ بدر ۲ھ
جمعہ	24	10	4		اخبیہ 15:53		۱۸	نیک	شب قدر (دن گزرنے کے بعد)	نزول زبور
ہفتہ	25	11	5		مقدم 17:46		۱۹	نحس	ضربت برسر اقدس مولا علیؑ	
اتوار	26	12	6	حوت ♓ 11:07	موخر 19:49		۲۰	نحس اکبر	شب قدر دن گزرنے کے بعد	فتح مکہ ۸ھ
پیر	27	13	7		رشا 21:48		۲۱	نحس اکبر	شہادت مولا علیؑ در مسجد کوفہ ۴۰ھ	
منگل	28	14	8	حمل ♈ 23:32	شرطین 23:32		۲۲	نیک	شب قدر (دن گزرنے کے بعد)	
بدھ	29	15	9				۲۳	نیک	نزول قرآن پاک	
جمعرات	30	16	10		بطین 00:50		۲۴	نحس اکبر		
جمعہ	31	17	11	ثور ♉ 09:43	ثریا 01:35		۲۵	نحس	(جمعۃ الوداع)	(یوم القدس)

ابتدا قمر در عقرب 17 مئی 2 بجکر 26 منٹ علی الصبح۔ اختتام قمر در عقرب 19 مئی 6 بجکر 21 منٹ صبح

اوقات شرعی برائے لاہور۔ کراچی

مئی

تاریخ	طلوع فجر (لاہور)	طلوع آفتاب (لاہور)	زوال آفتاب (لاہور)	غروب آفتاب (لاہور)	طلوع آفتاب (کراچی)	غروب آفتاب (کراچی)
1	03:50	05:18	12:00	06:41	05:56	07:02
2	03:49	05:17	12:00	06:42	05:56	07:02
3	03:48	05:16	12:00	06:43	05:55	07:03
4	03:47	05:15	12:00	06:43	05:54	07:03
5	03:46	05:15	12:00	06:44	05:53	07:04
6	03:45	05:14	12:00	06:45	05:53	07:04
7	03:43	05:13	12:00	06:45	05:52	07:05
8	03:42	05:12	11:59	06:46	05:52	07:05
9	03:41	05:11	11:59	06:47	05:51	07:06
10	03:40	05:10	11:59	06:48	05:51	07:06
11	03:39	05:09	11:59	06:48	05:50	07:07
12	03:38	05:09	11:59	06:49	05:50	07:07
13	03:37	05:08	11:59	06:49	05:49	07:08
14	03:36	05:07	11:59	06:50	05:49	07:08
15	03:35	05:07	11:59	06:51	05:48	07:09
16	03:34	05:06	11:39	06:52	05:48	07:09
17	03:33	05:05	11:59	06:52	05:47	07:10
18	03:32	05:05	11:59	06:53	05:47	07:10
19	03:31	05:04	11:59	06:54	05:46	07:11
20	03:30	05:04	11:59	06:54	05:46	07:11
21	03:29	05:03	11:39	06:55	05:45	07:12
22	03:28	05:03	11:59	06:56	05:45	07:12
23	03:27	05:02	12:00	06:57	05:44	07:13
24	03:27	05:02	12:00	06:57	05:44	07:13
25	03:26	05:01	12:00	06:58	05:44	07:14
26	03:25	05:01	12:00	06:59	05:44	07:14
27	03:25	05:01	12:00	06:59	05:43	07:15
28	03:24	05:00	12:00	07:00	05:43	07:15
29	03:23	05:00	12:00	07:00	05:43	07:16
30	03:22	04:59	12:00	07:01	05:43	07:16
31	03:22	04:59	12:00	07:01	05:42	07:17

ہدایات حضرت امام رضا علیہ السلام

ماہ مئی میں غذا میں سرکہ کا استعمال کریں۔ تیل کی مالش اور عطر سونگھنا مفید ہے۔ ورزش سے احتراز کریں۔

تعویذ سے بواسیر و مرگی کا مکمل خاتمہ

فی سبیل اللہ تعویذ منگوانے کے لیے مریض کا نام اور والدہ کا نام واپسی لفافہ میں لکھ کر بھیج دیں۔ انشاء اللہ بہت جلد شفا ہوگی۔

غلام باقر عابد سیرا

بستی بہلول سیرا اڈہ میراں شاہ نزد قائم بھروانہ تحصیل شورکوٹ ضلع جھنگ۔

0301-7696585
0312-1011512

سیارگان در منازل فلک 2019

عطارد

منازل	تواریخ	اوقات
ذابح	05 جنوری	08:40
بلع	13 جنوری	18:31
سعود	21 جنوری	20:11
اخبیہ	29 جنوری	13:09
مقدم	05 فروری	21:37
مؤخر	13 فروری	00:42
رشا	20 فروری	10:51
شرطین	17 اپریل	11:01
بطین	26 اپریل	19:02
ثریا	04 مئی	14:21
دبران	11 مئی	11:16
ہقعہ	17 مئی	16:59
ہنعہ	23 مئی	14:45
ذراع	29 مئی	13:46
نثرہ	05 جون	01:04
طرفہ	12 جون	14:45
جبہ	22 جون	13:06

منازل	تواریخ	اوقات
زبرہ	18 اگست	03:35
صرفہ	23 اگست	04:36
عوا	31 اگست	16:48
سماک	07 ستمبر	09:05
غفر	14 ستمبر	12:14
زبانا	22 ستمبر	05:16
اکلیل	30 ستمبر	14:09
قلب	09 اکتوبر	19:31
شولہ	20 اکتوبر	21:07
نعائم	12 دسمبر	13:11
بلدہ	21 دسمبر	02:08
ذابح	29 دسمبر	09:53
بلع	06 جنوری	12:57
سعود	14 جنوری	09:59
اخبیہ	22 جنوری	00:35
مقدم	29 جنوری	12:02
مؤخر	06 فروری	13:20

مریخ

منازل	تواریخ	اوقات
شرطین	01 جنوری	07:20
بطین	20 جنوری	08:13
ثریا	08 فروری	07:48
دبران	27 فروری	08:57
ہقعہ	18 مارچ	13:32
ہنعہ	06 اپریل	22:48
ذراع	26 اپریل	13:02
نثرہ	16 مئی	08:09
طرفہ	05 جون	07:43
جبہ	25 جون	10:45
زبرہ	15 جولائی	16:01
صرفہ	04 اگست	22:15

منازل	تواریخ	اوقات
عوا	25 اگست	04:07
سماک	14 ستمبر	08:11
غفر	04 اکتوبر	09:22
زبانا	24 اکتوبر	06:52
اکلیل	12 نومبر	23:59
قلب	02 دسمبر	12:23
شولہ	21 دسمبر	20:07
نعائم	09 جنوری	23:10
بلدہ	28 جنوری	21:48
ذابح	16 فروری	16:33
بلع	06 مارچ	07:53

نسخہ برائے شوگر

❁ رس ادرک تازہ 1 بڑا چمچ ❁ رس لیموں تازہ 1 بڑا چمچ ❁ شہد خالص 1 بڑا چمچ مکس کر لیں صبح نہار منہ اور شام کو کھانے سے پہلے ❁ دوپہر کو کھانے سے پہلے کھیرا مع کالا نمک استعمال کریں۔ ❁ کالے چنے آٹا ❁ جو کا آٹا مکس کر لیں روٹی پکا کر کھائیں۔ محمد اقبال بجارانی بھکر 0346-7596614، 0333-4279567

مرحومین کی ارواح کو ایصال ثواب کے لیے

مکمل طریقہ فاتحہ و نذر و نیاز کا کتابچہ جوابی لفافہ بھیج کر مفت طلب کریں۔

آغا حسنین احمد عادل P.M.I ڈی پی او بہاولپور 0300-6802983

0307 8417017

امامیہ تقویم ماہ جون 2019 عیسوی

رمضان المبارک | شوال المکرم ۱۴۴۰ ہجری

اسلامی تقویم

[illegible]

عمومی تقویم

استخراج و کوائف سیارگان

مطابق افق برصغیر

ایام 30	عیسوی 2019 جون	بکرمی 2076 جیٹھ	شمسی 1941 جوزا	قمر فی البروج	قمر فی المنازل	سیارگان فی البروج	ہجری ۱۴۴۰ رمضان	نیک / نحس ولادت و شہادت معصومین علیہم السلام	اسلامی معلومات	یادداشت
ہفتہ	1	18	12		دبران 01:46		۲۶	نیک	نکاح وسفر کے لئے بد	
اتوار	2	19	13	جوزا 16:48	ہقعہ 01:22		۲۷	نیک	شب قدر (مطابق اہل سنت)	
پیر	3	20	14		ہنعہ 00:26 ذراع 23:02		۲۸	نیک	نکاح کے لئے بد	
منگل	4	21	15	سرطان 21:17	نثرہ 21:17		۲۹	نیک	نکاح کے لئے بد	
بدھ	5	22	16		طرفہ 19:15	عطارد در سرطان 01:04	شوال	نیک	عیدالفطر	(تعطیل)
جمعرات	6	23	17		جبہہ 17:02		۲	نحس اکبر	عیدالفطر	(تعطیل)
جمعہ	7	24	18	اسد 00:16	زبرہ 14:42		۳	نحس		
ہفتہ	8	25	19		صرفہ 12:20		۴	نیک	سفر کے لئے بد	
اتوار	9	26	20	سنبلہ 02:45	عوا 09:58	زہرہ در جوزا 06:37	۵	نحس		
پیر	10	27	21		سماک 07:40		۶	نحس اکبر		
منگل	11	28	22	میزان 05:29	غفرہ 05:29		۷	نیک		
بدھ	12	29	23		زبانہ 03:27		۸	نحس اکبر	یوم انہدام جنت البقیع ۱۳۴۴ھ	
جمعرات	13	30	24	عقرب 09:02	اکلیل 01:36		۹	نیک		09:02 قمر در عقرب شروع
جمعہ	14	31	25		قلب 00:00 شولہ 22:43		۱۰	نیک	آغاز غیبت کبریٰ امام زمانہ علیہ السلام	جنگ حنین ۸ھ
ہفتہ	15	هاڑ	26	قوس 14:03	نعائم 21:47		۱۱	نیک		14:03 قمر در عقرب ختم
اتوار	16	2	27		بلدہ 21:16		۱۲	نیک		
پیر	17	3	28	جدی 21:13	ذابح 21:13		۱۳	نحس		عرس مادھو لال حسین لاہور
منگل	18	4	29		بلع 21:40		۱۴	نیک	معجزہ شق القمر	
بدھ	19	5	30		سعود 22:36		۱۵	نحس	شہادت امام جعفر صادق ؑ ۱۴۸ھ	شہادت حضرت حمزہ ۳ھ
جمعرات	20	6	31	دلو 07:00	اخبیہ 23:59		۱۶	نحس		
جمعہ	21	7	سرطان			شمس در سرطان 20:54	۱۷	میانہ	قرض لینے دینے کے لئے بد	(فتح جنگ احد)
ہفتہ	22	8	2	حوت 19:01	مقدم 01:43		۱۸	نیک		
اتوار	23	9	3		موخر 03:42		۱۹	نیک		
پیر	24	10	4		رشا 05:44		۲۰	میانہ	تعمیر مکان کے لئے نیک	
منگل	25	11	5	حمل 07:38	شرطین 07:38		۲۱	نحس		
بدھ	26	12	6		بطین 09:12		۲۲	نیک		
جمعرات	27	13	7	ثور 18:32	ثریا 10:18	عطارد در اسد 05:19	۲۳	نیک		
جمعہ	28	14	8		دبران 10:47		۲۴	نحس		
ہفتہ	29	15	9		ہقعہ 10:37		۲۵	نحس	احتمال شہادت امام جعفر صادق ۱۴۸ھ	
اتوار	30	16	10	جوزا 02:09	ہنعہ 09:48		۲۶	نیک	نکاح وسفر کے لئے بد	

ابتدا قمر در عقرب 13 جون صبح 9 بجکر 2 منٹ۔ اختتام قمر در عقرب 15 جون 2 بجکر 3 منٹ دوپہر

0345-7609312

ساتویں سالانہ مجلس عزا بسلسلہ شہادت حضرت محمد مصطفیٰ و امام حسنؑ۔ ربیع الاول کا پہلا اتوار 11 بجے دن بمقام دربار عالیہ پیر سید بہلوان شاہ بخاری گوہڑہ سیداں اسلام آباد۔ زیر انتظام سید عرفان حیدر شاہ بخاری 0332-5548788

رجعت واستقامت سیارگان 2019

سیارگان	کیفیات	تواریخ	اوقات	درجات و دقائق
یورانس	مستقیم	07 جنوری	01:26	28 درجہ 36 منٹ برج حمل
عطارد	راجع	05 مارچ	23:18	29 درجہ 39 منٹ برج حوت
عطارد	مستقیم	28 مارچ	18:59	16 درجہ 06 منٹ برج حوت
مشتری	راجع	10 اپریل	22:01	24 درجہ 21 منٹ برج قوس
پلوٹو	راجع	24 اپریل	23:48	23 درجہ 09 منٹ برج جدی
زحل	راجع	30 اپریل	05:54	20 درجہ 31 منٹ برج جدی
نیپچون	راجع	21 جون	19:36	18 درجہ 43 منٹ برج حوت
عطارد	راجع	08 جولائی	04:14	04 درجہ 28 منٹ برج اسد
عطارد	مستقیم	01 اگست	03:58	23 درجہ 57 منٹ برج سرطان
مشتری	مستقیم	11 اگست	13:38	14 درجہ 30 منٹ برج قوس
یورانس	راجع	12 اگست	02:27	06 درجہ 37 منٹ برج ثور
زحل	مستقیم	18 ستمبر	08:46	13 درجہ 55 منٹ برج جدی
پلوٹو	مستقیم	03 اکتوبر	06:40	20 درجہ 38 منٹ برج جدی
عطارد	راجع	31 اکتوبر	15:42	27 درجہ 38 منٹ برج عقرب
عطارد	مستقیم	20 نومبر	19:12	11 درجہ 35 منٹ برج عقرب
نیپچون	مستقیم	27 نومبر	12:31	15 درجہ 56 منٹ برج حوت

اوقات شرعی برائے لاہور۔ کراچی

جون

	لاہور				کراچی	
تاریخ	طلوع فجر	طلوع آفتاب	زوال آفتاب	غروب آفتاب	طلوع آفتاب	غروب آفتاب
1	03:21	04:59	12:01	07:02	05:42	07:17
2	03:21	04:59	12:01	07:02	05:42	07:17
3	03:20	04:58	12:01	07:03	05:42	07:18
4	03:20	04:58	12:01	07:03	05:42	07:18
5	03:20	04:58	12:01	07:04	05:42	07:19
6	03:20	04:57	12:01	07:04	05:42	07:19
7	03:20	04:57	12:02	07:05	05:41	07:20
8	03:20	04:57	12:02	07:05	05:41	07:20
9	03:19	04:57	12:02	07:06	05:41	07:21
10	03:19	04:57	12:02	07:06	05:41	07:21
11	03:19	04:57	12:02	07:06	05:41	07:21
12	03:19	04:57	12:03	07:07	05:41	07:21
13	03:19	04:57	12:03	07:07	05:42	07:22
14	03:19	04:57	12:03	07:07	05:42	07:22
15	03:19	04:57	12:03	07:08	05:42	07:23
16	03:19	04:57	12:03	07:08	05:42	07:23
17	03:19	04:58	12:03	07:08	05:42	07:23
18	03:19	04:58	12:04	07:09	05:42	07:23
19	03:19	04:58	12:04	07:09	05:42	07:24
20	03:19	04:58	12:04	07:09	05:42	07:24
21	03:19	04:58	12:04	07:09	05:43	07:24
22	03:19	04:58	12:05	07:10	05:43	07:24
23	03:19	04:59	12:05	07:10	05:43	07:25
24	03:19	04:59	12:05	07:10	05:43	07:25
25	03:20	04:59	12:05	07:11	05:44	07:25
26	03:20	04:59	12:06	07:11	05:44	07:25
27	03:20	05:00	12:06	07:11	05:44	07:25
28	03:20	05:00	12:06	07:11	05:44	07:25
29	03:21	05:00	12:06	07:11	05:45	07:25
30	03:21	05:00	12:06	07:12	05:45	07:25

ہدایات حضرت امام رضا علیہ السلام

اس ماہ میں زیادہ محنت سے گریز کریں، چربی، گوشت، مسور کی دال سے پرہیز کریں۔ سبزیاں، تازہ پھل، میوے، مچھلی، مرغابی کھائیں۔

Counselling Corner

A highly qualified counsellor just a phone call away.

Syed Babar Hussain Rizvi
[illegible]
contact: 03361105500

LOST
CONFUSED
INSURE
UNCLEAR
PERPLEXED
DISORIENTED
EWILDERED

سید بابر حسین رضوی 0336-1105500

زائچہ بنوانے، برتھ سٹون معلوم کرنے اور نفسیاتی مسائل کے حل کے لیے

رابطہ 0313-2009666 **S.B.H Rizvi**

64 [illegible] مجلس

حضرت چہلم امام حسین علیہ السلام

15 16 جون 2019

معروف [illegible]

بمقام

لدھیوالہ وڑکاں نزد ریلوے اسٹیشن سادھوکی تحصیل مریدکے ضلع شیخوپورہ

بانی مجلس حاجی سید نذیر حسین نقوی

Mob
0305
4007678
0321
4102236

17 صفر مجلس عزا شہادت امام علی رضاؑ مقام مسجد و امام بارگاہ قصر رضاؑ۔ رضا کالونی جلیاری معظم شاہ راولپنڈی۔ انجمن غلامان غریب الغرباء

0332-4009514 [illegible] 25/ [illegible]

امامیہ تقویم ماہ جولائی 2019 عیسوی

شوال المکرم | ذیقعدہ | ۱۴۴۰ ہجری

[illegible]

اسلامی تقویم

ایام	عمومی تقویم عیسوی 2019	بکرمی 2076	شمسی 1941	استخراج و کوائف سیارگان مطابق افق برصغیر قمر فی البروج	قمر فی المنازل	سیارگان فی البروج	ہجری ۱۴۴۰	نیک / نحس	ولادت و شہادت معصومین علیہم السلام اسلامی معلومات	یادداشت
31	جولائی	ہاڑ	سرطان				شوال			
پیر	1	17	11		ذراعہ 08:22		۲۷	نیک	نکاح کے لیے بد	
منگل	2	18	12	سرطان ♋ 06:24	نثرہ 06:24	مریخ در اسد 04:19	۲۸	نیک	نکاح کے لیے بد	مکمل سورج گرہن
بدھ	3	19	13		طرفہ 03:59	زہرہ در سرطان 20:18	۲۹	نیک	ولادت باسعادت حضرت ابوطالب	
جمعرات	4	20	14	اسد ♌ 08:19	جبہ 01:16 زبرہ 22:22		۳۰	نیک		
جمعہ	5	21	15		صرفہ 19:23		ذی قعدہ	نیک	میلاد مسعود بی بی فاطمہ معصومہ قم بنت امام موسیٰ کاظمؑ	
ہفتہ	6	22	16	سنبلہ ♍ 09:25	عوا 16:27		۲	نیک		
اتوار	7	23	17		سماک 13:40		۳	نحس		
پیر	8	24	18	میزان ♎ 11:07	غفرہ 11:07		۴	نیک	سفر کے لیے بد	
منگل	9	25	19		زبانہ 08:53		۵	نحس		
بدھ	10	26	20	عقرب 14:28	اکلیل 07:00		۶	نحس اکبر		
جمعرات	11	27	21		قلب 05:33		۷	نیک		
جمعہ	12	28	22	قوس 20:05	شولہ 04:31		۸	نیک	سفر کے لیے بد	
ہفتہ	13	29	23		نعائم 03:56		۹	نیک		
اتوار	14	30	24		بلدہ 03:47		۱۰	نحس اکبر		
پیر	15	31	25	جدی ♑ 04:05	ذابح 04:05		۱۱	نیک	میلاد مسعود امام علی رضاؑ	
منگل	16	ساون	26		بلع 04:47		۱۲	نیک		جزوی چاند گرہن
بدھ	17	2	27	دلو ♒ 14:19	سعود 05:52		۱۳	نحس		
جمعرات	18	3	28		اخبیہ 07:18		۱۴	نیک		
جمعہ	19	4	29		مقدم 09:02	عطارد در سرطان 12:06	۱۵	نیک	قرض لینے دینے کے لیے بد	
ہفتہ	20	5	30	حوت ♓ 02:19	موخر 10:59		۱۶	نحس	تعمیر کے لیے نیک	
اتوار	21	6	31		رشا 13:01		۱۷	میانہ	قرض لینے دینے کے لیے بد	
پیر	22	7	32	حمل ♈ 15:02	شرطین 15:02		۱۸	نیک		
منگل	23	8	اسد		بطین 16:51	شمس در اسد 07:50	۱۹	نیک		
بدھ	21	9	2		ثریا 18:19		۲۰	میانہ		
جمعرات	25	10	3	ثور ♉ 02:42	دبران 19:17		۲۱	نحس		
جمعہ	26	11	4		ہقعہ 19:38		۲۲	نیک		
ہفتہ	27	12	5	جوزا ♊ 11:29	ہنعہ 19:17		۲۳	نحس	احتمال شہادت امام علی رضاؑ	
اتوار	28	13	6		ذراعہ 18:14	زہرہ در اسد 06:54	۲۴	نحس		
پیر	29	14	7	سرطان ♋ 16:31	نثرہ 16:31		۲۵	نیک	میلاد مسعود حضرت ابراہیمؑ و حضرت عیسیٰؑ	عید دحو الارض
منگل	30	15	8		طرفہ 14:11		۲۶	نیک	نکاح و سفر کے لیے بد	
بدھ	31	16	9	اسد ♌ 18:08	جبہ 11:20		۲۷	نیک	ولادت محمد بن ابی بکر 10ھ	

ابتداء قمر در عقرب 10 جولائی 2 بجکر 28 منٹ دوپہر۔ اختتام قمر در عقرب 12 جولائی 8 بجکر 5 منٹ رات

6 شعبان جشن ظہور شہزادہ قاسم و رسم مہندی شام 6 بجے تا رات 11 بجے بمقام دربار بی بی پاکدامن لاہور۔ خواتین مہندی لیکر آئیں گی۔ بیگم شیخ اخلاق حسین 0315-4188073

اوقات شرعی برائے لاہور۔ کراچی

جولائی	لاہور				کراچی	
تاریخ	طلوع فجر	طلوع آفتاب	زوال آفتاب	غروب آفتاب	طلوع آفتاب	غروب آفتاب
1	03:22	05:01	12:06	07:11	05:46	07:26
2	03:23	05:01	12:07	07:11	05:46	07:26
3	03:23	05:02	12:07	07:11	05:46	07:26
4	03:24	05:02	12:07	07:11	05:46	07:26
5	03:24	05:03	12:07	07:11	05:47	07:26
6	03:25	05:03	12:07	07:11	05:47	07:26
7	03:26	05:04	12:07	07:11	05:48	07:25
8	03:27	05:04	12:07	07:11	05:48	07:25
9	03:27	05:05	12:08	07:10	05:49	07:25
10	03:28	05:05	12:08	07:10	05:49	07:25
11	03:28	05:06	12:08	07:10	05:49	07:25
12	03:29	05:06	12:08	07:10	05:49	07:25
13	03:29	05:07	12:08	07:10	05:50	07:25
14	03:30	05:07	12:08	07:09	05:50	07:25
15	03:31	05:08	12:09	07:09	05:51	07:24
16	03:32	05:09	12:09	07:09	05:51	07:24
17	03:33	05:09	12:09	07:09	05:52	07:24
18	03:34	05:10	12:09	07:08	05:52	07:24
19	03:35	05:10	12:09	07:08	05:53	07:23
20	03:35	05:11	12:09	07:08	05:53	07:23
21	03:36	05:11	12:09	07:07	05:54	07:22
22	03:37	05:12	12:09	07:06	05:54	07:22
23	03:37	05:12	12:09	07:06	05:55	07:21
24	03:38	05:13	12:09	07:05	05:55	07:21
25	03:39	05:13	12:09	07:05	05:56	07:21
26	03:40	05:14	12:09	07:04	05:56	07:21
27	03:41	05:15	12:09	07:03	05:57	07:20
28	03:42	05:16	12:09	07:02	05:57	07:20
29	03:43	05:17	12:09	07:02	05:58	07:19
30	03:44	05:17	12:09	07:01	05:58	07:18
31	03:45	05:18	12:09	07:00	05:59	07:17

ہدایات حضرت امام رضا علیہ السلام

نہار منہ تھوڑا تھوڑا کر کے ٹھنڈا پانی پینا، لطیف اور زود ہضم غذا میں کھانا اور پھولوں کا سونگھنا مفید ہے۔

لوح حروف مقطعات قرآنی برائے حصول

مال و دولت، عزت، فتح، سحر و بندش وغیرہ

تیار کردہ پروفیسر علامہ حافظ تصدق حسین ماہر علوم روحانی

مکان 33-F عقب جامع مسجد صاحب الزمان حیدر روڈ اسلام پورہ لاہور۔
فون 042-37159314 ارتضیٰ مہدی: 0321-4491346
0300-2603322 رضی مہدی: 0321-4422348

شرف اوج حضیض و ہبوط سیارگان برائے سال 2019

شمس

حالت	تاریخ آغاز	وقت آغاز	تاریخ اختتام	وقت اختتام
حضیض شمس	09 جنوری	18:48	10 جنوری	18:21
شرف شمس	08 اپریل	07:59	09 اپریل	08:24
اوج شمس	11 جولائی	19:02	12 جولائی	20:12
ہبوط شمس	11 اکتوبر	20:00	12 اکتوبر	20:16

عطارد

حالت	تاریخ آغاز	وقت آغاز	تاریخ اختتام	وقت اختتام
ہبوط عطارد	18 فروری	13:04	19 فروری	03:22
حضیض عطارد	09 مئی	02:43	09 مئی	15:16
شرف عطارد	05 ستمبر	17:05	06 ستمبر	05:45
اوج عطارد	06 اکتوبر	09:50	07 اکتوبر	03:23

زہرہ

حالت	تاریخ آغاز	وقت آغاز	تاریخ اختتام	وقت اختتام
حضیض زہرہ	27 جنوری	04:14	28 جنوری	01:41
شرف زہرہ	17 اپریل	13:50	18 اپریل	09:41
اوج زہرہ	26 جون	11:43	27 جون	07:21
ہبوط زہرہ	11 ستمبر	13:23	12 ستمبر	08:43
حضیض زہرہ	18 نومبر	23:20	19 نومبر	18:40

مریخ

حالت	تاریخ آغاز	وقت آغاز	تاریخ اختتام	وقت اختتام
ہبوط مریخ	27 جون	11:12	29 مئی	00:54
اوج مریخ	30 جولائی	12:37	01 اگست	02:20
شرف مریخ	26 مارچ	17:07	28 مارچ	03:39

آیات کفایات

کوئی بھی مقصد ہو، مشکل ہو، مقصد کی نیت سے بعد نماز فجر 60 مرتبہ آیات پڑھ کر گریہ و زاری کے ساتھ دعا کریں۔ ان شاء اللہ اثر اکسیر ہے۔

وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ● وَكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ● وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا
● وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ● وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ● وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ

اسرار حروف و اعداد و عملیات جاننے کے لیے

فیض حسینی میں داخلہ لینا ہوگا۔ اپنا نام، والد اور والدہ کا نام، تاریخ پیدائش مکمل پتہ کے جوابی لفافہ ارسال کریں۔ **فیض حسینی مولانا غلام علی حسینی**

غازی آباد لاہور 0321-4534910, 0300-4534910

سالانہ جشن ظہور حضرت عباسؑ علمدار 4 شعبان شام 5 بجے بمقام مرکزی امام بارگاہ وقف کمبوہ راولپنڈی۔ زیر اہتمام وفاداران عباسؑ۔ سید اعجاز حسین کاظمی ● 14 شعبان المعظم 8 بجے شب جشن ظہور حجت خدا بمقام امام بارگاہ شاہ خراسان چنیوٹ۔ غیور عباس 0308-4952031

سالانہ فقہی شب بیداری 22 رمضان المبارک 9 بجے شب مرکزی امام بارگاہ بلاک نمبر 11 خانیوال آرگنائزر سید ارسلان حیدر زیدی ایڈووکیٹ Mob: 0300 6898110

امامیہ تقویم ماہ اگست 2019 عیسوی

ذیقعدہ | ذی الحجہ | ۱۴۴۰ ھجری

اسلامی تقویم

قمری

ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر سورۂ قمر (پارہ ۲۷) کی [illegible] صورت یا آب رواں دیکھیں۔

عمومی تقویم

استخراج و کوائف سیارگان

مطابق افق [illegible]

ایام	عیسوی 2019	بکرمی 2076	شمسی 1941	قمر فی البروج	قمر فی المنازل	سیارگان فی البروج	قمری ۱۴۴۰	نیک / نحس	وفات و شہادت معصومین علیہم السلام — اسلامی معلومات	یادداشت
31	اگست	ساون	اسد				ذی قعدہ			
جمعرات	1	17	10		زبرہ 08:08	—	۲۸	نحس اکبر		
جمعہ	2	18	11	سنبلہ ♍ 18:20	صرفہ 04:41		۲۹	نحس	شہادت امام محمد تقی [illegible]	
ہفتہ	3	19	12		عوا 01:10 سماک 21:43		ذی الحجہ	نیک	عقد بی بی فاطمۃ الزہرا [illegible]	
اتوار	4	20	13	میزان ♎ 18:30	غفرہ 18:30		۲	نیک		
پیر	5	21	14		زبانہ 15:37		۳	نحس	حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی	
منگل	6	22	15	عقرب 20:31	اکلیل 13:12		۴	نیک	سفر کے لئے بد	20:31 قمر در عقرب شروع
بدھ	7	23	16		قلب 11:21		۵	نحس	وفات حضرت ابوذر غفاری [illegible]	
جمعرات	8	24	17		شولہ 10:05		۶	نیک		
جمعہ	9	25	18	قوس 01:35	نعائم 09:25		۷	نحس	شہادت امام محمد باقر [illegible]	01:35 قمر در عقرب ختم
ہفتہ	10	26	19		بلدہ 09:22		۸	نحس	مکہ سے امام حسینؑ کے سفر کا آغاز	
اتوار	11	27	20	جدی ♑ 09:50	ذابح 09:50		۹	نحس	شہادت مسلم بن عقیل۔ یوم عرفہ	حج بیت اللہ
پیر	12	28	21		بلع 10:46	00:45 عطارد در اسد	۱۰	نیک	عید الاضحیٰ (تعطیل)	
منگل	13	29	22	دلو ♒ 20:35	سعود 12:05		۱۱	نیک	عید الاضحیٰ (تعطیل)	
بدھ	14	30	23		اخبیہ 13:42		۱۲	نیک	شہادت محمد و ابراہیم فرزندان امیر مسلمؑ	یوم آزادی پاکستان
جمعرات	15	31	24		مقدم 15:31		۱۳	نحس		
جمعہ	16	[illegible]	25	حوت ♓ 08:49	موخر 17:29		۱۴	نیک		
ہفتہ	17	2	26		رشا 19:31		۱۵	نیک		
اتوار	18	3	27	حمل ♈ 21:33	شرطین 21:33	10:18 مریخ در سنبلہ	۱۶	نحس	تعمیر مکان کے لئے نیک	
پیر	19	4	28		بطین 23:27		۱۷	میانہ	قرض لینے دینے کے لئے بد	
منگل	20	5	29				۱۸	نیک	عید غدیر [illegible]۔ اعلان ولایت مولا علیؑ	
بدھ	21	6	30	ثور ♉ 09:37	ثریا 01:08	14:06 زہرہ در سنبلہ	۱۹	نیک	شب رخصتی بی بی فاطمہ [illegible]	
جمعرات	22	7	31		دبران 02:27		۲۰	نحس اکبر	تعمیر مکان کے لئے نیک	
جمعہ	23	8	[illegible]	جوزا ♊ 19:34	ہقعہ 03:19	15:02 شمس در سنبلہ	۲۱	نحس		
ہفتہ	24	9	2		ہنعہ 03:35		۲۲	نیک		
اتوار	25	10	3		ذراع 03:11		۲۳	نیک		
پیر	26	11	4	سرطان ♋ 02:05	نثرہ 02:05		۲۴	نیک	[illegible] سیدہ معصومہ حضرت سکینہ [illegible]	عید مباہلہ
منگل	27	12	5		طرفہ 00:17 جبہہ 21:50		۲۵	نحس	نزول سورۂ ہل اتیٰ (سورۂ دہر)	
بدھ	28	13	6	اسد ♌ 04:53	زبرہ 18:50		۲۶	نیک	نکاح و سفر کے لئے بد	
جمعرات	29	14	7		صرفہ 15:24	12:48 عطارد در سنبلہ	۲۷	نیک		
جمعہ	30	15	8	سنبلہ ♍ 04:57	عوا 11:42		۲۸	نحس اکبر		
ہفتہ	31	16	9		سماک 07:53		۲۹	نیک	نکاح کے لئے بد	

[illegible]

ابتدا قمر در عقرب 6 اگست رات 8 بجکر 31 منٹ۔ اختتام قمر در عقرب 9 اگست بعد نصف شب 1 بجکر 35 منٹ

اوقات شرعی برائے لاہور۔ کراچی

تاریخ	طلوع فجر	طلوع آفتاب	زوال آفتاب	غروب آفتاب	طلوع آفتاب	غروب آفتاب
اگست	لاہور				کراچی	
1	03:46	05:19	12:09	07:00	05:59	07:17
2	03:47	05:19	12:09	06:59	05:59	07:17
3	03:47	05:20	12:09	06:58	06:00	07:16
4	03:48	05:21	12:09	06:57	06:00	07:15
5	03:49	05:22	12:09	06:56	06:01	07:14
6	03:50	05:22	12:09	06:55	06:01	07:14
7	03:51	05:23	12:09	06:54	06:02	07:13
8	03:52	05:24	12:09	06:53	06:02	07:13
9	03:53	05:25	12:08	06:52	06:03	07:12
10	03:54	05:25	12:08	06:51	06:03	07:11
11	03:55	05:26	12:08	06:50	06:04	07:10
12	03:56	05:26	12:08	06:49	06:04	07:09
13	03:57	05:27	12:08	06:48	06:05	07:09
14	03:58	05:28	12:08	06:47	06:05	07:08
15	03:58	05:28	12:07	06:47	06:05	07:07
16	03:59	05:29	12:07	06:46	06:05	07:06
17	04:00	05:29	12:07	06:45	06:06	07:05
18	04:01	05:30	12:07	06:44	06:06	07:05
19	04:02	05:30	12:07	06:43	06:07	07:04
20	04:03	05:31	12:06	06:42	06:07	07:03
21	04:04	05:31	12:06	06:41	06:08	07:02
22	04:05	05:32	12:06	06:40	06:08	07:01
23	04:06	05:33	12:06	06:38	06:09	07:00
24	04:07	05:33	12:05	06:37	06:09	06:59
25	04:08	05:34	12:05	06:36	06:10	06:58
26	04:09	05:34	12:05	06:35	06:10	06:57
27	04:10	05:35	12:05	06:34	06:10	06:56
28	04:10	05:35	12:04	06:33	06:10	06:55
29	04:11	05:36	12:04	06:32	06:11	06:54
30	04:12	05:37	12:04	06:30	06:11	06:53
31	04:13	05:37	12:03	06:29	06:12	06:52

ہدایات حضرت امام رضا علیہ السلام

اس ماہ میں جلاب لینا مفید ہے۔ کثرت سے گوشت یا حلوہ کھانا، بلا عذر غسل کرنا صحت کیلئے مضر ہے۔

فالج کا مجرب نسخہ

لہسن کا ایک جوا پہلے روز، دوسرے روز ۲، تیسرے روز ۳، چوتھے روز ۴، اسی طرح سے ہر روز ایک عدد بڑھا لیں۔ کہ چالیسویں روز ۴۰ ہو جائیں۔ اور اسی ترکیب سے پانی سے نگل لیں اس کے بعد گھٹانا شروع کر دیں۔ یعنی اکتالیسویں روز ۳۹ جوے، پھر ۳۸، پھر ۳۷، یہاں تک کہ ایک جوے پر آ جائیں۔ انشاء اللہ مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ (شمع شبستان رضا)

نماز وحشت قبر

میت کے دفن کی رات اس کیلئے دو (۲) رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ جسے نماز وحشت قبر کہتے ہیں۔ یہ نماز میت کیلئے قبر میں پہلی رات کے خوف کو دور کرنے کیلئے پڑھی جاتی ہے اور دفن میت کی پہلی ہی رات میں مغرب کی نماز کے بعد سے لیکر طلوع فجر تک پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ میت پر قبر میں پہلی رات سے زیادہ سخت گھڑی اور نہیں ہوتی ہے۔

طریقہ نماز: پہلی رکعت میں سورۂ فاتحہ (یعنی سورۂ الحمد) کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں سورۂ الحمد کے بعد دس مرتبہ سورۂ قدر (یعنی انا انزلناہ) پڑھی جائے۔ سلام پڑھنے کے بعد کہو! (اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ وَّابْعَثْ ثَوَابَھَا اِلٰی قَبْرِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ) (فلاں بن فلاں کی جگہ پر میت اور اس کے باپ کا نام لے) بس اللہ تعالیٰ اسی وقت اس میت کی قبر پر 1000 ملائکہ بہشتی حلے دیکر بھیجتا ہے اور اسکی قبر کو قیامت تک وسیع کر دیتا ہے اور نماز پڑھنے والے کو بے شمار نیکیاں عطا کرتا ہے

مناجات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِلٰھِیْ کَفٰی بِیْ عِزًّا اَنْ اَکُوْنَ لَکَ عَبْدًا وَّکَفٰی بِیْ
فَخْرًا اَنْ تَکُوْنَ لِیْ رَبًّا اَنْتَ کَمَا اُحِبُّ فَاجْعَلْنِیْ کَمَا تُحِبُّ

ترجمہ میرے معبود میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے تو ایسا ہے جیسا کہ میں چاہتا ہوں پس مجھے ویسا ہی بنا دے جیسا کہ تو چاہتا ہے (مفاتیح الجنان)

مجالس شب عاشور

واذان علی اکبر علیہ السلام

قاری
منیر حسین محمدی

مخصوص انداز میں اذان علی اکبرؑ [illegible] پڑھیں گے۔

★ اذان کے وقت شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگی اور زنجیروں کا ماتم ہوگا۔

عزاخانہ [illegible] لاہور۔

دعا گو: سید مقبول حسین نقوی 0301 8404890

سالانہ مجلس عزا 11 محرم [illegible] بمقام [illegible] بانی سید [illegible] رضا شاہ
سالانہ مجلس عزا 24 ذوالقعدہ [illegible] بمقام [illegible] بانی [illegible]
سالانہ مجلس عزا 18 صفر [illegible] بمقام [illegible] بانی [illegible]

مجالس محرم کریم 10 محرم الحرام روزانہ 7 بجے صبح بمقام امام بارگاہ سادات مہاجرین بھون روڈ چکوال۔ زیدی برادران: 0333-5576119

امامیہ تقویم ماہ ستمبر 2019 عیسوی

ذی الحج | محرم الحرام ۱۴۴۱ ہجری

ماہ محرم الحرام کا چاند دیکھ کر سورۂ کہف (پارہ ۱۵) یا سونا چاندی دیکھیں۔

ایام 30	عیسوی 2019 ستمبر	بکرمی 2076 بھادوں	شمسی 1941 سنبلہ	قمر فی البروج	قمر فی المنازل	سیارگان فی البروج	قمری ۱۴۴۱ محرم	نیک / نحس	وفات و شہادت معصومین علیہم السلام / اسلامی معلومات	یادداشت
اتوار	1	17	10	میزان 04:08	غفرہ 04:08		محرم	نحس اکبر	آغاز سال نو ۱۴۴۱ھ ایام عزا	آغاز ہجری سال
پیر	2	18	11		زبانہ 00:37 اکلیل 21:30		۲	نحس اکبر	حضرت امام حسینؑ کی کربلا آمد	
منگل	3	19	12	عقرب 04:35	قلب 18:56		۳	نحس اکبر		04:36 قمر در عقرب شروع
بدھ	4	20	13		شولہ 17:01		۴	نحس اکبر	سفر کے لئے بد	
جمعرات	5	21	14	قوس 08:08	نعائم 15:49		۵	نحس اکبر		08:08 قمر در عقرب ختم
جمعہ	6	22	15		بلدہ 15:22		۶	نحس اکبر	تقریباً 30 ہزار یزیدی فوج کربلا میں آئی	یوم دفاع پاکستان
ہفتہ	7	23	16	جدی 15:37	ذابح 15:37		۷	نحس اکبر	قافلہ حسینیؑ پر پانی بند ہوا	
اتوار	8	24	17		بلع 16:29		۸	نحس اکبر	سفر کے لئے بد	
پیر	9	25	18		سعود 17:51		۹	نحس اکبر	شب عاشور	
منگل	10	26	19	دلو 02:24	اخبیہ 19:34		۱۰	نحس اکبر	شہادت امام حسینؑ ۶۱ھ۔ یوم عاشور	
بدھ	11	27	20		مقدم 21:30		۱۱	نحس اکبر	روانگی اسیران کربلا بطرف کوفہ	وفات آقائے عظمیٰ
جمعرات	12	28	21	حوت 14:51	موخر 23:32		۱۲	نحس اکبر	سوئم شہداء کربلا	
جمعہ	13	29	22				۱۳	نحس		
ہفتہ	14	30	23		رشا 01:34	12:14 18:43	۱۴	نحس اکبر		
اتوار	15	اسوج	24	حمل 03:32	شرطین 03:32		۱۵	نیک	قرض لینے دینے کے لئے بد	
پیر	16	2	25		بطین 05:22		۱۶	نحس		
منگل	17	3	26	ثور 15:31	ثریا 07:01		۱۷	میانہ	قرض لینے دینے کے لئے بد۔ اصحاب فیل پر نزول عذاب	
بدھ	18	4	27		دبران 08:25		۱۸	نیک	تحویل قبلہ بجانب کعبہ ۲ھ	
جمعرات	19	5	28		ھقعہ 09:28		۱۹	نیک		
جمعہ	20	6	29	جوزا 01:58	ھنعہ 10:07		۲۰	میانہ	وفات حضرت بلالؓ موذن	
ہفتہ	21	7	30		ذراع 10:16		۲۱	نحس		
اتوار	22	8	31	سرطان 09:50	نثرہ 09:50		۲۲	نحس اکبر		
پیر	23	9	میزان		طرفہ 08:46	12:50 شمس در میزان	۲۳	نیک		
منگل	24	10	2	اسد 14:19	جبہ 07:02		۲۴	نحس		
بدھ	25	11	3		زبرہ 04:41		۲۵	نحس	شہادت امام زین العابدینؑ ۹۵ھ	وفات جناب فضہ ۹۵ھ
جمعرات	26	12	4	سنبلہ 15:37	صرفہ 01:48 عوا 22:27		۲۶	نیک	نکاح و سفر کے لئے بد	
جمعہ	27	13	5		سماک 18:49		۲۷	نیک	شہادت میثم تمارؓ صحابی رسولؐ	
ہفتہ	28	14	6	میزان 15:03	غفرہ 15:03		۲۸	نیک	نکاح کے لئے بد	
اتوار	29	15	7		زبانہ 11:18		۲۹	نیک	نکاح کے لئے بد	
پیر	30	16	8	عقرب 14:42	اکلیل 07:47		صفر	نحس اکبر	داخلہ اہل حرم دربار یزید ملعون	

ابتدا قمر در عقرب 3 ستمبر صبح 4 بجکر 35 منٹ۔ اختتام قمر در عقرب 5 ستمبر صبح 8 بجکر 8 منٹ۔ ابتدا قمر در عقرب 30 ستمبر

28واں سالانہ مجلس عزا جاری ہے بتاریخ 27 صفر بمطابق ... مجلس عزا بمقام کربلا گامے شاہ لاہور صبح تا شام شبیہ تابوت حضرت امام حسن مجتبیٰؑ۔ منجانب۔ سید محمد جمشید نقوی 0300-4298909

اوقات شرعی برائے لاہور۔ کراچی

ستمبر

تاریخ	لاہور طلوع فجر	طلوع آفتاب	زوال آفتاب	غروب آفتاب	کراچی طلوع آفتاب	غروب آفتاب
1	04:14	05:37	12:03	06:28	06:12	06:51
2	04:15	05:38	12:03	06:27	06:12	06:50
3	04:15	05:39	12:02	06:26	06:13	06:49
4	04:16	05:39	12:02	06:24	06:13	06:48
5	04:17	05:40	12:02	06:23	06:14	06:47
6	04:18	05:41	12:01	06:22	06:14	06:46
7	04:18	05:42	12:01	06:20	06:14	06:45
8	04:19	05:43	12:01	06:19	06:14	06:44
9	04:20	05:43	12:00	06:18	06:15	06:43
10	04:21	05:44	12:00	06:16	06:15	06:42
11	04:22	05:44	12:00	06:15	06:16	06:41
12	04:23	05:45	11:59	06:14	06:16	06:40
13	04:23	05:45	11:59	06:13	06:17	06:39
14	04:24	05:46	11:59	06:11	06:17	06:38
15	04:24	05:46	11:58	06:10	06:17	06:37
16	04:25	05:47	11:58	06:08	06:17	06:35
17	04:26	05:48	11:58	06:07	06:18	06:34
18	04:26	05:49	11:57	06:06	06:18	06:33
19	04:27	05:50	11:57	06:05	06:19	06:32
20	04:28	05:51	11:56	06:04	06:19	06:31
21	04:29	05:51	11:56	06:02	06:19	06:30
22	04:30	05:52	11:56	06:01	06:19	06:29
23	04:30	05:52	11:55	05:59	06:20	06:28
24	04:31	05:53	11:55	05:58	06:20	06:27
25	04:32	05:53	11:55	05:57	06:21	06:26
26	04:32	05:54	11:54	05:55	06:21	06:25
27	04:33	05:54	11:54	05:54	06:22	06:24
28	04:33	05:55	11:54	05:53	06:22	06:23
29	0434	05:55	11:53	05:51	06:22	06:22
30	04:34	05:56	11:53	05:50	06:22	06:20

ہدایات حضرت امام رضا علیہ السلام

رات کو پانی پینا صحت کے لئے مضر ہے۔ ساگ، پودینہ اور ادرک سے پرہیز کریں۔ صبح کے وقت پانی پینا اور سیر اور ورزش مفید ہے۔

شب بیداری ماتم ہی ماتم
تیسری سالانہ
بمقام منڈراں والہ تحصیل ڈسکہ سیالکوٹ
21 محرم الحرام بعد نماز مغربین تا مرضی امام زمانہؑ
حاجی اشفاق جعفری زوار اشتیاق جعفری (نجف اشرف عراق)
0304-4158919 پسران حاجی محمد اشرف منہاس مرحوم (کویت والے)

شمسی وقمری گرہن 2019

غلام رضا عسکری اعوان 0300-6802983

جزوی شمسی گرہن اس سال کا پہلا شمسی گرہن 6 جنوری 2019 بروز اتوار کو لگے گا۔ جزوی سورج گرہن کا آغاز علی الصبح سحری کے وقت 04:34:08 پر لگے گا۔ فلکیاتی حساب سے یہ گرہن برج جدی کے 15.25.02 درجہ پر لگے گا۔ گرہن کا انتہائی عروج 06:41:26 پر ہوگا جبکہ گرہن کا اختتام 08:48:46 پر ہوگا۔ تائیوان چائنا منگولیا شمالی وجنوبی کوریا روس کے اکثر علاقوں اور جاپان میں اور امریکہ کے ویک آئی لینڈ اور الاسکا میں نظر آئے گا۔ پاکستان ایران انڈیا اور دیگر علاقوں میں گرہن نظر نہیں آئے گا۔ گرہن کا کل دورانیہ 04: گھنٹے چودہ منٹ اوراڑتیس سیکنڈ ہوگا۔

مکمل قمری گرہن اس سال کا دوسرا گرہن اور پہلا قمری گرہن 21 جنوری 2019 بروز پیر کو لگے گا۔ گرہن کا آغاز 07:36:29 پر ہوگا 09:41 پر مکمل گرہن کا آغاز ہوگا۔ جبکہ انتہائی عروج 10:43:15 پر ہوگا گرہن کا اختتام 12:48:02 پر ہوگا۔ گرہن کا کل دورانیہ چھ گھنٹے اور بارہ منٹ ہوگا فلکیاتی حساب سے یہ گرہن برج اسد کے 00:51:34 درجہ پر لگے گا۔ پاکستان میں افق سے نیچے ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آئے گا۔ قاہرہ مصر انقرہ ترکی پرتگال ہنگری یونان فرانس گوئٹے مالا اٹلی کیوبا اسپین واشنگٹن نیویارک کولمبیا لاس اینجلس شکاگو امریکہ میں اور بیلجیم برطانیہ روس ارجنٹائن میکسیکو کے اکثر علاقوں میں گرہن کا نظارہ کیا جاسکے گا برصغیر انڈیا پاکستان بشمول عرب امارات میں گرہن نظر نہیں آئے گا۔

مکمل شمسی گرہن 2 جولائی رات منگل اور بدھ کی درمیانی شب 09:55:13 پر گرہن کا آغاز ہوگا۔ انتہائی نقطہ عروج 03 جولائی کی رات 12:22:27 پر ہوگا جبکہ گرہن کا اختتام رات 02:50:34 پر ہوگا۔ فلکیاتی حساب سے یہ گرہن برج سرطان کے 10:37:33 درجہ پر لگے گا۔ چلی ارجنٹائین میں مکمل گرہن کا نظارا کیا جاسکے گا جبکہ گرہن کا جزوی حصہ پولینسیا کوک آئی لینڈ ایکواڈور برازیل پیرو یوراگوئیا ارجنٹائین بولیویا اور برازیل کے جنوبی حصوں میں گرہن کا

امامیہ تقویم ماہ اکتوبر 2019 عیسوی

صفر المظفر | ربیع الاول | ۱۴۴۱ ہجری

[illegible] مسنون (پارہ ۲۵) [illegible] پانی [illegible]

اسلامی تقویم

عمومی تقویم

استخراج و کوائف سیارگان

مطابق اہل برصغیر

ایام 31	عیسوی 2019 اکتوبر	بکرمی 2076 اسوج	شمسی 1941 میزان	قمر فی البروج	قمر فی المنازل	سیارگان فی البروج	ہجری ۱۴۴۱ صفر	نیک / نحس	ولادت و شہادت معصومین علیہم السلام / اسلامی معلومات	یادداشت
منگل	1	17	9	عقرب	قلب 04:40		۲	نیک	شہادت حضرت زید شہید	جنگ صفین
بدھ	2	18	10	قوس 16:44	شولہ 02:05		۳	نحس		عرس بہاؤالدین ملتان
جمعرات	3	19	11		نعائم 00:11 بلدہ 23:03	عطارد در عقرب 13:11	۴	نیک	سفر کے لئے بد	عرس گنج شکر پاکپتن
جمعہ	4	20	12	جدی 22:43	ذابح 22:43	مریخ در میزان 09:22	۵	نحس		
ہفتہ	5	21	13		بلع 23:08		۶	نیک		
اتوار	6	22	14				۷	نیک	میلاد مسعود امام موسیٰ کاظمؑ	
پیر	7	23	15	دلو 08:42	سعود 00:13		۸	نیک	سفر کے لئے بد	
منگل	8	24	16		اخبیہ 01:48	زہرہ در عقرب 22:06	۹	نیک	شہادت حضرت عمار بن یاسرؓ	فتح جنگ نہروان
بدھ	9	25	17	حوت 21:05	مقدم 03:43		۱۰	نحس اکبر		
جمعرات	10	26	18		موخر 05:47		۱۱	نیک	وفات حضرت اویس قرنیؓ	لیلۃ الہریر 37ھ
جمعہ	11	27	19		رشا 07:50		۱۲	نیک		
ہفتہ	12	28	20	حمل 09:46	شرطین 09:46		۱۳	نحس	شہادت بی بی سکینہؑ	35ھ وفات حضرت سلمان فارسی
اتوار	13	29	21		بطین 11:29		۱۴	نیک		
پیر	14	30	22	ثور 21:24	ثریا 12:58		۱۵	نیک	قرض لینے دینے کے لئے بد	
منگل	15	کاتک	23		دبران 14:10		۱۶	نحس		
بدھ	16	2	24		ہقعہ 15:04		۱۷	نحس اکبر	شہادت امام علی رضاؑ	
جمعرات	17	3	25	جوزا 07:30	ہنعہ 15:39		۱۸	نیک		
جمعہ	18	4	26		ذراع 15:53		۱۹	نیک		
ہفتہ	19	5	27	سرطان 15:43	نثرہ 15:43		۲۰	نحس اکبر	چہلم امام حسینؑ علیہ السلام	عرس داتا گنج بخش
اتوار	20	6	28		طرفہ 15:05		۲۱	نحس		
پیر	21	7	29	اسد 21:28	جبہ 13:58		۲۲	نیک		
منگل	22	8	30		زبرہ 12:20		۲۳	نیک	آغاز حکومت بنی عباس	
بدھ	23	9	عقرب		صرفہ 10:11	شمس در عقرب 22:20	۲۴	نحس	وفات حضرت ام کلثومؑ	
جمعرات	24	10	2	سنبلہ 00:29	عوا 07:34		۲۵	نحس		عرس سائیں فضل الٰہی قصور
جمعہ	25	11	3		سماک 04:35		۲۶	نیک	نکاح و سفر کے لئے بد	
ہفتہ	26	12	4	میزان 01:20	غفر 01:20 زبانا 21:56		۲۷	نیک	نکاح کے لئے بد	
اتوار	27	13	5		اکلیل 18:34		۲۸	نحس اکبر	وصال حضرت رسول خداؐ - شہادت حضرت امام حسنؑ	
پیر	28	14	6	عقرب 01:29	قلب 15:24		۲۹	نیک	نکاح کے لئے بد	
منگل	29	15	7		شولہ 12:35		۳۰	نیک		
بدھ	30	16	8	قوس 02:58	نعائم 10:16		ربیع الاول	نیک	حضرت رسول اکرمؐ کی مکہ سے مدینہ ہجرت	
جمعرات	31	17	9		بلدہ 08:35		۲	نحس		عرس حسن علی قادری لاہور

اختتام قمر در عقرب 2 اکتوبر شام 4 بجکر 44 منٹ۔ ابتدا قمر در عقرب 28 اکتوبر نصف شب 1 بجکر 29 منٹ۔ اختتام قمر در عقرب علی الصبح 2 بجکر 58 منٹ

0300-8171412 [illegible] + 0300-7730594 [illegible] 27،26،25 [illegible]

اوقات شرعی برائے لاہور۔ کراچی

اکتوبر	لاہور				کراچی	
تاریخ	طلوع فجر	طلوع آفتاب	زوال آفتاب	غروب آفتاب	طلوع آفتاب	غروب آفتاب
1	04:35	05:57	11:53	05:49	06:23	06:19
2	04:36	05:57	11:53	05:48	06:23	06:18
3	04:36	05:58	11:52	05:47	06:24	06:17
4	04:37	05:58	11:52	05:45	06:24	06:16
5	04:38	05:59	11:52	05:44	06:25	06:15
6	04:38	06:00	11:51	05:43	06:25	06:14
7	04:39	06:00	11:51	05:41	06:26	06:13
8	04:40	06:01	11:51	05:40	06:26	06:12
9	04:40	06:02	11:50	05:39	06:27	06:11
10	04:41	06:02	11:50	05:37	06:27	06:10
11	04:42	06:03	11:50	05:36	06:27	06:09
12	04:42	06:03	11:49	05:35	06:27	06:09
13	04:43	06:04	11:49	05:34	06:28	06:08
14	04:44	06:05	11:49	05:33	06:28	06:07
15	04:44	06:05	11:49	05:32	06:29	06:06
16	04:45	06:06	11:49	05:31	06:29	06:05
17	04:45	06:07	11:48	05:29	06:30	06:04
18	04:46	06:08	11:48	05:28	06:30	06:03
19	04:46	06:09	11:48	05:27	06:31	06:02
20	04:47	06:10	11:48	05:26	06:31	06:01
21	04:48	06:11	11:48	05:25	06:32	06:00
22	04:48	06:11	11:47	05:24	06:32	06:00
23	04:49	06:12	11:47	05:23	06:33	05:59
24	04:50	06:13	11:47	05:22	06:33	05:58
25	04:50	06:14	11:47	05:21	06:34	05:57
26	04:51	06:15	11:47	05:20	06:35	05:57
27	04:52	06:15	11:47	05:19	06:36	05:56
28	04:52	06:16	11:47	05:18	06:36	05:55
29	04:53	06:17	11:47	05:17	06:37	05:54
30	04:54	06:18	11:47	05:16	06:37	05:54
31	04:54	06:18	11:47	05:15	06:38	05:53

ہدایات حضرت امام رضا علیہ السلام

چربی اور مصالحہ دار گوشت اچار چٹنی سے پرہیز چاہیے۔ پانی کم پینا چاہیے۔ ورزش مفید ہے۔

مجلس عزا **27 صفر**

مجلس عزا شب داری
بسلسلہ شہادت حضرت امام حسنؑ

بمقام امام بارگاہ مسافرِ شام آلو کے اعوان باٹا پور لاہور

بانی مجلس ملک محمد یعقوب اعوان

0300-8849325,03004508392

جزوی نظارا کیا جا سکے گا۔ رات ہونے کی وجہ سے ایشیا کے اکثر ممالک بشمول انڈیا پاکستان افغانستان میں نہیں دیکھا جا سکے گا۔

جزوی قمری گرہن

جزوی قمری گرہن بروز منگل اور بدھ کی درمیانی رات میں 16 جولائی رات 11 بج کر 51 منٹ پر آغاز گرہن ہوگا۔ انتہائی نقطہ عروج 17 جولائی 02:30:44 سیکنڈ پر ہوگا جبکہ اختتام گرہن 17 جولائی صبح 05:17:38 پر ہوگا گرہن کا کل دورانیہ چھ گھنٹے اور چھبیس منٹ کا ہوگا۔ فلکیاتی حساب سے یہ گرہن 24:04:09 درجہ پر لگے گا۔ پاکستان سمیت انڈیا انڈونیشیا ایران عراق میں عرب امارات میں اور بلجیئم پرتگال تھائی لینڈ برطانیہ ہنگری مصر ترکی فرانس یونان اٹلی ساؤتھ افریقہ ارجنٹائن آسٹریلیا نیاگرا اور روس کے علاقوں میں گرہن کا نظارا کیا جا سکے گا۔

جزوی شمسی گرہن

اس سال کا آخری اور پانچواں گرہن بروز جمعرات 26 دسمبر صبح 07:29:53 پر ہوگا۔ انتہائی نقطہ عروج 10:17:46 پر ہوگا جبکہ اختتام گرہن 13:05:44 دوپہر کو ہوگا۔ فلکیاتی حساب سے یہ گرہن برج جدی کے 04:06:51 درجہ پر لگے گا۔ گرہن کا کل دورانیہ پانچ گھنٹے 35 منٹ ہوگا۔ یہ گرہن پاکستان انڈیا سری لنکا سنگاپور سعودیہ عرب امارات برونائی فلپائن اور اسپین کے جزیروں میں دیکھا جا سکے گا۔ غلام رضا عسکری اعوان 0300-6802983

تنبیہ برائے حاملہ خواتین

گرہن کے اوقات میں گھر کے اندر چت لیٹی رہیں۔ چھری اور قینچی کا استعمال نہ کریں پیٹ پر کسی قسم کا دباؤ نہ ڈالیں۔ گرہن کے اوقات میں صدقہ اور نماز آیات ضرور ادا کریں۔ **صدقہ** حسب استطاعت ٹوٹے چاول کسی مستحق کو دیں۔ 1 کلو باجرہ گھر سے باہر پرندوں کو ڈالیں۔

خصوصی نوٹ تمام گرہن چاہے دنیا کے کسی خطے میں ہوں اثرات رکھتے ہیں **نماز آیات کا طریقہ صفحہ 71 پر درج ہے**

ذاتی گھر کے لیے آزمودہ درود شریف

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ (نجم الاعمال)

اس درود شریف کو جمعہ کے دن بعد نماز عصر 1000 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو وہ اپنے لطف و کرم سے ذاتی گھر کا انتظام کر دے گا۔

مجالس عزا بسلسلہ شہادت معصومین علیہم السلام بمقام دربار عباس ابراہیم زئی۔ منجانب غازی اسکاؤٹس + سالانہ مخصوصی 28 رجب بمقام امام بارگاہ سادات ڈھڈیال۔ منجانب سید قادر شاہ ہمدانی

سید قیصر عباس زیدی ساہیوال 0302 4270231

[illegible]

امامیہ تقویم ماہ نومبر 2019 عیسوی

ربیع الاول | ربیع الثانی ۱۴۴۱ ہجری

ماہ ربیع الاول ۹ (*) کو
سورۃ مجادلہ (پارہ ۲۸)
پا آئینہ یا چاندی پر لکھیں

ایام 30	عمومی تقویم عیسوی 2019 نومبر	بکرمی 2076 کاتک	شمسی 1941 عقرب	استخراج و کوائف سیارگان [illegible] قمر فی البروج	قمر فی المنازل	سیارگان فی البروج	اسلامی تقویم ہجری ۱۴۴۱ ربیع الاول	نیک نحس	ولادت و شہادت معصومین علیہم السلام اسلامی معلومات	یادداشت
جمعہ	1	18	10	جدی ♑ 07:38	ذابح 07:38		۳	نحس		
ہفتہ	2	19	11		بلع 07:27	زہرہ در قوس 01:25	۴	نحس اکبر	تعمیر مکان کے لئے نیک	
اتوار	3	20	12	دلو ♒ 16:19	سعود 07:59		۵	نحس		
پیر	4	21	13		اخبیہ 09:11		۶	نیک	وفات حضرت ام ربابؑ	
منگل	5	22	14		مقدم 10:51		۷	نیک		عرس میاں میر لاہور
بدھ	6	23	15	حوت ♓ 04:08	موخر 12:48		۸	نحس	شہادت امام حسن عسکریؑ ۲۶۰ھ	
جمعرات	7	24	16		رشا 14:51		۹	نیک	عید شجاع۔ اہلبیتؑ نے سوگ ختم کیا	رخصت ایام غم
جمعہ	8	25	17	حمل ♈ 16:49	شرطین 16:49		۱۰	نحس اکبر		عرس پیر سید مکی لاہور
ہفتہ	9	26	18		بطین 18:32		۱۱	نیک		پیدائش علامہ اقبال
اتوار	10	27	19		ثریا 19:55		۱۲	نیک	عید میلاد النبیؐ۔ ہفتہ وحدت مسلمین کا آغاز	
پیر	11	28	20	ثور ♉ 04:18	دبران 20:56		۱۳	نحس		
منگل	12	29	21		ہقعہ 21:33		۱۴	نیک		
بدھ	13	30	22	جوزا ♊ 13:46	ہنعہ 21:48		۱۵	نیک	قرض لینے دینے کے لئے بد	بنائے مسجد قبا 1ھ
جمعرات	14	مگھر	23		ذراع 21:41		۱۶	نحس	تعمیر مکان کے لئے نیک	۱۴،۱۵ عرس شاہ محمد غوث لاہور
جمعہ	15	2	24	سرطان ♋ 21:15	نثرہ 21:15		۱۷	نیک	میلاد مسعود حضرت رسولؐ خدا۔ میلاد مسعود امام جعفر صادقؑ	
ہفتہ	16	3	25		طرفہ 20:29		۱۸	نیک	ولادت باسعادت حضرت ام کلثومؑ بنت علیؑ ۶ھ	
اتوار	17	4	26		جبہ 19:23		۱۹	نیک		
پیر	18	5	27	اسد ♌ 02:57	زبرہ 17:58		۲۰	نحس اکبر	تعمیر کے لئے نیک	
منگل	19	6	28		صرفہ 16:14	مریخ در عقرب 12:40	۲۱	نحس		
بدھ	20	7	29	سنبلہ ♍ 06:54	عوا 14:11		۲۲	نیک	پیغمبر اکرمؐ کا مدینہ میں ورود	غزوہ بنی نضیر ۴ھ
جمعرات	21	8	30		سماک 11:52		۲۳	نیک		
جمعہ	22	9	قوس	میزان ♎ 09:19	غفرہ 09:19	شمس در قوس 19:59	۲۴	نیک		
ہفتہ	23	10	2		زبانا 06:38		۲۵	نحس		
اتوار	24	11	3	عقرب 10:58	اکلیل 03:53		۲۶	نحس	رحلت حضرت ابوطالب علیہ السلام ۱۰ بعثت	
پیر	25	12	4		قلب 01:11 شولہ 22:41		۲۷	نیک		
منگل	26	13	5	قوس 13:11	نعائم 20:30	زہرہ در جدی 05:28	۲۸	نحس		
بدھ	27	14	6		بلدہ 18:45		۲۹	نیک	نکاح کے لئے بد	سالگرہ انقلاب اسلامی ایران 1979
جمعرات	28	15	7	جدی ♑ 17:32	ذابح 17:32		ربیع الثانی	نحس اکبر		عرس صاحب امیر بہاولپور
جمعہ	29	16	8		بلع 16:58		۲	نیک		عرس بابا شاہ جمال لاہور
ہفتہ	30	17	9		سعود 17:03		۳	نحس		

ابتدائے قمر در عقرب 24 نومبر 10 بجکر 58 منٹ صبح۔ اختتام قمر در عقرب 26 نومبر دوپہر 1 بجکر 11 منٹ۔

[illegible] 15، 16 [illegible] 0333 5289675 + 23 [illegible] 14 [illegible] 18 [illegible] 0305-4303075

20 صفر قدیمی مجلس چہلم وجلوس ذوالجناح بمقام امام بارگاہ موسیٰ کاظم محمود ٹ تحصیل تلہ گنگ۔ سید تصور کاظمی 0300-5476561

نماز آیات

چاند سورج گرہن، زلزلہ سرخ سیاہ آندھی اور دیگر حوادثات آسمانی کے وقت پڑھنے کی نماز

طریقہ: پہلے نیت کرے کہ نماز آیات پڑھتا ہوں (دو رکعت) واجب قربۃً الی اللہ۔ اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہے اور سورۃ الحمد اور کوئی سورہ پڑھ کر رکوع کرے۔ پھر کھڑا ہو اور مثل سابق الحمد اور کوئی سورہ پڑھ کر رکوع کرے۔ اسی طرح پانچ رکوع کرنے کے بعد دونوں سجدوں سے فارغ ہو کر دوسری رکعت بھی بجالائے۔ اور ہر دوسرے رکوع سے قبل قنوت پڑھے اور تشہد وسلام پڑھ کر نماز ختم کرے۔ اس طرح اس نماز کی پہلی رکعت میں ۵ رکوع اور ۲ قنوت (دوسرے اور چوتھے رکوع سے قبل) اور دوسری رکعت میں ۵ رکوع اور ۳ قنوت (پہلے، تیسرے اور پانچویں رکوع سے قبل) ہو جائیں گے۔ اس نماز میں کل ۱۰ رکوع اور ۵ قنوت ہوتے ہیں۔ پانچویں اور دسویں رکوع کے بعد (سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ) کہے۔ ہر رکوع میں جانے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد تکبیر کہنا مستحب ہے لیکن پانچویں اور دسویں رکوع کے بعد نہیں۔ الحمد اور سورۃ کا باآواز بلند پڑھنا مستحب ہے۔

استغاثہ بحضور حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام

(قضائے حاجات اور سختیوں کو دور کرنے کیلئے)

یہ ایسا کامیاب عمل ہے جس کے انجام دینے سے فوراً نیک مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اس عمل خیر کو مجمع الدعوات سے پیش کیا جا رہا ہے۔ عمل کو مندرجہ ذیل طریقے سے انجام دیں۔ (1)- دو رکعت نماز بہ نیت استغاثہ حضرت ابوالفضل العباسؑ پڑھے۔ (2) - نماز کے بعد گیارہ مرتبہ محمدؐ وآل محمدؐ علیہم السلام پر درود پڑھے۔ (3)- گیارہ مرتبہ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْفَضْلِ الْعَبَّاسُ) پڑھے۔ (4) - 133 مرتبہ (يَا كَاشِفَ الْكَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِكْشِفْ كَرْبِي بِحَقِّ اَخِيكَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ) (5) - گیارہ مرتبہ (اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ)

(6) - گیارہ مرتبہ (يَا اَللّٰهُ) پھر گیارہ مرتبہ (لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) بعدہٗ گریہ وزاری کرکے اپنی جملہ پریشانیوں کیلئے خوب رو رو کر دعا کریں۔

اوقات شرعی برائے لاہور۔ کراچی

نومبر	لاہور				کراچی	
تاریخ	طلوع فجر	طلوع آفتاب	زوال آفتاب	غروب آفتاب	طلوع آفتاب	غروب آفتاب
1	04:56	06:19	11:47	05:14	06:39	05:52
2	04:57	06:19	11:47	05:14	06:39	05:52
3	04:57	06:20	11:47	05:13	06:40	05:51
4	04:58	06:21	11:47	05:12	06:40	05:51
5	04:58	06:22	11:47	05:11	06:41	05:50
6	04:59	06:23	11:47	05:10	06:41	05:50
7	05:00	06:23	11:47	05:10	06:42	05:49
8	05:00	06:24	11:47	05:09	06:43	05:49
9	05:01	06:25	11:47	05:09	06:44	05:48
10	05:01	06:26	11:47	05:08	06:44	05:48
11	05:02	06:27	11:47	05:07	06:45	05:47
12	05:03	06:28	11:47	05:06	06:45	05:47
13	05:04	06:29	11:47	05:05	06:46	05:46
14	05:05	06:30	11:47	05:05	06:47	05:46
15	05:06	06:31	11:48	05:04	06:48	05:45
16	05:07	06:32	11:48	05:04	06:48	05:45
17	05:08	06:33	11:48	05:03	06:49	05:44
18	05:09	06:33	11:48	05:03	06:49	05:44
19	05:09	06:34	11:48	05:02	06:50	05:44
20	05:10	06:35	11:49	05:02	06:51	05:44
21	05:11	06:36	11:49	05:02	06:52	05:43
22	05:12	06:37	11:49	05:01	06:52	05:43
23	05:12	06:37	11:49	05:01	06:53	05:43
24	05:13	06:38	11:50	05:00	06:54	05:43
25	05:14	06:39	11:50	05:00	06:55	05:43
26	05:15	06:40	11:50	05:00	06:55	05:43
27	05:16	06:41	11:51	04:59	06:56	05:43
28	05:16	06:42	11:51	04:59	06:57	05:43
29	05:17	06:42	11:51	04:59	06:58	05:42
30	05:17	06:43	11:52	04:59	06:58	05:42

ہدایات حضرت امام رضا علیہ السلام

رات کو پانی پینا صحت کے لئے مضر ہے۔ غسل میں کمی چاہیے۔ ساگ، پودینہ ادرک سے پرہیز، نہار منہ ایک گھونٹ پانی پینا مفید ہے

مجرب آزمودہ دعا برائے شفایابی بخار

اگر کسی کو بخار ہو تو مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یہ آیت پڑھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَّ سَلَامًا عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلٰى پھر مریض کا نام لے اور کہے بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَّ آلِ مُحَمَّدٍ

اس طرح تین مرتبہ پڑھ کر دم کرے اول و آخر تین، تین مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں (پارہ 17 سورۃ انبیاء آیت 69)

29 صفر بعد از نماز مغرب مجلس عزا و زیارت تابوت شہزادہ امام حسنؑ بمقام آغا بیٹھک امام بارگاہ روڈ کوٹ سیداں گوجرخاں منجانب آغا برادران

جلوس و مجلس 13 صفر صف ماتم بارگاہ محفل شاہ خراسان بھوانہ ضلع چنیوٹ۔ سید فخر حیدر جعفری 0300-4377967

محرم الحرام کی پہلی اتوار مجلس 17 اوشیہ وا لیماج بمقام 3-8 جعفریہ کالونی بند روڈ لاہور۔ منجانب: حاجی سید حسن شاہ ترمذی 0321-3210955

4 ذی الحجہ سفیر آل محمد کا ماتم حرم اقدس بی بی پاکدامن دوپہر 12 بجے تا رات۔ منجم شیخ اخلاق حسن 0300-4396973

امامیہ تقویم ماہ دسمبر 2019 عیسوی

عمومی تقویم — استخراج و کوائف سیارگان

مطابق افق برصغیر

ایام	31 دسمبر عیسوی 2019	مگھر بکرمی 2076	قوس شمسی 1941	قمر فی البروج	قمر فی المنازل	سیارگان فی البروج
اتوار	1	18	10	دلو 01:13	اخبیہ 17:46	
پیر	2	19	11		مقدم 19:04	
منگل	3	20	12	حوت 12:10	موخر 20:47	
بدھ	4	21	13		رشا 22:45	
جمعرات	5	22	14			
جمعہ	6	23	15	حمل 00:44	شرطین 00:44	
ہفتہ	7	24	16		بطین 02:34	
اتوار	8	25	17	ثور 12:29	ثریا 04:05	
پیر	9	26	18		دبران 05:08	عطارد در قوس 11:11
منگل	10	27	19	جوزا 21:47	ہقعہ 05:42	
بدھ	11	28	20		ہنعہ 05:44	
جمعرات	12	29	21		ذراع 05:17	
جمعہ	13	30	22	سرطان 04:23	نثرہ 04:23	
ہفتہ	14	پوہ	23		طرفہ 03:06	
اتوار	15	2	24	اسد 08:56	جبہ 01:31 زبرہ 23:41	
پیر	16	3	25		صرفہ 21:41	
منگل	17	4	26	سنبلہ 12:16	عوا 19:32	
بدھ	18	5	27		سماک 17:19	
جمعرات	19	6	28	میزان 15:04	غفر 15:04	
جمعہ	20	7	29		زبانہ 12:50	زہرہ در دلو 11:41
ہفتہ	21	8	30	عقرب 17:57	اکلیل 10:39	
اتوار	22	9	جدی		قلب 08:35	شمس در جدی 09:19
پیر	23	10	2	قوس 21:34	شولہ 06:42	
منگل	24	11	3		نعائم 05:03	
بدھ	25	12	4		بلدہ 03:43	
جمعرات	26	13	5	جدی 02:45	ذابح 02:45	
جمعہ	27	14	6		بلع 02:15	
ہفتہ	28	15	7	دلو 10:20	سعود 02:14	
اتوار	29	16	8		اخبیہ 02:44	عطارد در جدی 09:55
پیر	30	17	9	حوت 20:41	مقدم 03:45	
منگل	31	18	10		موخر 05:13	

اسلامی تقویم

ربیع الثانی | جمادی الاول | ۱۴۴۱ ہجری

ماہ جمادی الاول کا چاند دیکھ کر آب رواں، فرزند یا پانی دیکھیں، سورہ مزمل کی تلاوت کریں۔

ولادت و شہادت معصومین علیہم السلام

ہجری ۱۴۴۱ ربیع الثانی	نیک نحس	اسلامی معلومات	یادداشت
۴	نیک	سفر کے لئے بد	عرس [illegible]
۵	نحس		
۶	نیک		
۷	نیک		
۸	نیک		
۹	نیک		
۱۰	نیک	میلاد مسعود امام حسن عسکریؑ ۲۳۲ھ	
۱۱	نحس اکبر		بڑی گیارہویں شریف
۱۲	نیک	نماز فرض ہوئی سنہ ۲	
۱۳	نحس	کوفہ میں قیام حضرت مختار	
۱۴	نیک		
۱۵	نیک	قرض لینے دینے کے لئے بد	[illegible]
۱۶	نحس	تعمیر کے لئے نیک	عرس [illegible]
۱۷	میانہ	قرض لینے دینے کے لئے بد	۱۶-۱۷ میراں موج دریا بخاری لاہور
۱۸	نیک	سفر کے لئے بد	
۱۹	نیک		
۲۰	میانہ	تعمیر مکان کے لئے نیک	
۲۱	نحس		
۲۲	نیک		وفات حضرت [illegible]
۲۳	نیک		
۲۴	نحس		17:57 قمر در عقرب شروع
۲۵	نحس		
۲۶	نیک	نکاح و سفر کے لئے بد	21:34 قمر در عقرب ختم
۲۷	نیک		
۲۸	نحس اکبر		سالگرہ قائد اعظم
۲۹	نیک	نکاح کے لئے بد	جزوی سورج گرہن
۳۰	نیک	نکاح کے لئے بد	
جمادی الاول	نیک		
۲	نیک		
۳	نحس		عرس رکن الدین ملتان
۴	نیک		

33 [illegible] 23/7 [illegible] 0300-9550871

ابتدا قمر در عقرب 21 دسمبر شام 5 بجکر 57 منٹ۔ اختتام قمر در عقرب 23 دسمبر رات 9 بجکر 34 منٹ۔

اوقات شرعی برائے لاہور۔ کراچی

دسمبر

تاریخ	لاہور طلوع فجر	طلوع آفتاب	زوال آفتاب	غروب آفتاب	کراچی طلوع آفتاب	غروب آفتاب
1	05:18	06:44	11:52	04:59	06:59	05:43
2	05:19	06:45	11:52	04:59	07:00	05:43
3	05:20	06:46	11:53	04:59	07:01	05:43
4	05:20	06:47	11:53	04:59	07:01	05:43
5	05:21	06:48	11:54	04:59	07:02	05:43
6	05:22	06:48	11:54	04:59	07:02	05:43
7	05:22	06:49	11:54	04:59	07:03	05:43
8	05:23	06:50	11:55	04:59	07:04	05:43
9	05:24	06:50	11:55	04:59	07:05	03:44
10	05:24	06:51	11:56	04:59	07:05	05:44
11	05:25	06:51	11:56	04:59	07:06	05:44
12	05:26	06:52	11:57	04:59	07:06	05:44
13	05:26	06:52	11:57	05:00	07:07	05:45
14	05:27	06:53	11:58	05:00	07:07	05:45
15	05:27	06:53	11:58	05:01	07:08	05:46
16	05:28	06:54	11:59	05:01	07:09	05:46
17	05:29	06:55	11:59	05:02	07:10	05:46
18	05:30	06:56	12:00	05:02	07:10	05:46
19	05:30	06:56	12:00	05:03	07:11	05:47
20	05:31	06:57	12:01	05:04	07:11	05:47
21	05:31	06:58	12:01	05:04	07:12	05:48
22	05:32	06:59	12:02	05:05	07:12	05:48
23	05:33	06:59	12:02	05:05	07:13	05:49
24	05:33	07:00	12:03	05:06	07:13	05:49
25	05:34	07:00	12:03	05:06	07:14	05:50
26	05:34	07:01	12:04	05:07	07:14	05:50
27	05:34	07:01	12:04	05:07	07:15	05:51
28	05:35	07:02	12:05	05:08	07:15	05:52
29	05:35	07:02	12:05	05:08	07:15	05:53
30	05:35	07:03	12:06	05:09	07:15	05:53
31	05:36	07:03	12:06	05:09	07:16	05:54

ہدایات حضرت امام رضا علیہ السلام

لطیف غذا میں مچھلی، گوشت، شہد، بہشتی انڈا، مچھلی کا شوربہ مفید ہے۔ عدس اور پیاز کا استعمال مفید ہے۔

اوقات سحر و افطار فقہ جعفریہ
رمضان المبارک 2019

مئی جون	رمضان المبارک	لاہور اختتام سحر	افطار
07 مئی	01	03:33	06:57
08 مئی	02	03:32	06:58
09 مئی	03	03:31	06:59
10 مئی	04	03:30	07:00
11 مئی	05	03:29	07:00
12 مئی	06	03:28	07:01
13 مئی	07	03:27	07:01
14 مئی	08	03:26	07:02
15 مئی	09	03:25	07:03
16 مئی	10	03:24	07:04
17 مئی	11	03:23	07:04
18 مئی	12	03:22	07:05
19 مئی	13	03:21	07:06
20 مئی	14	03:20	07:06
21 مئی	15	03:19	07:07
22 مئی	16	03:18	07:08
23 مئی	17	03:17	07:09
24 مئی	18	03:17	07:09
25 مئی	19	03:16	07:10
26 مئی	20	03:15	07:11
27 مئی	21	03:15	07:11
28 مئی	22	03:14	07:12
29 مئی	23	03:13	07:12
30 مئی	24	03:12	07:13
31 مئی	25	03:12	07:13
01 جون	26	03:11	07:14
02 جون	27	03:11	07:14
03 جون	28	03:10	07:15
04 جون	29	03:10	07:15
05 جون	30	03:10	07:16

نوٹ فقہ جعفریہ کے مطابق افطار کا وقت 10 منٹ بعد اور اختتام سحر 10 منٹ پہلے ہے۔

مصدقہ مولانا سید نوید اصغر نقوی صاحب۔ پیش نماز جامع مسجد صاحب الزمان اسلام پورہ لاہور

مختصر فضائل رمضان المبارک

تلاوت قرآن پاک کا اس ماہ میں بہت ثواب ہے سحری کھانا سنت ہے کھجور، نیم گرم پانی، نمکین پانی سے روزہ افطار کرنے کا زیادہ ثواب ہے۔

دعائے افطار از حضرت امام موسیٰ کاظمؑ

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ

مبطلات روزہ

کھانا، پینا، جماع کرنا، غبار غلیظ کا حلق میں جانا، پورے سر کا غوطہ دینا، جنابت یا حیض کی حالت میں صبح کی اذان تک رہنا۔

روزہ کا کفارہ

دو مہینوں کے پے در پے روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ زیادہ ضعیف، یا بیمار شخص کیلئے روزہ واجب نہیں ہے لیکن ہر دن کیلئے 14 چھٹانک گندم یا جو فقیر کو دینا ہوگا۔

احکام فطرہ

مقدار فطرہ 3 کلو ہے۔ تمام ان افراد کی طرف سے ہے جن کے کھانے پینے کے مصارف اس کے ذمہ ہیں۔ یہاں تک کہ چاند نکلنے سے قبل کوئی مہمان آجائے۔ یا عیدگاہ جانے سے قبل کوئی بچہ پیدا ہو جائے۔ سیّد کا فطرہ سیّد اور غیر سیّد دونوں کو دیا جا سکتا ہے لیکن غیر سیّد کا سیّد کو نہیں۔ فطرہ ضروری ہے کہ زوال سے قبل ادا کرے۔ مکمل اعمال تحفۃ العوام مقبول جدید میں درج ہیں۔

تہذیب الاسلام
از علامہ مجلسی
550/- آفسٹ 750/-
ترجمہ حلیۃ المتقین از مولانا مقبول احمد

تحفۃ العوام
مطابق فتاویٰ مجتہدین عظام
مختلف اقسام کاغذ و بائنڈنگ

تحفہ نماز جعفریہ جدید مع اضافہ
مولف مولانا السید امداد حسین کاظمی
300/-

ملنے کا پتہ

مفاتیح الجنان (باقیات صالحات)
ترجمہ علامہ حافظ ریاض حسین نجفی
عام 500/- مجلد ایڈیشن 900/-
جیبی ایڈیشن مع بکس 1400/-

مفاتیح الجنان (باقیات صالحات)
باب الدعا جلد دوئم 225/-
باب الزیارات جلد اول 225/-
باقیات صالحات جلد سوئم 225/-

042-37223666 اسلام پورہ لاہور

10 شعبان بعد نماز مغرب جشن ظہور شہزادہ علی اکبر امام بارگاہ قصر شاہ خراسان اہل سادات کہوڑ کا۔ بانی سید حسن عسکری و سید محمد اصغر علی + جشن ظہور حضرت امام علی علیہ السلام 13، 14 رجب کی درمیانی رات امام بارگاہ حضرت امام حسین بمقام بکری ضلع راولپنڈی۔ منجانب: انجمن حسینیہ

12 محرم بوقت 5 بجے شام بیاد ماتم شہدائے کربلا بمقام میرک سیال دربار سید چراغ پاک۔ منجانب: دختران سید دار سلطان، تحصیل شورکوٹ ضلع جھنگ

امامیہ تقویم ماہ جنوری 2020 عیسوی

مطابق جمادی الاول / جمادی الثانی ۱۴۴۱ ہجری

ایام 31	جنوری 2020ء	جمادی الاول	نیک / نحس	یادداشت
بدھ	1	۵	نیک	بروایت میلاد مسعود حضرت زینبؑ ۵ھ
جمعرات	2	۶	نیک	
جمعہ	3	۷	نیک	
ہفتہ	4	۸	نیک	سفر کے لئے بد
اتوار	5	۹	نیک	
پیر	6	۱۰	نحس اکبر	
منگل	7	۱۱	نحس اکبر	
بدھ	8	۱۲	نیک	
جمعرات	9	۱۳	نحس	(مختلف) شہادت حضرت فاطمۃ الزہراؑ ۱۱ھ
جمعہ	10	۱۴	نیک	
ہفتہ	11	۱۵	نیک	میلاد مسعود امام زین العابدینؑ ۳۸ھ
اتوار	12	۱۶	نحس	تعمیر مکان کے لئے نیک
پیر	13	۱۷	میانہ	قرض لینے دینے کے لئے بد
منگل	14	۱۸	نیک	
بدھ	15	۱۹	نیک	
جمعرات	16	۲۰	میانہ	تعمیر کے لئے نیک
جمعہ	17	۲۱	نحس	قمر در عقرب ابتدا
ہفتہ	18	۲۲	نیک	
اتوار	19	۲۳	نیک	
پیر	20	۲۴	نحس	قمر در عقرب اختتام
منگل	21	۲۵	نحس	
بدھ	22	۲۶	نیک	نکاح و سفر کے لئے بد
جمعرات	23	۲۷	نیک	
جمعہ	24	۲۸	نحس اکبر	
ہفتہ	25	۲۹	نیک	نکاح کے لئے بد
اتوار	26	۳۰	نیک	نکاح کے لئے بد
پیر	27	جمادی الثانی	نحس اکبر	
منگل	28	۲	نیک	
بدھ	29	۳	نحس	شہادت بی بی فاطمۃ الزہراؑ ۱۱ھ
جمعرات	30	۴	نیک	سفر کے لئے بد
جمعہ	31	۵	نحس	

بلتستان بکڈپو نیا بازار سکردو بلتستان 0341-5088828

امامیہ تقویم ماہ فروری 2020 عیسوی

مطابق جمادی الثانی / رجب المرجب ۱۴۴۱ ہجری

ایام 29	فروری 2020ء	جمادی الثانی	نیک / نحس	یادداشت
ہفتہ	1	۶	نیک	
اتوار	2	۷	نیک	
پیر	3	۸	نیک	سفر کے لئے بد
منگل	4	۹	نیک	
بدھ	5	۱۰	نیک	فتح جنگ جمل ۳۷ھ یوم کشمیر
جمعرات	6	۱۱	نحس اکبر	
جمعہ	7	۱۲	نحس اکبر	
ہفتہ	8	۱۳	نحس	شہادت ام البنینؑ والدہ حضرت عباسؑ
اتوار	9	۱۴	نیک	
پیر	10	۱۵	نیک	
منگل	11	۱۶	نحس	تعمیر مکان کے لئے نیک
بدھ	12	۱۷	میانہ	قرض لینے دینے کے لئے بد
جمعرات	13	۱۸	نیک	شہادت قاضی نور اللہ شوستری
جمعہ	14	۱۹	نیک	قمر در عقرب ابتدا
ہفتہ	15	۲۰	نیک	میلاد مسعود بی بی فاطمۃ الزہراؑ
اتوار	16	۲۱	نحس	قمر در عقرب اختتام
پیر	17	۲۲	نیک	منت دسترخوان امام حسن علیہ السلام
منگل	18	۲۳	نیک	
بدھ	19	۲۴	نحس	
جمعرات	20	۲۵	نحس	
جمعہ	21	۲۶	نیک	نکاح و سفر کے لئے بد
ہفتہ	22	۲۷	نیک	
اتوار	23	۲۸	نحس اکبر	
پیر	24	۲۹	نیک	نکاح کے لئے بد
منگل	25	۳۰	نیک	نکاح کے لئے بد
بدھ	26	رجب	نیک	میلاد مسعود امام محمد باقرؑ ۵۷ھ
جمعرات	27	۲	نیک	
جمعہ	28	۳	نحس	شہادت امام علی نقیؑ ۲۵۴ھ
ہفتہ	29	۴	نیک	سفر کے لئے بد

امامیہ جنتری (رجسٹرڈ) پاکستان کے ہول سیل سٹاکسٹ
صابری دارالکتب الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور۔
042-37320310, 042-37320770

نظرات قمر و سیارگان

تاریخ	نظرات	وقت
	جنوری	
01 جنوری	قمر تسدیس شمس	00:46
01 جنوری	قمر تسدیس زحل	03:09
01 جنوری	قمر تثلیث نیپچون	08:10
01 جنوری	قمر تسدیس پلوٹو	20:19
02 جنوری	قمر قران زہرہ	03:26
02 جنوری	قمر تثلیث مریخ	15:41
03 جنوری	قمر قران مشتری	13:23
03 جنوری	قمر تربیع نیپچون	17:00
04 جنوری	قمر قران عطارد	22:41
04 جنوری	قمر تثلیث یورانس	21:10
05 جنوری	قمر تربیع مریخ	05:05
05 جنوری	قمر قران زحل	23:32
06 جنوری	قمر تسدیس نیپچون	04:01
06 جنوری	قمر قران شمس	06:28
06 جنوری	قمر قران پلوٹو	17:12
07 جنوری	قمر تربیع یورانس	08:56
07 جنوری	قمر تسدیس زہرہ	11:20
07 جنوری	قمر تسدیس مریخ	20:42
08 جنوری	قمر تسدیس مشتری	14:44
09 جنوری	قمر تسدیس یورانس	21:53
10 جنوری	قمر تربیع زہرہ	06:09
10 جنوری	قمر تسدیس عطارد	17:16
11 جنوری	قمر تسدیس زحل	02:13
11 جنوری	قمر قران نیپچون	05:47
11 جنوری	قمر تربیع مشتری	04:48
11 جنوری	قمر تسدیس پلوٹو	19:11
11 جنوری	قمر تسدیس شمس	19:25
13 جنوری	قمر تثلیث زہرہ	00:20
13 جنوری	قمر قران مریخ	05:12
13 جنوری	قمر تربیع عطارد	14:05
13 جنوری	قمر تثلیث مشتری	17:31
13 جنوری	قمر تربیع زحل	14:36
14 جنوری	قمر تربیع پلوٹو	06:28
14 جنوری	قمر تربیع شمس	11:45
14 جنوری	قمر قران یورانس	20:56
15 جنوری	قمر تثلیث زحل	23:50
16 جنوری	قمر تسدیس نیپچون	02:15
16 جنوری	قمر تثلیث عطارد	06:29
16 جنوری	قمر تثلیث پلوٹو	14:17
16 جنوری	قمر تثلیث شمس	23:34
18 جنوری	قمر مقابلہ زہرہ	00:54
18 جنوری	قمر تسدیس مریخ	01:32
18 جنوری	قمر مقابلہ مشتری	08:10
18 جنوری	قمر تربیع نیپچون	06:56
19 جنوری	قمر تسدیس یورانس	06:32
20 جنوری	قمر مقابلہ زحل	06:48
20 جنوری	قمر تثلیث نیپچون	08:19
20 جنوری	قمر تربیع مریخ	05:28
20 جنوری	قمر مقابلہ پلوٹو	19:01
20 جنوری	قمر مقابلہ عطارد	23:56
21 جنوری	قمر تربیع یورانس	06:50
21 جنوری	قمر مقابلہ شمس	10:16
22 جنوری	قمر تثلیث مریخ	07:19
22 جنوری	قمر تثلیث زہرہ	09:43
22 جنوری	قمر تثلیث مشتری	10:11
23 جنوری	قمر تثلیث یورانس	06:19
24 جنوری	قمر مقابلہ نیپچون	07:55
24 جنوری	قمر تثلیث زحل	06:56
24 جنوری	قمر تربیع زہرہ	13:27
24 جنوری	قمر تربیع مشتری	10:41
24 جنوری	قمر تثلیث پلوٹو	18:50
25 جنوری	قمر تثلیث عطارد	11:56
25 جنوری	قمر تثلیث شمس	17:48
26 جنوری	قمر تربیع زحل	09:10
26 جنوری	قمر مقابلہ مریخ	13:56
26 جنوری	قمر تسدیس مشتری	13:23
26 جنوری	قمر تربیع پلوٹو	21:30
26 جنوری	قمر تسدیس زہرہ	20:03
27 جنوری	قمر مقابلہ یورانس	10:21
27 جنوری	قمر تربیع عطارد	22:59
28 جنوری	قمر تربیع شمس	02:10
28 جنوری	قمر تثلیث نیپچون	15:14
28 جنوری	قمر تسدیس زحل	14:46
29 جنوری	قمر تسدیس پلوٹو	03:39
30 جنوری	قمر تسدیس شمس	15:03
30 جنوری	قمر تسدیس عطارد	15:32
31 جنوری	قمر تربیع نیپچون	00:06
31 جنوری	قمر قران مشتری	05:23
31 جنوری	قمر تثلیث مریخ	10:49
31 جنوری	قمر قران زہرہ	22:35
	فروری	
01 فروری	قمر تثلیث یورانس	03:33
02 فروری	قمر قران زحل	11:57
02 فروری	قمر تسدیس نیپچون	11:41
03 فروری	قمر قران پلوٹو	01:14
03 فروری	قمر تربیع مریخ	02:12
03 فروری	قمر تربیع یورانس	15:53
05 فروری	قمر قران شمس	02:04
05 فروری	قمر تسدیس مشتری	07:35
05 فروری	قمر قران عطارد	12:11
05 فروری	قمر تسدیس مریخ	18:49
06 فروری	قمر تسدیس یورانس	04:59
06 فروری	قمر تسدیس زہرہ	12:33
07 فروری	قمر قران نیپچون	13:43
07 فروری	قمر تسدیس زحل	14:44
07 فروری	قمر تربیع مشتری	21:16
08 فروری	قمر تسدیس پلوٹو	03:14
09 فروری	قمر تربیع زہرہ	07:21
10 فروری	قمر تربیع زحل	03:06
10 فروری	قمر تثلیث مشتری	09:42
10 فروری	قمر تسدیس شمس	13:39
10 فروری	قمر تربیع پلوٹو	14:51
11 فروری	قمر قران مریخ	01:48
11 فروری	قمر قران یورانس	04:48
11 فروری	قمر تسدیس عطارد	08:57
11 فروری	قمر تثلیث زہرہ	23:39
12 فروری	قمر تثلیث زحل	13:05
12 فروری	قمر تسدیس نیپچون	11:30
12 فروری	قمر تثلیث پلوٹو	23:54
13 فروری	قمر تربیع شمس	03:26
14 فروری	قمر تربیع عطارد	01:36
14 فروری	قمر تربیع نیپچون	17:56
15 فروری	قمر مقابلہ مشتری	01:56
15 فروری	قمر تثلیث شمس	12:49
15 فروری	قمر تسدیس یورانس	17:48
15 فروری	قمر تسدیس مریخ	20:24
16 فروری	قمر تثلیث عطارد	12:39
16 فروری	قمر مقابلہ زہرہ	19:23
16 فروری	قمر مقابلہ زحل	22:39
16 فروری	قمر تثلیث نیپچون	20:49
17 فروری	قمر مقابلہ پلوٹو	07:39
17 فروری	قمر تربیع مریخ	23:57
17 فروری	قمر تربیع یورانس	19:17
19 فروری	قمر تثلیث مشتری	05:00
19 فروری	قمر تثلیث یورانس	18:51
19 فروری	قمر مقابلہ شمس	20:53
20 فروری	قمر تثلیث مریخ	01:31
20 فروری	قمر مقابلہ نیپچون	20:22
20 فروری	قمر تثلیث زحل	22:32
21 فروری	قمر مقابلہ عطارد	00:11
21 فروری	قمر تثلیث زہرہ	02:44
21 فروری	قمر تربیع مشتری	04:41
21 فروری	قمر تثلیث پلوٹو	06:52
22 فروری	قمر تربیع زحل	23:20
23 فروری	قمر تربیع زہرہ	07:46

[illegible] 0302-6816392

سالانہ مجلس عزا بسلسلہ شہادت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جمادی الثانی کا پہلا جمعہ مرکزی امام بارگاہ [illegible] تحصیل چوآ سیدن شاہ ضلع چکوال [illegible]

تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت
23 فروری	قمر تربیع پلوٹو	07:52	11 مارچ	قمر قران مریخ	20:26	25 مارچ	قمر تربیع زہرہ	07:24	10 اپریل	قمر مقابلہ مشتری	22:27
23 فروری	قمر تسدیس مشتری	05:56	11 مارچ	قمر تثلیث زحل	23:34	25 مارچ	قمر تثلیث شمس	19:30	10 اپریل	قمر تربیع عطارد	19:43
23 فروری	قمر مقابلہ یورانس	20:10	11 مارچ	قمر تسدیس نیپچون	19:17	26 مارچ	قمر تربیع عطارد	17:01	11 اپریل	قمر تسدیس یورانس	11:49
24 فروری	قمر مقابلہ مریخ	08:12	12 مارچ	قمر تسدیس شمس	04:13	26 مارچ	قمر تربیع نیپچون	18:07	12 اپریل	قمر تثلیث نیپچون	15:14
24 فروری	قمر تثلیث شمس	05:44	12 مارچ	قمر تثلیث پلوٹو	07:13	27 مارچ	قمر قران مشتری	07:37	12 اپریل	قمر مقابلہ زحل	20:05
25 فروری	قمر تثلیث نیپچون	00:29	12 مارچ	قمر تسدیس عطارد	14:31	27 مارچ	قمر تثلیث یورانس	21:10	12 اپریل	قمر تثلیث زہرہ	20:05
25 فروری	قمر تسدیس زحل	03:21	13 مارچ	قمر تثلیث زہرہ	22:58	27 مارچ	قمر تسدیس زہرہ	21:06	13 اپریل	قمر مقابلہ پلوٹو	01:01
25 فروری	قمر تسدیس پلوٹو	12:18	14 مارچ	قمر تثلیث نیپچون	02:43	28 مارچ	قمر تربیع شمس	09:10	13 اپریل	قمر تثلیث عطارد	04:33
25 فروری	قمر تثلیث عطارد	16:14	14 مارچ	قمر مقابلہ مشتری	14:50	29 مارچ	قمر تسدیس عطارد	02:48	13 اپریل	قمر تربیع شمس	00:06
25 فروری	قمر تسدیس زہرہ	17:13	14 مارچ	قمر تربیع شمس	15:27	29 مارچ	قمر تسدیس نیپچون	04:33	13 اپریل	قمر تربیع یورانس	16:13
26 فروری	قمر تربیع شمس	16:28	14 مارچ	قمر تربیع عطارد	17:30	29 مارچ	قمر قران زحل	10:00	14 اپریل	قمر تسدیس مریخ	04:13
27 فروری	قمر تربیع نیپچون	08:15	15 مارچ	قمر تسدیس یورانس	03:31	29 مارچ	قمر قران پلوٹو	16:35	15 اپریل	قمر تثلیث شمس	06:38
27 فروری	قمر قران مشتری	19:33	16 مارچ	قمر تربیع نیپچون	07:18	30 مارچ	قمر تثلیث مریخ	05:05	15 اپریل	قمر تثلیث مشتری	05:49
28 فروری	قمر تربیع عطارد	06:10	16 مارچ	قمر مقابلہ زحل	11:24	30 مارچ	قمر تربیع یورانس	09:10	15 اپریل	قمر تثلیث یورانس	18:42
28 فروری	قمر تثلیث یورانس	11:17	16 مارچ	قمر تسدیس مریخ	13:22	31 مارچ	قمر تسدیس شمس	02:53	16 اپریل	قمر تربیع مریخ	08:28
مارچ			16 مارچ	قمر مقابلہ پلوٹو	17:53	اپریل			16 اپریل	قمر مقابلہ نیپچون	20:09
01 مارچ	قمر تثلیث مریخ	07:26	16 مارچ	قمر تثلیث عطارد	17:34	01 اپریل	قمر تسدیس مشتری	08:01	17 اپریل	قمر تثلیث زحل	00:40
01 مارچ	قمر تسدیس شمس	08:09	16 مارچ	قمر تثلیث شمس	23:03	01 اپریل	قمر تربیع مریخ	21:44	17 اپریل	قمر مقابلہ زہرہ	09:29
01 مارچ	قمر قران زحل	23:23	17 مارچ	قمر تربیع یورانس	06:47	01 اپریل	قمر تسدیس یورانس	22:29	17 اپریل	قمر تثلیث پلوٹو	05:10
01 مارچ	قمر تسدیس نیپچون	19:39	18 مارچ	قمر مقابلہ زہرہ	14:27	02 اپریل	قمر قران زہرہ	11:31	17 اپریل	قمر تربیع مشتری	07:03
02 مارچ	قمر قران پلوٹو	08:48	18 مارچ	قمر تربیع مریخ	17:06	03 اپریل	قمر قران عطارد	06:58	17 اپریل	قمر مقابلہ عطارد	16:51
02 مارچ	قمر تربیع یورانس	23:47	18 مارچ	قمر تثلیث مشتری	20:19	03 اپریل	قمر قران نیپچون	06:25	18 اپریل	قمر تثلیث مریخ	11:46
02 مارچ	قمر تسدیس عطارد	21:54	19 مارچ	قمر تثلیث یورانس	07:39	03 اپریل	قمر تسدیس زحل	11:58	19 اپریل	قمر تربیع زحل	01:48
03 مارچ	قمر قران زہرہ	03:03	20 مارچ	قمر مقابلہ نیپچون	09:13	03 اپریل	قمر تسدیس پلوٹو	18:09	19 اپریل	قمر تربیع پلوٹو	06:18
03 مارچ	قمر تربیع مریخ	23:53	20 مارچ	قمر مقابلہ عطارد	13:35	03 اپریل	قمر تربیع مشتری	20:36	19 اپریل	قمر تسدیس مشتری	08:06
04 مارچ	قمر تسدیس مشتری	21:30	20 مارچ	قمر تثلیث زحل	13:15	04 اپریل	قمر تسدیس مریخ	13:16	19 اپریل	قمر مقابلہ شمس	16:12
05 مارچ	قمر تسدیس یورانس	13:05	20 مارچ	قمر تثلیث مریخ	19:10	05 اپریل	قمر قران شمس	13:50	19 اپریل	قمر مقابلہ یورانس	21:35
06 مارچ	قمر تسدیس مریخ	16:26	20 مارچ	قمر تثلیث پلوٹو	19:04	05 اپریل	قمر تربیع زحل	23:01	20 اپریل	قمر تثلیث نیپچون	23:39
06 مارچ	قمر قران شمس	21:04	20 مارچ	قمر تربیع مشتری	20:22	06 اپریل	قمر تثلیث مشتری	07:15	21 اپریل	قمر تسدیس زحل	04:20
06 مارچ	قمر قران نیپچون	21:47	21 مارچ	قمر مقابلہ شمس	06:43	06 اپریل	قمر تربیع پلوٹو	04:51	21 اپریل	قمر تسدیس پلوٹو	09:00
07 مارچ	قمر تسدیس زحل	01:58	22 مارچ	قمر تربیع زحل	13:39	06 اپریل	قمر قران یورانس	21:09	21 اپریل	قمر تثلیث زہرہ	23:19
07 مارچ	قمر تربیع مشتری	10:37	22 مارچ	قمر تثلیث زہرہ	23:10	07 اپریل	قمر تسدیس زہرہ	21:04	22 اپریل	قمر تثلیث عطارد	08:18
07 مارچ	قمر تسدیس پلوٹو	10:41	22 مارچ	قمر تربیع پلوٹو	19:29	08 اپریل	قمر تسدیس نیپچون	02:46	22 اپریل	قمر مقابلہ مریخ	23:35
08 مارچ	قمر قران عطارد	00:08	22 مارچ	قمر تسدیس مشتری	20:58	08 اپریل	قمر تثلیث زحل	07:59	23 اپریل	قمر تربیع نیپچون	05:03
08 مارچ	قمر تسدیس زہرہ	17:29	23 مارچ	قمر مقابلہ یورانس	08:38	08 اپریل	قمر تسدیس عطارد	09:04	23 اپریل	قمر قران مشتری	16:43
09 مارچ	قمر تربیع زحل	13:44	24 مارچ	قمر تثلیث عطارد	12:10	08 اپریل	قمر تثلیث پلوٹو	13:29	24 اپریل	قمر تثلیث یورانس	03:46
09 مارچ	قمر تثلیث مشتری	22:14	24 مارچ	قمر تثلیث نیپچون	11:50	09 اپریل	قمر قران مریخ	13:13	24 اپریل	قمر تثلیث شمس	11:02
09 مارچ	قمر تربیع پلوٹو	21:56	24 مارچ	قمر تسدیس زحل	16:25	10 اپریل	قمر تربیع زہرہ	09:50	24 اپریل	قمر تربیع زہرہ	12:12
10 مارچ	قمر قران یورانس	12:31	24 مارچ	قمر تسدیس پلوٹو	22:30	10 اپریل	قمر تربیع نیپچون	09:58	24 اپریل	قمر تربیع عطارد	23:14
11 مارچ	قمر تربیع زہرہ	09:45	25 مارچ	قمر مقابلہ مریخ	03:37	10 اپریل	قمر تسدیس شمس	15:06	25 اپریل	قمر تسدیس نیپچون	14:22

0323 9997214

مجلس 12/ 19 صفر المظفر چہلم سید الشہداء و گوشہ طالب وسنال ضلع چکوال۔ منجانب سید طاہر حسین شاہ ہمدانی 0333 5164755

تاریخ	نظرات	وقت
25 اپریل	قمر قران زحل	19:33
26 اپریل	قمر قران پلوٹو	00:48
26 اپریل	قمر تربیع یورینس	19:57
27 اپریل	قمر تربیع شمس	03:18
27 اپریل	قمر تسدیس زہرہ	05:58
27 اپریل	قمر تسدیس عطارد	19:35
28 اپریل	قمر تثلیث مریخ	03:10
28 اپریل	قمر تسدیس مشتری	14:44
29 اپریل	قمر تسدیس یورینس	09:02
29 اپریل	قمر تسدیس شمس	21:34
30 اپریل	قمر قران نیپچون	15:33
30 اپریل	قمر تربیع مریخ	19:22
30 اپریل	قمر تسدیس زحل	20:34
مئی		
01 مئی	قمر تربیع مشتری	02:57
01 مئی	قمر تسدیس پلوٹو	01:48
02 مئی	قمر قران زہرہ	19:39
03 مئی	قمر تربیع زحل	07:16
03 مئی	قمر تسدیس مریخ	09:22
03 مئی	قمر قران عطارد	13:47
03 مئی	قمر تثلیث مشتری	13:06
03 مئی	قمر تربیع پلوٹو	12:17
04 مئی	قمر قران یورینس	07:15
05 مئی	قمر قران شمس	03:45
05 مئی	قمر تسدیس نیپچون	11:02
05 مئی	قمر تثلیث زحل	15:22
05 مئی	قمر تثلیث پلوٹو	20:10
07 مئی	قمر تربیع نیپچون	17:15
07 مئی	قمر تسدیس زہرہ	21:35
08 مئی	قمر مقابلہ مشتری	02:10
08 مئی	قمر قران مریخ	04:50
08 مئی	قمر تسدیس عطارد	20:13
08 مئی	قمر تسدیس یورینس	20:06
09 مئی	قمر تثلیث نیپچون	21:55
09 مئی	قمر تسدیس شمس	22:57
10 مئی	قمر مقابلہ زحل	01:44
10 مئی	قمر مقابلہ پلوٹو	06:20
10 مئی	قمر تربیع زہرہ	07:06
11 مئی	قمر تربیع یورینس	00:19
11 مئی	قمر تربیع عطارد	08:33

تاریخ	نظرات	وقت
12 مئی	قمر تثلیث مشتری	09:16
12 مئی	قمر تربیع شمس	06:12
12 مئی	قمر تثلیث زہرہ	15:14
12 مئی	قمر تسدیس مریخ	17:24
13 مئی	قمر تثلیث یورینس	03:33
13 مئی	قمر تثلیث عطارد	19:48
14 مئی	قمر مقابلہ نیپچون	04:14
14 مئی	قمر تثلیث زحل	07:39
14 مئی	قمر تثلیث شمس	12:29
14 مئی	قمر تثلیث پلوٹو	12:12
14 مئی	قمر تربیع مشتری	11:32
14 مئی	قمر تربیع مریخ	22:19
16 مئی	قمر تربیع زحل	10:00
16 مئی	قمر تسدیس مشتری	13:39
16 مئی	قمر تربیع پلوٹو	14:37
17 مئی	قمر تثلیث مریخ	03:18
17 مئی	قمر مقابلہ زہرہ	05:47
17 مئی	قمر مقابلہ یورینس	09:03
18 مئی	قمر تثلیث نیپچون	10:02
18 مئی	قمر تسدیس زحل	13:14
18 مئی	قمر تسدیس پلوٹو	18:04
18 مئی	قمر مقابلہ عطارد	19:26
19 مئی	قمر مقابلہ شمس	02:11
20 مئی	قمر تربیع نیپچون	15:32
20 مئی	قمر قران مشتری	22:05
21 مئی	قمر مقابلہ مریخ	19:35
21 مئی	قمر تثلیث یورینس	20:43
22 مئی	قمر تثلیث زہرہ	03:58
23 مئی	قمر قران زحل	03:22
23 مئی	قمر تسدیس نیپچون	00:14
23 مئی	قمر قران پلوٹو	08:58
24 مئی	قمر تثلیث شمس	03:49
24 مئی	قمر تربیع یورینس	07:17
24 مئی	قمر تثلیث عطارد	11:01
24 مئی	قمر تربیع زہرہ	21:17
25 مئی	قمر تسدیس مشتری	17:51
26 مئی	قمر تربیع شمس	21:34
26 مئی	قمر تسدیس یورینس	20:01
27 مئی	قمر تثلیث مریخ	01:06
27 مئی	قمر تربیع عطارد	13:07

تاریخ	نظرات	وقت
27 مئی	قمر تسدیس زہرہ	16:51
28 مئی	قمر قران نیپچون	00:39
28 مئی	قمر تسدیس زحل	03:21
28 مئی	قمر تربیع مشتری	05:54
28 مئی	قمر تسدیس پلوٹو	09:21
29 مئی	قمر تربیع مریخ	16:30
29 مئی	قمر تسدیس شمس	14:51
30 مئی	قمر تربیع زحل	14:16
30 مئی	قمر تسدیس عطارد	13:03
30 مئی	قمر تثلیث مشتری	16:21
30 مئی	قمر تربیع پلوٹو	20:08
31 مئی	قمر قران یورینس	18:26
جون		
01 جون	قمر تسدیس مریخ	04:49
01 جون	قمر تثلیث زحل	22:12
01 جون	قمر تسدیس نیپچون	20:15
02 جون	قمر قران زہرہ	00:55
02 جون	قمر تثلیث پلوٹو	03:53
03 جون	قمر قران شمس	15:02
04 جون	قمر مقابلہ مشتری	04:34
04 جون	قمر تربیع نیپچون	01:39
04 جون	قمر قران عطارد	20:42
05 جون	قمر تسدیس یورینس	05:36
05 جون	قمر قران مریخ	19:48
06 جون	قمر مقابلہ زحل	06:28
06 جون	قمر تثلیث نیپچون	05:06
06 جون	قمر مقابلہ پلوٹو	12:00
06 جون	قمر تسدیس زہرہ	19:10
07 جون	قمر تربیع یورینس	08:37
08 جون	قمر تسدیس شمس	04:47
08 جون	قمر تثلیث مشتری	09:34
09 جون	قمر تربیع زہرہ	02:23
09 جون	قمر تثلیث یورینس	11:16
09 جون	قمر تسدیس عطارد	16:33
10 جون	قمر تسدیس مریخ	05:45
10 جون	قمر مقابلہ نیپچون	10:17
10 جون	قمر تثلیث زحل	11:12
10 جون	قمر تربیع شمس	10:59
10 جون	قمر تربیع مشتری	11:42
10 جون	قمر تثلیث پلوٹو	17:01

تاریخ	نظرات	وقت
11 جون	قمر تثلیث زہرہ	09:55
12 جون	قمر تربیع عطارد	02:03
12 جون	قمر تربیع مریخ	11:18
12 جون	قمر تربیع زحل	14:11
12 جون	قمر تثلیث شمس	17:57
12 جون	قمر تسدیس مشتری	14:27
12 جون	قمر تربیع پلوٹو	20:15
13 جون	قمر مقابلہ یورینس	18:11
14 جون	قمر تثلیث عطارد	12:33
14 جون	قمر تثلیث مریخ	18:13
14 جون	قمر تثلیث نیپچون	17:53
14 جون	قمر تسدیس زحل	18:21
15 جون	قمر تسدیس پلوٹو	00:46
16 جون	قمر مقابلہ زہرہ	05:23
17 جون	قمر قران مشتری	00:08
17 جون	قمر تربیع نیپچون	00:11
17 جون	قمر مقابلہ شمس	13:31
18 جون	قمر تثلیث یورینس	07:29
19 جون	قمر قران زحل	08:53
19 جون	قمر تسدیس نیپچون	08:59
19 جون	قمر قران پلوٹو	16:17
19 جون	قمر مقابلہ عطارد	16:19
19 جون	قمر مقابلہ مریخ	15:22
20 جون	قمر تربیع یورینس	17:56
21 جون	قمر تثلیث زہرہ	12:42
21 جون	قمر تسدیس مشتری	19:02
22 جون	قمر تثلیث شمس	20:57
23 جون	قمر تسدیس یورینس	06:25
24 جون	قمر قران نیپچون	08:55
24 جون	قمر تربیع زہرہ	08:14
24 جون	قمر تربیع مشتری	07:03
24 جون	قمر تسدیس زحل	08:09
24 جون	قمر تسدیس پلوٹو	16:17
24 جون	قمر تثلیث مریخ	22:22
25 جون	قمر تثلیث عطارد	04:10
25 جون	قمر تربیع شمس	14:46
26 جون	قمر تثلیث مشتری	18:20
26 جون	قمر تربیع زحل	19:38
27 جون	قمر تربیع پلوٹو	03:43
27 جون	قمر تسدیس زہرہ	02:38

کی مجلس عزا شہادت حضرت امام موسیٰ کاظمؑ 24 رجب بعد از مغرب۔ کاظمی ہاؤس B-58 علی پارک سنگھ پورہ باغبانپورہ لاہور۔ منجانب سید انجم رضا کاظمی 0323-8417818

تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت	تاریخ	نظرات	وقت
27 جون	قمر تربیع مریخ	12:51	11 جولائی	قمر تثلیث نیپچون	23:28	27 جولائی	قمر تربیع شمس	19:16	11 اگست	قمر تثلیث مریخ	00:50
27 جون	قمر تربیع عطارد	19:23	11 جولائی	قمر تسدیس زحل	20:41	28 جولائی	قمر مقابلہ مشتری	14:08	11 اگست	قمر تثلیث یورانس	22:37
28 جون	قمر قران یورانس	05:34	12 جولائی	قمر تثلیث شمس	00:33	28 جولائی	قمر تسدیس مریخ	17:45	12 اگست	قمر قران زحل	14:53
28 جون	قمر تسدیس شمس	06:06	12 جولائی	قمر تسدیس پلوٹو	05:28	28 جولائی	قمر تربیع نیپچون	20:24	12 اگست	قمر تسدیس نیپچون	20:58
29 جون	قمر تثلیث زحل	04:20	13 جولائی	قمر تثلیث عطارد	02:32	30 جولائی	قمر تسدیس یورانس	03:37	13 اگست	قمر قران پلوٹو	03:11
29 جون	قمر تسدیس نیپچون	05:38	13 جولائی	قمر تثلیث مریخ	09:09	30 جولائی	قمر مقابلہ زحل	18:57	14 اگست	قمر مقابلہ عطارد	01:33
29 جون	قمر تثلیث پلوٹو	12:08	14 جولائی	قمر قران مشتری	01:11	30 جولائی	قمر تثلیث نیپچون	23:15	14 اگست	قمر تربیع یورانس	09:47
29 جون	قمر تسدیس مریخ	23:38	14 جولائی	قمر تربیع نیپچون	06:30	31 جولائی	قمر مقابلہ پلوٹو	04:27	15 اگست	قمر تسدیس مشتری	01:37
30 جون	قمر تسدیس عطارد	05:51	15 جولائی	قمر تثلیث یورانس	16:08	31 جولائی	قمر قران عطارد	08:32	15 اگست	قمر مقابلہ شمس	17:29
جولائی			16 جولائی	قمر قران زحل	12:18	**اگست**			15 اگست	قمر مقابلہ زہرہ	18:16
01 جولائی	قمر مقابلہ مشتری	08:06	16 جولائی	قمر مقابلہ زہرہ	09:42	01 اگست	قمر قران زہرہ	01:51	16 اگست	قمر مقابلہ مریخ	06:02
01 جولائی	قمر تربیع نیپچون	11:03	16 جولائی	قمر تسدیس نیپچون	15:52	01 اگست	قمر قران شمس	08:12	16 اگست	قمر تسدیس یورانس	22:11
02 جولائی	قمر قران زہرہ	02:48	16 جولائی	قمر قران پلوٹو	22:16	01 اگست	قمر تربیع یورانس	04:54	17 اگست	قمر تربیع مشتری	14:17
02 جولائی	قمر تسدیس یورانس	16:26	17 جولائی	قمر مقابلہ شمس	02:38	01 اگست	قمر تثلیث مشتری	17:53	17 اگست	قمر تسدیس زحل	14:35
03 جولائی	قمر قران شمس	00:16	17 جولائی	قمر مقابلہ عطارد	16:39	02 اگست	قمر قران مریخ	01:48	17 اگست	قمر قران نیپچون	21:08
03 جولائی	قمر مقابلہ زحل	12:01	18 جولائی	قمر تربیع یورانس	02:54	03 اگست	قمر تثلیث یورانس	04:50	18 اگست	قمر تسدیس پلوٹو	03:34
03 جولائی	قمر تثلیث نیپچون	13:40	18 جولائی	قمر مقابلہ مریخ	10:50	03 اگست	قمر تثلیث زحل	19:03	19 اگست	قمر تثلیث عطارد	20:41
03 جولائی	قمر مقابلہ پلوٹو	19:25	18 جولائی	قمر تسدیس مشتری	20:53	03 اگست	قمر تربیع مشتری	17:39	20 اگست	قمر تثلیث مشتری	02:58
04 جولائی	قمر قران مریخ	10:41	20 جولائی	قمر تسدیس یورانس	15:16	03 اگست	قمر مقابلہ نیپچون	23:30	20 اگست	قمر تربیع زحل	02:56
04 جولائی	قمر قران عطارد	14:50	21 جولائی	قمر تربیع مشتری	09:06	04 اگست	قمر تثلیث پلوٹو	04:35	20 اگست	قمر تربیع پلوٹو	15:53
04 جولائی	قمر تربیع یورانس	18:11	21 جولائی	قمر تسدیس زحل	11:28	04 اگست	قمر تسدیس عطارد	09:27	21 اگست	قمر تثلیث شمس	05:01
05 جولائی	قمر تثلیث مشتری	11:24	21 جولائی	قمر قران نیپچون	15:45	05 اگست	قمر تسدیس زہرہ	11:00	21 اگست	قمر تثلیث زہرہ	09:06
06 جولائی	قمر تسدیس زہرہ	15:00	21 جولائی	قمر تثلیث زہرہ	23:20	05 اگست	قمر تسدیس شمس	15:25	21 اگست	قمر تثلیث مریخ	13:33
06 جولائی	قمر تثلیث یورانس	19:24	21 جولائی	قمر تسدیس پلوٹو	22:18	05 اگست	قمر تسدیس مشتری	18:27	21 اگست	قمر قران یورانس	22:33
07 جولائی	قمر تثلیث زحل	14:04	22 جولائی	قمر تثلیث شمس	13:34	05 اگست	قمر تربیع زحل	19:46	22 اگست	قمر تثلیث زحل	13:57
07 جولائی	قمر تربیع مشتری	12:20	22 جولائی	قمر تثلیث عطارد	10:58	06 اگست	قمر تربیع پلوٹو	05:51	22 اگست	قمر تربیع عطارد	18:22
07 جولائی	قمر تسدیس شمس	09:49	23 جولائی	قمر تثلیث مریخ	16:34	06 اگست	قمر تسدیس مریخ	07:26	22 اگست	قمر تسدیس نیپچون	20:23
07 جولائی	قمر مقابلہ نیپچون	16:11	23 جولائی	قمر تثلیث مشتری	21:14	06 اگست	قمر تربیع عطارد	12:36	23 اگست	قمر تثلیث پلوٹو	02:32
07 جولائی	قمر تثلیث پلوٹو	21:50	23 جولائی	قمر تربیع زحل	23:30	07 اگست	قمر مقابلہ یورانس	07:55	23 اگست	قمر تربیع شمس	19:56
08 جولائی	قمر تسدیس عطارد	18:37	24 جولائی	قمر تربیع پلوٹو	10:20	07 اگست	قمر تربیع زہرہ	19:01	24 اگست	قمر تربیع زہرہ	01:17
08 جولائی	قمر تسدیس مریخ	18:09	24 جولائی	قمر تربیع زہرہ	18:12	07 اگست	قمر تربیع شمس	22:31	24 اگست	قمر تربیع مریخ	02:18
08 جولائی	قمر تربیع زہرہ	21:33	24 جولائی	قمر تربیع عطارد	19:48	07 اگست	قمر تسدیس زحل	23:02	24 اگست	قمر مقابلہ مشتری	22:53
09 جولائی	قمر تربیع شمس	15:55	25 جولائی	قمر تربیع شمس	06:18	08 اگست	قمر تثلیث نیپچون	04:15	25 اگست	قمر تربیع نیپچون	04:17
09 جولائی	قمر تربیع زحل	16:22	25 جولائی	قمر قران یورانس	15:16	08 اگست	قمر تربیع مریخ	14:16	25 اگست	قمر تسدیس عطارد	11:58
09 جولائی	قمر تسدیس مشتری	14:29	26 جولائی	قمر تثلیث زحل	09:29	08 اگست	قمر تسدیس پلوٹو	09:53	26 اگست	قمر تسدیس شمس	06:33
10 جولائی	قمر تربیع پلوٹو	00:35	26 جولائی	قمر تربیع مریخ	08:11	08 اگست	قمر تثلیث عطارد	19:58	26 اگست	قمر تسدیس زہرہ	12:44
10 جولائی	قمر تربیع عطارد	21:47	26 جولائی	قمر تسدیس نیپچون	13:59	10 اگست	قمر قران مشتری	04:25	26 اگست	قمر تسدیس مریخ	10:59
11 جولائی	قمر مقابلہ یورانس	01:21	26 جولائی	قمر تثلیث پلوٹو	19:57	10 اگست	قمر تثلیث زہرہ	07:18	26 اگست	قمر تسدیس یورانس	13:27
11 جولائی	قمر تربیع مریخ	00:20	27 جولائی	قمر تسدیس عطارد	02:43	10 اگست	قمر تثلیث شمس	09:39	27 اگست	قمر مقابلہ زحل	02:45
11 جولائی	قمر تثلیث زہرہ	06:29	27 جولائی	قمر تسدیس زہرہ	09:28	10 اگست	قمر تربیع نیپچون	11:11	27 اگست	قمر تثلیث نیپچون	08:28

تاریخ	نظرات	وقت
27 اگست	قمر مقابلہ پلوٹو	13:35
28 اگست	قمر تربیع یورینس	15:29
29 اگست	قمر تثلیث مشتری	05:07
30 اگست	قمر قران عطارد	07:22
30 اگست	قمر قران شمس	15:37
30 اگست	قمر قران مریخ	17:15
30 اگست	قمر تثلیث یورینس	15:09
30 اگست	قمر قران زہرہ	23:13
31 اگست	قمر تثلیث زحل	03:14
31 اگست	قمر تربیع مشتری	04:39
31 اگست	قمر مقابلہ نیپچون	08:35
31 اگست	قمر تثلیث پلوٹو	13:46
	ستمبر	
02 ستمبر	قمر تربیع زحل	02:40
02 ستمبر	قمر تسدیس مشتری	04:24
02 ستمبر	قمر تربیع پلوٹو	13:34
03 ستمبر	قمر مقابلہ یورینس	15:18
03 ستمبر	قمر تسدیس شمس	22:58
03 ستمبر	قمر تسدیس عطارد	22:21
03 ستمبر	قمر تسدیس مریخ	22:12
04 ستمبر	قمر تسدیس زحل	04:18
04 ستمبر	قمر تسدیس زہرہ	09:31
04 ستمبر	قمر تثلیث نیپچون	10:09
04 ستمبر	قمر تسدیس پلوٹو	15:58
06 ستمبر	قمر تربیع شمس	08:10
06 ستمبر	قمر تربیع مریخ	05:49
06 ستمبر	قمر قران مشتری	12:20
06 ستمبر	قمر تربیع عطارد	12:21
06 ستمبر	قمر تربیع نیپچون	15:52
06 ستمبر	قمر تربیع زہرہ	21:03
08 ستمبر	قمر تثلیث یورینس	03:47
08 ستمبر	قمر قران زحل	18:42
08 ستمبر	قمر تثلیث مشتری	17:53
08 ستمبر	قمر تثلیث شمس	22:11
09 ستمبر	قمر تسدیس نیپچون	01:18
09 ستمبر	قمر قران پلوٹو	08:03
09 ستمبر	قمر تثلیث زہرہ	08:02
09 ستمبر	قمر تثلیث مریخ	13:30
10 ستمبر	قمر تربیع یورینس	14:57
11 ستمبر	قمر تسدیس مشتری	10:22
13 ستمبر	قمر تسدیس یورینس	03:27
13 ستمبر	قمر تسدیس زحل	19:04
13 ستمبر	قمر تربیع مشتری	23:35
14 ستمبر	قمر قران نیپچون	01:43
14 ستمبر	قمر مقابلہ مریخ	01:12
14 ستمبر	قمر مقابلہ شمس	09:33
14 ستمبر	قمر تسدیس پلوٹو	08:49
15 ستمبر	قمر مقابلہ زہرہ	04:34
15 ستمبر	قمر مقابلہ عطارد	06:08
16 ستمبر	قمر تربیع زحل	07:29
16 ستمبر	قمر تثلیث مشتری	12:29
16 ستمبر	قمر تربیع پلوٹو	21:03
18 ستمبر	قمر قران یورینس	03:31
18 ستمبر	قمر تثلیث زحل	18:52
19 ستمبر	قمر تسدیس نیپچون	01:02
19 ستمبر	قمر تثلیث مریخ	07:19
19 ستمبر	قمر تثلیث پلوٹو	08:02
19 ستمبر	قمر تثلیث شمس	18:57
20 ستمبر	قمر تثلیث زہرہ	15:50
20 ستمبر	قمر تثلیث عطارد	22:24
21 ستمبر	قمر مقابلہ مشتری	09:54
21 ستمبر	قمر تربیع نیپچون	10:02
21 ستمبر	قمر تربیع مریخ	19:05
22 ستمبر	قمر تربیع شمس	07:41
22 ستمبر	قمر تسدیس یورینس	20:31
23 ستمبر	قمر تربیع زہرہ	04:30
23 ستمبر	قمر مقابلہ زحل	10:38
23 ستمبر	قمر تربیع عطارد	12:23
23 ستمبر	قمر تربیع عطارد	15:55
23 ستمبر	قمر تثلیث نیپچون	22:21
24 ستمبر	قمر مقابلہ پلوٹو	03:05
24 ستمبر	قمر تسدیس مریخ	16:12
25 ستمبر	قمر تسدیس شمس	00:12
25 ستمبر	قمر تربیع یورینس	12:35
25 ستمبر	قمر تسدیس زہرہ	19:21
25 ستمبر	قمر تثلیث مشتری	21:14
27 ستمبر	قمر تسدیس عطارد	00:53
27 ستمبر	قمر تثلیث یورینس	13:50
27 ستمبر	قمر تثلیث زحل	18:21
27 ستمبر	قمر مقابلہ نیپچون	19:45
28 ستمبر	قمر تربیع مشتری	00:20
28 ستمبر	قمر تثلیث پلوٹو	08:58
28 ستمبر	قمر قران مریخ	23:26
29 ستمبر	قمر قران شمس	13:08
29 ستمبر	قمر تربیع زحل	20:38
29 ستمبر	قمر قران زہرہ	23:40
29 ستمبر	قمر تربیع پلوٹو	19:27
30 ستمبر	قمر تسدیس مشتری	07:06
30 ستمبر	قمر مقابلہ یورینس	23:55
	اکتوبر	
01 اکتوبر	قمر تسدیس زحل	13:43
01 اکتوبر	قمر تثلیث نیپچون	18:12
02 اکتوبر	قمر تسدیس پلوٹو	00:45
02 اکتوبر	قمر تسدیس مریخ	14:46
03 اکتوبر	قمر تسدیس شمس	09:42
03 اکتوبر	قمر تربیع نیپچون	22:14
04 اکتوبر	قمر قران مشتری	01:40
04 اکتوبر	قمر تسدیس زہرہ	12:34
04 اکتوبر	قمر تربیع مریخ	23:26
05 اکتوبر	قمر تسدیس عطارد	02:52
05 اکتوبر	قمر تثلیث یورینس	09:07
05 اکتوبر	قمر تربیع شمس	21:47
06 اکتوبر	قمر قران زحل	01:39
06 اکتوبر	قمر تسدیس نیپچون	06:26
06 اکتوبر	قمر قران پلوٹو	14:15
07 اکتوبر	قمر تربیع زہرہ	04:25
07 اکتوبر	قمر تثلیث مریخ	12:43
07 اکتوبر	قمر تربیع عطارد	20:36
07 اکتوبر	قمر تربیع یورینس	19:32
08 اکتوبر	قمر تثلیث شمس	14:20
08 اکتوبر	قمر تسدیس مشتری	23:26
09 اکتوبر	قمر تثلیث زہرہ	23:47
10 اکتوبر	قمر تسدیس یورینس	07:55
10 اکتوبر	قمر تثلیث عطارد	16:49
11 اکتوبر	قمر تسدیس زحل	02:08
11 اکتوبر	قمر قران نیپچون	06:33
11 اکتوبر	قمر تربیع مشتری	13:02
11 اکتوبر	قمر تسدیس پلوٹو	14:55
12 اکتوبر	قمر مقابلہ مریخ	20:43
13 اکتوبر	قمر تربیع زحل	14:36
14 اکتوبر	قمر مقابلہ شمس	02:08
14 اکتوبر	قمر تثلیث مشتری	01:55
14 اکتوبر	قمر تربیع پلوٹو	02:59
15 اکتوبر	قمر قران یورینس	07:29
15 اکتوبر	قمر مقابلہ زہرہ	13:33
16 اکتوبر	قمر تثلیث زحل	01:44
16 اکتوبر	قمر مقابلہ عطارد	05:33
16 اکتوبر	قمر تسدیس نیپچون	05:23
16 اکتوبر	قمر تثلیث پلوٹو	13:37
18 اکتوبر	قمر تثلیث مریخ	00:11
18 اکتوبر	قمر تربیع نیپچون	14:25
18 اکتوبر	قمر مقابلہ مشتری	22:58
19 اکتوبر	قمر تثلیث شمس	07:14
20 اکتوبر	قمر تسدیس یورینس	00:47
20 اکتوبر	قمر تربیع مریخ	10:35
20 اکتوبر	قمر مقابلہ زحل	18:29
20 اکتوبر	قمر تثلیث زہرہ	18:26
20 اکتوبر	قمر تثلیث نیپچون	21:17
21 اکتوبر	قمر مقابلہ پلوٹو	05:07
21 اکتوبر	قمر تثلیث عطارد	07:06
21 اکتوبر	قمر تربیع شمس	17:39
22 اکتوبر	قمر تربیع یورینس	05:56
22 اکتوبر	قمر تسدیس مریخ	17:58
23 اکتوبر	قمر تربیع زہرہ	03:54
23 اکتوبر	قمر تثلیث مشتری	10:41
23 اکتوبر	قمر تربیع عطارد	14:14
24 اکتوبر	قمر تسدیس شمس	00:39
24 اکتوبر	قمر تثلیث یورینس	08:23
25 اکتوبر	قمر مقابلہ نیپچون	03:07
25 اکتوبر	قمر تثلیث زحل	01:05
25 اکتوبر	قمر تثلیث پلوٹو	10:26
25 اکتوبر	قمر تربیع مشتری	12:37
25 اکتوبر	قمر تسدیس زہرہ	10:02
25 اکتوبر	قمر تسدیس عطارد	17:59
27 اکتوبر	قمر قران مریخ	00:48
27 اکتوبر	قمر تربیع زحل	01:32
27 اکتوبر	قمر تربیع پلوٹو	10:38
27 اکتوبر	قمر تسدیس مشتری	13:22
28 اکتوبر	قمر قران شمس	08:38
28 اکتوبر	قمر مقابلہ یورینس	08:58

[illegible] ذریعہ ہے۔ (حضرت علی علیہ السلام)

تاریخ	نظرات	وقت
29 اکتوبر	قمر تثلیث نیپچون	03:52
29 اکتوبر	قمر تسدیس زحل	02:19
29 اکتوبر	قمر تسدیس پلوٹو	11:32
29 اکتوبر	قمر قران عطارد	22:34
29 اکتوبر	قمر قران زہرہ	20:14
31 اکتوبر	قمر تربیع نیپچون	06:49
31 اکتوبر	قمر تسدیس مریخ	09:10
31 اکتوبر	قمر قران مشتری	19:29
	نومبر	
01 نومبر	قمر تثلیث یورانس	15:46
02 نومبر	قمر تسدیس شمس	00:21
02 نومبر	قمر قران زحل	12:29
02 نومبر	قمر تسدیس نیپچون	13:34
02 نومبر	قمر تربیع مریخ	19:11
02 نومبر	قمر قران پلوٹو	22:39
03 نومبر	قمر تسدیس عطارد	10:46
03 نومبر	قمر تسدیس زہرہ	20:42
04 نومبر	قمر تربیع یورانس	00:50
04 نومبر	قمر تربیع شمس	15:23
05 نومبر	قمر تثلیث مریخ	09:28
05 نومبر	قمر تسدیس مشتری	16:28
05 نومبر	قمر تربیع عطارد	19:37
06 نومبر	قمر تسدیس یورانس	12:43
06 نومبر	قمر تربیع زہرہ	15:41
07 نومبر	قمر تثلیث شمس	09:25
07 نومبر	قمر قران نیپچون	12:37
07 نومبر	قمر تسدیس زحل	12:18
07 نومبر	قمر تسدیس پلوٹو	22:32
08 نومبر	قمر تثلیث عطارد	03:52
08 نومبر	قمر تربیع مشتری	06:12
09 نومبر	قمر تثلیث زہرہ	11:15
10 نومبر	قمر تربیع زحل	00:55
10 نومبر	قمر تربیع پلوٹو	10:37
10 نومبر	قمر مقابلہ مریخ	16:58
10 نومبر	قمر تثلیث مشتری	19:00
11 نومبر	قمر قران یورانس	12:10
12 نومبر	قمر تثلیث زحل	11:44
12 نومبر	قمر تسدیس نیپچون	11:11
12 نومبر	قمر مقابلہ شمس	18:34
12 نومبر	قمر مقابلہ عطارد	14:51
12 نومبر	قمر تثلیث پلوٹو	20:48
14 نومبر	قمر مقابلہ زہرہ	19:16
14 نومبر	قمر تربیع نیپچون	19:32
15 نومبر	قمر مقابلہ مشتری	14:24
15 نومبر	قمر تثلیث مریخ	16:40
16 نومبر	قمر تسدیس یورانس	04:16
16 نومبر	قمر تثلیث عطارد	20:08
17 نومبر	قمر مقابلہ زحل	03:18
17 نومبر	قمر تثلیث نیپچون	02:02
17 نومبر	قمر مقابلہ پلوٹو	11:15
17 نومبر	قمر تثلیث شمس	17:53
18 نومبر	قمر تربیع مریخ	01:14
18 نومبر	قمر تربیع یورانس	09:35
18 نومبر	قمر تربیع عطارد	23:53
19 نومبر	قمر تثلیث زہرہ	17:04
20 نومبر	قمر تثلیث مشتری	02:06
20 نومبر	قمر تربیع شمس	02:11
20 نومبر	قمر تسدیس مریخ	07:48
20 نومبر	قمر تثلیث یورانس	13:12
21 نومبر	قمر تسدیس عطارد	02:32
21 نومبر	قمر مقابلہ نیپچون	09:51
21 نومبر	قمر تثلیث زحل	11:43
21 نومبر	قمر تثلیث پلوٹو	18:42
22 نومبر	قمر تربیع زہرہ	00:39
22 نومبر	قمر تربیع مشتری	05:25
22 نومبر	قمر تسدیس شمس	08:31
23 نومبر	قمر تربیع زحل	13:53
23 نومبر	قمر تربیع پلوٹو	20:32
24 نومبر	قمر تسدیس زہرہ	07:00
24 نومبر	قمر تسدیس مشتری	07:49
24 نومبر	قمر قران مریخ	16:36
24 نومبر	قمر مقابلہ یورانس	16:51
25 نومبر	قمر قران عطارد	08:50
25 نومبر	قمر تثلیث نیپچون	13:27
25 نومبر	قمر تسدیس زحل	15:59
25 نومبر	قمر تسدیس پلوٹو	22:30
26 نومبر	قمر قران شمس	20:05
27 نومبر	قمر تربیع نیپچون	16:37
28 نومبر	قمر قران مشتری	15:50
28 نومبر	قمر قران زہرہ	23:43
28 نومبر	قمر تثلیث یورانس	23:41
29 نومبر	قمر تسدیس مریخ	05:06
29 نومبر	قمر تسدیس نیپچون	22:39
30 نومبر	قمر قران زحل	02:17
30 نومبر	قمر تسدیس عطارد	01:30
30 نومبر	قمر قران پلوٹو	08:57
	دسمبر	
01 دسمبر	قمر تربیع یورانس	07:38
01 دسمبر	قمر تربیع مریخ	16:43
01 دسمبر	قمر تسدیس شمس	18:43
02 دسمبر	قمر تربیع عطارد	17:27
03 دسمبر	قمر تسدیس مشتری	12:25
03 دسمبر	قمر تسدیس یورانس	18:43
04 دسمبر	قمر تثلیث مریخ	07:50
04 دسمبر	قمر تسدیس زہرہ	08:26
04 دسمبر	قمر تربیع شمس	11:58
04 دسمبر	قمر قران نیپچون	20:19
05 دسمبر	قمر تسدیس زحل	01:14
05 دسمبر	قمر تسدیس پلوٹو	07:41
05 دسمبر	قمر تثلیث عطارد	13:15
06 دسمبر	قمر تربیع مشتری	02:09
07 دسمبر	قمر تربیع زہرہ	03:57
07 دسمبر	قمر تثلیث شمس	06:04
07 دسمبر	قمر تربیع زحل	14:05
07 دسمبر	قمر تربیع پلوٹو	20:01
08 دسمبر	قمر قران یورانس	18:34
08 دسمبر	قمر تثلیث مشتری	14:58
09 دسمبر	قمر مقابلہ مریخ	14:10
09 دسمبر	قمر تثلیث زہرہ	21:07
09 دسمبر	قمر تسدیس نیپچون	19:20
10 دسمبر	قمر تثلیث زحل	00:54
10 دسمبر	قمر تثلیث پلوٹو	06:13
11 دسمبر	قمر مقابلہ عطارد	01:43
12 دسمبر	قمر تربیع نیپچون	03:11
12 دسمبر	قمر مقابلہ شمس	10:12
13 دسمبر	قمر مقابلہ مشتری	08:33
13 دسمبر	قمر تسدیس یورانس	09:43
14 دسمبر	قمر تثلیث مریخ	09:25
14 دسمبر	قمر تثلیث نیپچون	08:37
14 دسمبر	قمر مقابلہ زحل	14:32
14 دسمبر	قمر مقابلہ پلوٹو	18:47
14 دسمبر	قمر مقابلہ زہرہ	20:56
15	قمر تربیع یورانس	14:02
16	قمر تثلیث عطارد	01:18
16	قمر تربیع مریخ	15:46
17	قمر تثلیث شمس	03:10
17	قمر تثلیث مشتری	17:56
17	قمر تثلیث یورانس	17:12
18	قمر تربیع عطارد	10:29
18	قمر مقابلہ نیپچون	15:29
18	قمر تثلیث زحل	21:56
18	قمر تسدیس مریخ	21:14
19	قمر تثلیث پلوٹو	01:29
19	قمر تثلیث زہرہ	13:07
19	قمر تربیع شمس	09:57
19	قمر تربیع مشتری	21:34
20	قمر تسدیس عطارد	19:22
21	قمر تربیع زحل	01:08
21	قمر تربیع پلوٹو	04:24
21	قمر تسدیس شمس	16:45
21	قمر مقابلہ یورانس	22:46
21	قمر تربیع زہرہ	20:51
22	قمر تسدیس مشتری	01:20
22	قمر تثلیث نیپچون	21:32
23	قمر قران مریخ	08:27
23	قمر تسدیس زحل	04:51
23	قمر تسدیس پلوٹو	07:51
24	قمر تسدیس زہرہ	05:37
25	قمر تربیع نیپچون	01:56
25	قمر قران عطارد	16:18
26	قمر تثلیث یورانس	07:45
26	قمر قران شمس	10:13
26	قمر قران مشتری	12:29
27	قمر تسدیس نیپچون	08:23
27	قمر قران زحل	17:08
27	قمر قران پلوٹو	19:42
28	قمر تسدیس مریخ	02:02
28	قمر تربیع یورانس	15:32
29	قمر قران زہرہ	07:07
30	قمر تربیع مریخ	15:24
31	قمر تسدیس عطارد	01:52
31	قمر تسدیس یورانس	02:04
31	قمر تسدیس مشتری	09:37
31	قمر تسدیس شمس	15:32

خورشید کتاب گھر چوک زرگراں کوہاٹ 0922517655

انجمن لائبریری ڈاکخانہ شیر کوٹ کوہاٹ

دسترخوان امام حسنؑ وامام حسینؑ ہرسال 22 جمادی الثانی بمقام امام بارگاہ غازی آباد لاہور۔ زیر اہتمام عامل گلفام حسن حسینی

تحفہ امامیہ جمیع حاجات

عامل زاہد حسین جعفری
حسن کالونی سٹریٹ نمبر 10-C خانیوال روڈ ملتان
0333-7865470
0300-6159033

کیمیا گری دولت وغناء، حاجت وحصول روزگار احوال میں آسودگی

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔

یہ نقش سورہ طلاق آیت نمبر ۲، ۳ کا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ سے شَيْءٍ قَدْرًا کا ہے یہ کیمیا گری سے بھی بہتر عمل ہے۔ برائے حصول دولت وختار روکاوٹ ویزہ وملازمت کا نہ ملنا۔ شادی ومقدمہ میں جیت حل مشکلات غرضیکہ کسی بھی حاجت کے لئے مجرب ہے۔ کامیابی کے لئے اپنی مثال آپ ہے اس سے پہلے میں 2010 میں آیت نمبر ۲، ۳ کا وظیفہ دے چکا ہوں بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا کامیابی ہوئی اکثر بزرگان عاملین کاملین حضرات نے اس آیت شریفہ کو اکسیر قرآن کا درجہ دیا ہے اس کے بہت سے عظیم فوائد ہیں۔ اس مجرب عمل کو تین مختلف واسطوں سے مجتہدین کی سندوں سے علامہ باقر مجلسی حسن علی نخودکی آیت اللہ روح اللہ خمینی رضوان اللہ نے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ کسی بھی حاجت کے لیے کامیاب عمل ہے۔ غائب سے رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ جہاں سے وہم وگمان بھی نہ ہوگا۔ دو عدد نقش ساعت مشتری وشمس میں لکھتے ہیں، نحس اکبر اور قمر در عقرب نہ ہو۔ گلے میں لٹکانا ہے۔ دوسرا قرآن پاک میں وسیلہ بنا کر رکھنا ہے۔


قولہ
الحق
الملک
یا میکائیل
ولہ

۱۵۸۷	۱۶۰۱	۱۵۹۷	۱۵۹۴
۱۵۹۸	۱۵۹۳	۱۵۸۸	۱۶۰۰
۱۵۹۲	۱۵۹۵	۱۶۰۳	۱۵۸۹
۱۶۰۲	۱۵۹۰	۱۵۹۱	۱۵۹۶

عمل نمبر1 یہ چالیس دن کا مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ کبھی بھی خطا نہیں جاتا۔ روزانہ چالیس دن تک 139 بار چالیسویں دن 179 بار پڑھیں اس کے بعد وہب العطایا سے اپنی حاجت بیان کریں۔

عمل نمبر2 ہر نماز فریضہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ تک اس کے بعد تسبیحات سیدۃ النساء العالمین خاتون جنت حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھیں تین بار سورۃ اخلاص تین بار سورۃ طلاق آیت نمبر ۲، ۳ کی تلاوت کر کے آسمان کی طرف دم کریں۔ اس کا ذکر کسی سے نہ کریں۔ خالق اکبر سے محمدؐ وآل محمدؐ کے حق کا واسطہ دے کر سریع رضا سے اپنی حاجت طلب کریں۔ انشاء اللہ کامیابی یقینی ہے۔ رزق کے لیے روزانہ ۲۱ بار تلاوت کریں اگر رزق کی زیادہ تنگی ہو تو سو بار تلاوت کریں شب جمعہ اکتالیس بار سورۃ القارعہ سورہ الم نشرح اس کے علاوہ بہت زیادہ تنگی ہو تو روزانہ سورۃ الواقعہ بعد نماز مغربین پڑھیں، گھر والوں کو بھی پڑھنے کی تاکید کریں۔ رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ یہ دعا عرش الٰہی کے خزانوں میں سے ایک ہے۔ بس پڑھنے والا ہی جان سکتا ہے جس کا جی چاہے فائدہ اٹھائے۔

اس آیت شریفہ کے میرے پاس پندرہ عمل یا نسخے موجود ہیں، جوابی لفافہ لکھ کر منگوائے جا سکتے ہیں۔ عالم غیب رزاق عالم حلال المشکلات آپ کو وسیع رزق ودولت حاجات اور کامیابی سے نوازے

عمل نمبر3 حاجت و شادی میں کامیابی۔ شادی میں کامیابی: وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ سورۃ طلاق آیت نمبر ۲، ۳ نماز مغربین کے بعد دو رکعت نماز نفل برائے حاجت پڑھنی ہے۔ الحمد شریف کے بعد دس بار وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ سے حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ تک دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد دس بار وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ سے شَيْءٍ قَدْرًا تک سلام کے فوری بعد ایک سو بار سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ایک سو بار سجدے میں جا کر اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ 70 بار پڑھیں گیارہ بار درود پاک پڑھیں اللہ بے نیاز خالق سے اپنی حاجت بیان کریں۔

دعاء برائے شفائے کاملہ یہ دعا امیر کائنات ابوالائمہ حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے۔ اس دعا کو روزانہ تین مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاء اللہ زندگی میں کبھی بیمار نہ ہوگا۔ اور بیمار کو شفاء ملے گی۔ دعا یہ

گیارواں سالانہ جشن صادقین (ظہور مولا مصطفیٰ ومولا جعفر صادق) ربیع الاول کا تیسرا اتوار 11 بجے دن بمقام بخاری ہاؤس گوہڑہ سیداں اسلام آباد۔ سید احمد علی شاہ بخاری 0316-5147172

34 ویں سالانہ مجلس عزا جلوس وماتم 23 محرم گوجراں سیدہ اسلام آباد۔ صبح 9 تا رات 9 بجے۔ سید مسعود الحسن ایڈووکیٹ 0300-9550871

ہے اول آخر درود پاک تین بار بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

اَللّٰہُ قَدِیْمٌ اَزَلِیٌّ یَزِیْلُ الْعِلَلَ وَھُوَ قَائِمٌ اَزَلِیٌّ بِالْاَزَلِیَّۃِ لَمْ یَزَلْ وَلَا یَزَالُ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ

از (تعقیبات نماز افتخار بک ڈپو لاہور۔)

حج بیت اللہ اور زیارات نصیب ہو

۲۱۱	۲۰۴	۲۰۹
۲۰۶	۲۰۸	۲۱۰
۲۰۷	۲۱۲	۲۰۵

حج بیت اللہ اور زیارات معصومین کی ہر مسلمان مومن کی خواہش ہوتی ہے۔ جو شخص اس نقش کو بازو پر باندھے اور نماز روزہ کا پابند ہو۔ کریم اللہ اس کو اسی سال حج یا زیارات معصومین سے سرفراز فرمائے گا۔ اور دعا سید الشہداء و شہید اعظم حضرت امام حسین پڑھتا رہے جو کہ تحفۃ العوام میں درج ہے۔ دعا منگوائی جا سکتی ہے۔

بیٹیوں کی بخت کشائی بند لیکھ کھولنا

دوبارہ حسب منشاء فرمائش پر یہ عمل پیغمبر اعظم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کالی کملی کے فرمان کے مطابق جن بچے بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی والدین سخت پریشان ہوں۔ کسی وجہ سے بندش ہو یا کسی نے بغض و عناد کی وجہ سے یا جادو ٹونہ سے بندش لگا دی ہو تو ایسے میں سورہ احزاب کا نقش خالص مشک و زعفران سے ہرن کی جھلی پر بمعہ سورہ الذاریات آیت نمبر 49 لکھیں ورد اور دم شدہ نقش مل سکتا ہے الحمد اللہ یہ نقش آزمودہ اور کامیابی کی کنجی ہے ہرن کی کھال پر نقش ایران مشہد مقدس بازار رضا سے ملحقہ تیسری دوکان سے بھی مل سکتا ہے۔ اگر کوئی زائر ایران جائے تو وہاں سے بھی مل سکتا ہے۔ جب میں نے امامیہ جنتری 2012ء میں دیا تھا تو اس کی ڈیمانڈ اتنی بڑھی کہ وہاں سے بھی ملنا مشکل ہو گیا۔ ہمارے ہاں تیار مل سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ چہاردہ معصومین کے وسیلہ سے ہر مسلمان کے بیٹے اور بیٹیوں کی جلد شادی ہو جائے والدین سرخرو ہوں آمین۔

۸۸۸۰۷	۸۸۸۲۰	۸۸۸۱۷	۸۸۸۱۴
۸۸۸۱۸	۸۸۸۱۳	۸۸۸۰۸	۸۸۸۱۹
۸۸۸۱۲	۸۸۸۱۵	۸۸۸۲۲	۸۸۸۰۹
۸۸۸۲۱	۸۸۸۱۰	۸۸۸۱۱	۸۸۸۱۶

حسب منشاء شادی و خاتمہ بندش

۳۰۹۶	۳۱۱۰	۳۱۰۷	۳۱۰۳
۳۱۰۸	۳۱۰۲	۳۰۹۷	۳۱۰۹
۳۱۰۱	۳۱۰۵	۳۱۱۲	۳۰۹۸
۳۱۱۱	۳۰۹۹	۳۱۰۰	۳۱۰۶

جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی والدین سخت پریشان ہوں سورہ الم نشرح لکھ کر اس پر سات بار سورۃ ہذا پڑھ کر دم کریں اور سات بار سورۃ انعام نمبر 6 آیت نمبر 122 لکھیں زعفران سے۔ آیت یہ ہے۔ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ ترجمہ کیا وہ شخص مردہ تھا، پس ہم نے اسے زندہ کیا۔ اس کے بعد 70 بار سورہ الکوثر اور سات بار سورہ انعام آیت نمبر 122 پڑھ کر لڑکی کی پیشانی پر دم کریں۔ بند لیکھ کھل جائے گا اور جلد غیب سے شادی کا بندوبست ہو جائے گا۔ والدین کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ نقش ساعت مشتری یا شمس میں لکھیں نحس اکبر اور قمر در عقرب بھی نہ ہو۔

نوٹ: شادی کے لیے ہرن کی کھال پر سورۃ احزاب، سورۃ طہٰ، سورۃ الکوثر کا نقش اولاد نرینہ کے لیے سورۃ فجر کا نقش دستیاب ہے۔

آپ کی دعاؤں کا طالب: عامل زاہد حسین جعفری ملتان

الرضا میرج سنٹر ملتان

(سابقہ شریکۃ الحسین میرج سنٹر)

شیعہ امامیہ اثناء عشری، سنی سید اور اہل سنت کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹر، انجینئر، آفیسر، زمیندار، بزنس مین، ملٹری آفیسر، اندرون و بیرون ممالک نیشنلٹی ہولڈر، سیکنڈ وائف رشتے میرج ہر ذات ہم پلہ با اعتماد رشتے کروائے جاتے ہیں۔

دولت و رزق کے لیے

لوح مشتری، نقش نوروز اور رزق کے لیے شیر کی کھال پر نقش دستیاب ہیں۔

بچے، بچیوں کی شادی میں رکاوٹ

دور کرنے کے لیے خاص مشک و زعفران سے ہرن کی کھال پر سورۃ احزاب، سورۃ کوثر، سورۃ طہٰ اور اولاد کے لیے سورۃ فجر کا آزمودہ نقش دستیاب ہے۔

رکاوٹ شادی و کاروبار

بندش شادی و کاروبار، سعودی کی ویزہ اور ملازمت، ویزہ میں رکاوٹ دور کرنے کے لیے چاندی پر شرف زحل اور لوح تسخیر اور نقوش دستیاب ہیں۔

عامل زاہد حسین جعفری 0333-7865470
0300-6159033 رحمٰن کالونی سٹریٹ نمبر 10-C [illegible] روڈ ملتان

0300-7483512 [illegible]

سورۂ یٰسٓ باعث تسکین المومنین

سید علی رضا رضوی
دھنی سادات تحصیل کھاریاں ضلع گجرات
0333-7351212
0300-5411734

گذشتہ سالوں سے امامیہ جنتری کے توسط سے مومنین و مومنات کیلئے آسان سے آسان عمل لکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیونکہ ہر عمل ہر بندے کیلئے نہیں ہوتا، اور بعض سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ عمل کیسے اور کب کیا جائے۔ اس لیے اکثر شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم نے عمل کیا افاقہ نہیں ہوا۔ اس لیے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آئمہ معصومین علیہم السلام کے فرامین کے مطابق آسان سے آسان عمل مومنین کیلئے لکھوں جو کہ جتنا کرنے میں آسان ہو اتنا ہی حاجت روائی میں بھی اکسیر ہو۔ سورۂ یسین قرآن کا دل ہے، امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنے بچوں کو سورۂ یسین حفظ کرنے اور پڑھنے کی عادت ڈالو کیونکہ یہ قرآن کی خوشبو ہے۔ اس دفعہ سورۂ یسین روحانی دسترخوان کے طور پر مومنین کیلئے پیش کر رہا ہوں۔

حفاظت کے لیے

سورۂ یسین کا 7 دن کا عمل ہے۔ روزانہ جو بندہ سورت یسین کو زعفران سے لکھے اور پانی میں ڈال دے اور وہ پانی پیے اس کی برکت سے وہ جو چیز بھی چاہے گا یاد کرنا ذہن کھل جائے گا۔ جو سنے گا وہ یاد ہوگا، جس چیز کی طرف نظر کرے گا اس کا غلبہ ہو جائے گا، لوگوں کے نزدیک عزت اور مرتبہ میں اضافہ ہوگا، ہر قسم کے جادو، حسد، دکھ، جنات، پریشانیاں، آسیب، بندش ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ پانی اس عورت کو دیا جائے جس کی اولاد نہ ہو تو بفضل خدا کرم ہوگا۔ (روزانہ زعفران سے لکھنی ہے اور روزانہ پینا ہے سات دن تک)

ختم سورہ یسین

یہ 40 دن کا عمل ہے شرط یہ ہے کہ عمل کے دوران اپنے واجبات کی ادائیگی کرنا ہوگی گناہان سے اجتناب کرنا ہوگا ظاہر و باطن طاہر ہونا پڑے گا۔ یہ عمل نوچندی جمعرات کو شروع کرنا ہے چالیس دن تک۔ دو رکعت نماز حاجت پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی اور اس کے بعد تین دفعہ سورۂ توحید، نماز ختم کرنے کے بعد 730 دفعہ کہنا ہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پھر سورۂ یسین پڑھنا ہے جب اس لفظ پر آئی (مبین) دایاں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے اور کہنا ہے۔

اللھم بحق سورت یسین اقضی حاجتی اس کے بعد اپنی دعا مانگنی ہے اور پھر تین دفعہ کہنا ہے اللھم فرج یامفرج المحسنین پھر آخر تک سورۂ یسین پڑھنا ہے، لیکن یہ عمل متواتر چالیس دن کرنا ہے۔ جب چالیس دن پورے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی

رزق کے خزانہ کے لیے

سورۂ یسین ایک ہفتہ لگاتار روزانہ تین دفعہ پڑھنی ہے۔ اور یہ عمل جمعرات سے شروع کرنا ہے اور اگلے بدھ تک تین دفعہ روزانہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے دوران کسی سے کلام نہیں کرنا، اور ایک ہی نشست اور ایک ہی وقت میں پڑھنا ہے، ہر روز تین دفعہ پڑھنے کے بعد یہ دعا آخر میں لازمی پڑھنی ہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وھو رب العرش العظیم. ماشاءاللہ کان وما لم یشا لم یکن. اشھد ان اللہ علی کل شی قدیر. و ان اللہ قد احاط بکل شیی علما. اللھم انی اعوذبک من شر نفسی ومن شر کل دابتہ انت آخذ بناصیتھا ان ربی صراط مستقیم.

بیماریوں سے نجات

امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر کسی بندے کو بواسیر ہو اور مرض سے شفا نہ مل رہی ہو تو سورۂ یسین کو شہد سے لکھ کر پانی میں ڈال دے اور وہ پانی پینے کیلئے استعمال کرے۔ انشاءاللہ بواسیر ختم ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کو چنبل یا پھلبہری ہو تو وہ بندہ کسی بڑے برتن میں شہد سے سورۂ یسین کو لکھے اور دھو کر وہ پانی استعمال کرے انشاءاللہ شفا ہوگی۔ کوئی بندہ ایسے مرض کا شکار ہو کہ طبیب عاجز آ جائیں تو وہ سورۂ یسین کی آیت نمبر 9 انگوٹھی پر لکھوائے اور وہ انگوٹھی بارش کے پانی میں ڈال دے، پھر اس پانی کو استعمال کرے مرض ختم ہو جائے گی۔

روحانی علاج، فقہی مسائل، استخارہ اور معمولات زندگی کو آسان بنانے کے لیے رابطہ کریں۔ مولانا فیاض حسین جعفری سرپرست ادارہ درس عمل لاہور (شعبہ شادی) 0300-4344139

جشن شہنشاہ کربلا و سلطان وفا ماہ شعبان کا پہلا ہفتہ بمقام شیخ کالونی جی ٹی روڈ گوجرانوالہ۔ منجانب: سید توقیر حسین شیرازی ● سالانہ مجلس عزا 2 اور 3 رجب کی درمیانی شب امام بارگاہ قصر خدیجۃ الکبریٰ بمقام شرقپور شریف

گھریلو ناچاقی

تحریر ماہ نور فاطمہ
(لاہور)
0307-2102288
0333-4194017

قارئین امامیہ جنتری السلام علیکم! امسال امامیہ جنتری کے پلیٹ فارم سے گھریلو ناچاقی کی زد میں آ کر بے سکونی کے عالم میں زندگی گزارنے والے خواتین و حضرات کے لیے اپنے مجرب اور آزمودہ عملیات لیکر حاضر خدمت ہوں اور پر امید ہوں کہ گھریلو لڑائی جھگڑوں اور خاندانی رنجشوں سے تنگ بہن بھائی ان سے بھرپور فائدہ حاصل کریں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ہم سب کو تمام دنیاوی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے اور ہمیں شر شیطان اور شر انسان سے پناہ دے اور ہمیں پیار و محبت اور اخلاق و بھائی چارے اور امن کیساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالق دو جہاں بانی ادارہ امامیہ جنتری آغا نثار احمد مرحوم کو غریق رحمت کرے۔ آمین!

معزز قارئین کرام آج کل ہم جس نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں اس میں ذہنی سکون ناپید ہو کر رہ گیا ہے ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے معاشرہ مکمل طور پر مادیت پرستی میں کھو چکا ہے۔ اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر ہم مغربی دنیا کی اندھا دھند تقلید کر رہے ہیں، امن کی فاختائیں مقید ہو چکی ہیں مظلوموں اور غریبوں پر ظلم و زیادتی معمول، ناانصافی عروج پر ہے غیر تو غیر اپنے رشتے بھی حسد اور لالچ کے پجاری نظر آتے ہیں، بزرگوں اور بڑوں کی عزت کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے، بے حیائی اور بے پردگی بڑھ چکی ہے لڑکیاں لو (love) میرج کے نام پر خاندان کی عزت خاک میں ملا رہی ہیں جبکہ لڑکے غلط سوسائٹی کی بھینٹ چڑھ کر اپنے والدین کی عزت اچھال رہے ہیں یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں جنہیں کوئی سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں اور یہی گھریلو ناچاقی کی بنیادی وجوہات ہیں جن کی لپیٹ میں آ کر رشتوں میں دراڑیں پڑتی جا رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق آجکل تقریباً ہر دوسرا گھرانہ کسی نہ کسی وجہ سے گھریلو ناچاقی کا شکار ہے جسکی وجہ سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں اور گھر اجڑ رہے ہیں اگر ہم اپنے اردگرد ماحول پر نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ کہیں شوہر کو بیوی سے شکایت ہے تو کہیں بیوی شوہر سے شکوہ کناں ہے کہیں والدین اپنی نافرمان اولاد سے ناراض ہیں تو کہیں بھائی اپنے حقیقی بھائی کی جان کے درپے ہے تو کہیں بہنوں کو اپنے ماں جائے کے ساتھ اختلاف ہے کسی جگہ ہمسایہ دار آپس میں دست و گریبان ہیں تو کسی جگہ رشتہ دار اور عزیز و اقارب کے درمیان رنجشیں ہیں گھریلو ناچاقی کی ایک مین اور بنیادی وجہ جادو بھی ہے غرض گھریلو ناچاقی کسی نہ کسی طرح ظہور پذیر ہوتی رہتی ہے۔

عملیات پیش خدمت ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں۔ یاد رہے بغیر اجازت عمل موثر نہیں ہوگا۔ جلالی جمالی پرہیز لازمی ہے

عمل نمبر 1 اگر کسی گھر میں جادو وغیرہ کی وجہ سے ناچاقی ہو گئی ہو تو گھر کے مکین شرینی لیکر اس لاتعداد مرتبہ **اَلْوَدُوْدُ** پڑھ کر ایک دوسرے کو کھلائیں بفضل خدا ناچاقی دور ہوگی۔

عمل نمبر 2 بیوی کی محبت حاصل کرنے کے لیے شوہر زعفران سے سورہ یوسف لکھ کر اپنے بازو پر باندھے اور روزانہ ایک مرتبہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے بہت جلد بیوی مطیع ہوگی۔

عمل نمبر 3 گھریلو ناچاقی کے لیے نہایت ہی سریع التاثیر عمل ہے۔ عمل نوچندی جمعرات کو شروع کریں۔ صبح غسل کرکے خوشبو لگائیں اور نماز فجر ادا کریں نماز سے فراغت کے بعد سیاہ ہرن کی جھلی پر درج ذیل لوح مشک و زعفران سے کندہ کریں اور اسے خوشبو لگا کر اپنے پاس رکھیں اور پھر سبز الائچی 21 عدد لیکر ان پر درج ذیل آیت کریمہ 101 مرتبہ پڑھ کر دم کریں اول و آخر 11-11 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں اور وہ دم شدہ الائچیاں مطلوب کو کھلا دیں ان شاء اللہ بفضل خدا نہ ختم ہونے والی محبت پیدا ہوگی اور ناچاقی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ وہ آیت کریمہ اور نقش درج ذیل ہیں۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

یاودود ۱۱۰ ۷۸۶ ۹۲ یاودود

۱۳۴۸	۱۳۶۱	۱۳۵۸	۱۳۵۵
۱۳۵۹	۱۳۵۴	۱۳۴۹	۱۳۶۰
۱۳۵۳	۱۳۵۶	۱۳۶۳	۱۳۵۰
۱۳۶۲	۱۳۵۱	۱۳۵۲	۱۳۵۷

سالانہ مجلس عزا مورخہ 14 مئی بمقام چک 138 نول چنیوٹ۔ قیصر رضا خان نول 0322-5121272, 0302-5121414

آپ کا صدقہ کیا، کتنا، کب؟

سید ابن مظفر شیرازی
673-3-D-2 گرین ٹاؤن لاہور
0334-4811952
0302-2323319

فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے اکثر احباب کا کہنا ہے صدقہ بھی اکثر دیتے ہیں دکھ اور پریشانیاں ہیں کہ جان ہی نہیں چھوڑتیں تو پھر سوچنا ہوگا کہ صدقہ دینے کے باوجود بلائیں رد کیوں نہیں ہوتیں؟

ہمارے شہر لاہور کے درمیان سے ایک نہر گزرتی ہے جسکے کنارے صدقہ کا گوشت بیچنے والے کھڑے ہوتے ہیں جو چند روپوں کے عوض تھوڑے سے کلیجی کے گوشت کو سر پر سے 7 چکر دے کر کوؤں کو ڈال دیتے ہیں۔ چند یوم قبل میں نہر کے کنارے جا رہا تھا وہاں میں نے دو تین اشخاص کو دست و گریبان دیکھا میں انہیں چھڑوانے کے لیے رک گیا آگے دیکھا تو ماجرہ ہی عجیب تھا مارنے والوں سے میں نے پوچھا اس بیچارے کو کیوں مار رہے ہو؟ مارنے والے نے کہا میں نے اسے 20 روپے دیئے اس نے ایک شاپنگ بیگ میں بند گوشت کو میرے سر سے چکر دے کر نیچے درختوں میں پھینک دیا میں نے دیکھا کہ کوے اس گوشت کے قریب بھی نہیں بھٹکے یہ حیران کن بات تھی کہ گوشت ہو اور کوے اس کے قریب نہ جائیں میں نے آگے بڑھ کر گوشت دیکھا تو حیرت میں ڈوب گیا کیونکہ گوشت والے لفافے میں فوم کے ٹکڑوں پر سرخ رنگ کیا ہوا تھا جو لفافہ میں بند واقعی گوشت لگ رہا تھا۔ اس حیران کن واقعہ پر آپ خود سے سوال کریں کہ واقعی آپکا صدقہ ہو گیا ہے؟ بیسیوں لوگ نہر کنارے کھڑے فوم فروشوں سے اپنا صدقہ دلوا رہے ہوتے ہیں اس واقعہ کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ امامیہ جنتری کے قارئین کو صدقہ دینے کے درست طریقہ سے آگاہ کیا جائے۔ اگر آپکو اپنا ستارہ معلوم ہے تو صدقہ کے لیے آپ پریشان نہ ہونگے اور صدقہ بھی یقیناً لگے گا۔ اگر ستارہ معلوم نہ ہو تو ہم سے بذریعہ فون پوچھ لیں یا کسی بھی عامل سے پوچھ لیں تاکہ حقیقی صدقہ دیکر مطمئن ہو سکیں۔ نیچے ایک جدول دیا جا رہا ہے اگر آپ اسے سمجھ جائیں تو حقیقی صدقہ دینے میں آسانی ہوگی نہ سمجھ آئے تو فون کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ صدقہ جب نکالیں تو اسے فوراً گھر سے باہر کر دیں۔ کوئی مستحق فرد بخوشی صدقہ قبول کرلے تو دے دیں وگرنہ صاف چلتے پانی میں بہا دیں یا قبرستان میں پھینک دیں صدقہ پھینک کر پیچھے مڑ کر ہرگز نہ دیکھیں۔ لیجئے ہم نے اپنے علم اور تحقیق کے مطابق آپ کو صدقہ سے متعلق امور سے آپکو آگاہ کر دیا ہے آپ صدقہ دیکر مطمئن بھی ہونگے اور صدقہ قبول بھی ہوگا ان شاء اللہ ملتمس ہوں کہ اپنی دعاؤں میں قبلہ آغا نثار احمد مرحوم، محترم آغا افتخار حسین صاحب اور آغا علی فرزاد کے علاوہ مجھ سید زادے کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ سپرد امام زمانہ سید ابن مظفر شیرازی

برج	ستارہ	صدقہ	کتنا	وقت
اسد	شمس	گندم، کپڑا سرخ، کپڑا سنہری، دال چنا، مسور، کالا گڑ، زندہ جانور، گوشت	حسب توفیق	اتوار کے دن بوقت طلوع
سرطان	قمر	سفید میٹھی کھیر، دہی، چاندی، انڈے، آٹا، چاول، جانور سفید، کپڑا سفید، نقد سکے	حسب توفیق	پیر کے دن بوقت شام
جوزا و سنبلہ	عطارد	مونگ ثابت، کپڑا سبز، گائے کا گھی، فیروزہ، پرندوں کا گوشت	مقدار 5	بروز بدھ 2 گھنٹے بعد طلوع
ثور و میزان	زہرہ	سفید کھیر، کپڑا سفید، کپڑا سرخ، چاندی، دہی، انار دانہ، آٹا، انڈے، چاول، گوشت، سفید جانور	مقدار 6	بروز جمعہ بوقت طلوع آفتاب
حمل و عقرب	مریخ	گندم، کالا گڑ، دال مسور، بڑا گوشت، کپڑا سرخ، تیل سرسوں، زندہ جانور	مقدار 8	بروز منگل ایک گھنٹہ بعد طلوع
قوس و حوت	مشتری	دال چنا، شکر سرخ، کپڑا سنہری، نمک، نقد رقم، بڑا گوشت، زندہ جانور	مقدار 9	بروز جمعرات بوقت شام
جدی، دلو	زحل	کالے ماش، کالے تل، کالا کپڑا، تیل سرسوں، گوشت، سیاہ جانور	مقدار 11	بروز ہفتہ بوقت 12 بجے دوپہر

لوح تحفظ جان خاص جادو، ٹونہ، تعویذ گنڈا، آسیب، نظر بد سے بچاؤ کے لیے، گولی، چاقو، چھری، اٹیک، کرنٹ، زمینی و آسمانی بجلی سے محفوظ، روڈ ایکسیڈنٹ میں جان کی حفاظت، بہت آزمائش ضروری ہے۔ دعا گو سید ابن مظفر شیرازی۔ 673-3-D-2 گرین ٹاؤن لاہور 0302-2323319, 0336-4811952

سالانہ مجلس عزا برائے خواتین بسلسلہ شہادت امام حسن عسکریؑ 8 ربیع الاول بمقام ایوان حسینؑ F بلاک اوکاڑہ 1 بجے دن۔ منجانب: عظمیٰ مرتضیٰ 0300-4885554

دین و دنیا و آخرت کی مشکلات کا حل قرآن مجید

حاجی عابد حسین جاڑا 0308-5691283

قارئین امامیہ جنتری السلام علیکم! دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام قارئین امامیہ جنتری اور آغا افتخار حسین صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس مرتبہ آپ کی خدمت میں قرآن مجید کا عددی نقش لیکر حاضر ہوا ہوں قرآن مجید ہدایت ہے اور دین دنیا آخرت میں مددگار ہے۔ اگر ہم روزانہ صبح تلاوت کر کے دعا مانگیں تو ہماری دعا قبول ہوتی ہے تمام جائز دنیاوی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اور محمدؐ و آل محمدؐ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یارب العالمین۔

پہلے قرآن مجید کی آیات اور سورتوں کے نقوش کے خواص لکھے گئے ہیں ایک حسرت تھی کہ پورے قرآن مجید کا عددی نقش مبارک تیار کر کے پیش کیا جائے۔ یہ نقش بسم اللہ الرحمٰن الرحیم سے لیکر والناس تک کے اعداد کا ہے مکمل نقش مبارک تیار ہے۔ چال آتشی میں لکھیں۔ کونے والے اعداد 1 سے لیکر 16 تک چال کے ہیں۔ اس نقش مبارک کو قمری ماہ میں شرف قمر مشتری کی ساعت نوچندی جمعرات کی صبح عرق گلاب، زعفران سے تیار کریں جو بھی جائز شرعی حاجت ہو نیچے لکھیں۔ خوشبو سے معطر کر کے چاندی میں مڑھوا کر اپنے پاس رکھیں۔ چاہے گلے میں یا بازو پر باندھ لیں۔ پلاسٹک کور کروا کے پاکٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ خواص اسکے بے شمار ہیں جس کے پاس یہ نقش مبارک ہو گا جمیع خلائق اسکی مسخر ہوگی رزق ملنے کے اسباب غیب سے پیدا ہونگے سفر و حضر میں جملہ آفات سے محفوظ رہے گا۔ تمام جائز شرعی حاجات پوری ہونگی۔ بچے بچیوں کی شادی ہونے میں رکاوٹیں دور ہونے کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے، تمام امراض سے شفایابی، بے گناہ قیدی کی رہائی، گمشدہ مال کی واپسی، سحر و جادو سے محفوظ رہنے کے لیے مجرب ہے۔ گھر میں خیر و برکت اور گھر کی حفاظت کے لیے دفاتر، کاروباری جگہوں کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ اس نقش مبارک کو شیشے میں فریم میں لگا کر آویزاں کریں۔ خداوند کریم تمام مومنین و مومنات کی جائز شرعی حاجات پوری فرمائے کوشش کریں آپ خود تیار کریں اگر نہ کر سکیں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔

نقش مبارک

شمکائیل جبرائیل ططنیائیل

۱۰۳۹۸۱۲۱۳	۱۰۳۹۸۱۲۲۷	۱۰۳۹۸۱۲۲۴	۱۰۳۹۸۱۲۲۱
۱۰۳۹۸۱۲۲۵	۱۰۳۹۸۱۲۲۰	۱۰۳۹۸۱۲۱۵	۱۰۳۹۸۱۲۲۶
۱۰۳۹۸۱۲۱۹	۱۰۳۹۸۱۲۲۲	۱۰۳۹۸۱۲۲۹	۱۰۳۹۸۱۲۱۶
۱۰۳۹۸۱۲۲۸	۱۰۳۹۸۱۲۱۷	۱۰۳۹۸۱۲۱۸	۱۰۳۹۸۱۲۲۳

نام اور والدہ کا نام اپنی حاجت لکھیں ــــــــــــــــــــــــــ

نقطاشائیل میکائیل لوبیائیل

حاجی عابد حسین بمقام و ڈاکخانہ جاڑا تحصیل پہاڑپور ضلع ڈیرہ اسماعیل خان

تخریب کاری و خودکش حملوں سے بچاؤ کیلئے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

ترجمہ اے اللہ ہم تجھے اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں ڈھال بناتے ہیں اور آپ کے ذریعہ ان کے شر و شرارتوں سے پناہ چاہتے ہیں۔

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ ○

ترجمہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز وکیل ہے اے ہمیشہ زندہ رہنے والے تیری رحمت کے ذریعہ فریاد رسی چاہتا ہوں

بس بازار، مسجد، امام بارگاہ میں ورد کرتے رہیں۔

آسمانی آفات و زلزلے سے محفوظ رہنے کی دعا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

إِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُوْلَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ ۚ إِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا (پارہ نمبر ۲۲ سورہ فاطر آیت نمبر ۴۱)

ترجمہ: بیشک خدا ہی سارے آسمان اور زمین کو اپنی جگہ سے ہٹ جانے سے روکے ہوئے ہے اور اگر (فرض کرو کہ) یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو پھر اس کے سوا نہیں کوئی روک نہیں سکتا بیشک وہ بڑا بردبار (اور) بڑا بخشنے والا ہے

(رات کو سونے سے قبل ۲۱ بار پڑھیں اول و آخر درود شریف ۷ بار)

مجلس عزا و ماتم داری بسلسلہ چہلم 15 صفر المظفر 2 بجے بمقام امام بارگاہ آغا طالب علی نمبردار 38 چک دیوار تحصیل وضلع فیصل آباد ● سالانہ مجلس عزا 29 محرم الحرام بمقام قصر امام زمانہ رات 8 بجے تا صبح شرقپور شریف ضلع شیخوپورہ

11ویں سالانہ مجلس عزا 25 محرام الحرام بمطابق چاند بمقام ڈھوک سیداں داخلی سوہاوہ مرزا تحصیل گوجرخان ضلع راولپنڈی شیر شاہ نقوی 0300-5219269

بچوں کے اسلامی نام

قارئین امامیہ جنتری السلام علیکم! بے پناہ شکر ہے خالق کائنات کا جس نے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت کا موقع دیا۔ الحمدللہ گزشتہ سال بہت سارے ملکی وغیر ملکی قارئین اپنی بچیوں کی شادی کے فرض سے ادا ہوگے۔ امسال بھی گزارش ہے کہ جو والدین یا بچیاں شادی کے لیے پریشان ہے یا وہ بہن، بیٹیاں جنکی شادی شدہ زندگی مسائل کا شکار ہے تو وہ ضرور رابطہ کریں۔ ان شاء اللہ مسائل حل ہوں گے دیگر تعلیمی مسائل، روزگار اور اولاد والے مسائل کا شکار ہیں وہ ضرور رابطہ کریں ان شاء اللہ دعا دیں گے۔ اور جن بیٹیوں کی شادی ہوگئی ہے وہ میرے مرحوم والدین، بانی امامیہ جنتری و اہلیہ مرحومہ کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ والسلام

Email: qamarhussain6655@gmail.com 0333-4376657, 03027846655

سید قمر حسین نقوی

مکان نمبر 70/A عطیہ اہلبیت محلہ بیلے والا سٹی لیہ پنجاب

نقشہ ابجد قمری

حروف	ا	ب پ	ج چ	د ڈ	ہ	و	ز	ح	ط	ی ے	ک گ	ل	م	ن
قیمت	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	30	40	50
حروف	س	ع	ف	ص	ق	ر ڑ	ش	ت ٹ	ث	خ	ذ	ض	ظ	غ
قیمت	60	70	80	90	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000

لڑکوں کے نام

نمبر شمار	نام	مطلب	اعداد	لکی نمبر	عنصر
1	رحیم	مہربان، رحم والا	15	6	خاکی
2	رحمٰن	بہت رحم والا	19	1	خاکی
3	محمد	تعریف کیا گیا	20	2	آتشی
4	علی	اونچا، بلند	11	2	خاکی
5	حسن	نیک، خوبصورت	19	1	خاکی
6	حسین	نیک، حسین	20	2	خاکی
7	محمد عباس حیدر	شیر دل، بہادر	51	6	آتشی
8	عکس حسین	مشابہ	35	8	خاکی
9	نقش حسین	صورت	29	2	بادی
10	نعلین عباس	نعلین مولا	37	1	بادی
11	علی اکبر	عظیم ترین	18	9	خاکی
12	علی قاسم	بلند تقسیم والا	23	5	خاکی
13	علی اصغر	اونچا	24	6	خاکی
14	مومن علی	امن دینے والا	30	3	آتشی
15	خاقان علی	سردار، حکمران	28	1	خاکی
16	باب الحسین	جنت کا دروازہ	29	2	بادی
17	منصور حسین	تصویر بنانے والا	41	5	آتشی
18	عبداللہ علی	اللہ کا بندہ علی	36	9	خاکی
19	محمد علی وارث	حقیقی وارث	45	9	آتشی
20	آذر علی	بلند آسمان	19	1	آتشی
21	اثیر حیدر	عالی مرتبہ، بلند	24	6	آتشی
22	اخضر حسن	سبز، ہرا	36	9	آتشی
23	ارحم علی	رحم کرنے والا	26	8	آتشی
24	ادیب حیدر	عقل مند	23	5	آتشی
25	ارزاق حسین	باران رحمت، بارش	32	5	آتشی
26	اشتر علی	بہادر، جری	21	3	آتشی
27	محمد امداد حسین	گواہ، مدد کرنے والا	54	9	آتشی
28	اشہاد علی	شہادت، گواہی	29	2	آتشی
29	کریم کربلا	مولا حسین کا لقب	19	1	آبی
30	امتثال علی	فرمانبردار	27	9	آتشی
31	ابوتراب حیدر	مٹی کا باپ	33	6	آتشی
32	علی باقر	اونچا، لائق	17	8	خاکی
33	بادشاہ حسین	تاجدار، حکمران	36	9	بادی
34	بدر حسین	پورا چاند	28	1	بادی
35	محمد باسط علی	کھولنے والا	49	4	آتشی
36	برہان علی	دلیل، حجت	26	8	بادی
37	بسام حیدر	باغ	28	1	بادی
38	محمد بلال حیدر	فتح مند کامیاب	44	8	آتشی
39	بلاول حسین	فاتح، مقرر	35	8	بادی
40	تاثیر حیدر	نتیجہ، رزلٹ	28	1	بادی
41	تراب علی	مٹی خاک	20	2	بادی
42	تصور عباس	خیال، سوچ	37	1	بادی
43	تقی رضا	پرہیزگار، پارسا	17	8	بادی
44	تنزیل حسین	نازل کیا ہوا	40	4	بادی
45	توقیر حیدر	عزت، وقار	29	2	بادی
46	تیمور علی	فولاد مضبوط	28	1	بادی
47	ثقلین حیدر	نیک خوبیوں والا	30	3	آبی
48	جاذب علی	پرکشش	24	6	آبی
49	جعفر رضا	پاک پاکیزہ	31	4	آبی
50	محمد جواد حیدر	عطا کرنے والا	49	4	آتشی

دو روزہ قدیمی مجلس عزا ۲۷، ۲۸ صفر بمقام مرکزی امام بارگاہ قصر شاہ خراسان بلد سادات کہروڑ پکا۔ بانی سید محمد اصغر علی رضوی ✦ 27 رجب سالانہ مجلس عزا و شبیہ تابوت حضرت امام موسیٰ کاظمؑ۔ بمقام دربار حضرت بری امام مخدوم سید نذر عباس 0322-5141214

گلستان نیوز ایجنسی اخبار مارکیٹ کراچی 0300-2680248
الحسن بک ڈپو مسجد باب العلم ناظم آباد کراچی 021 6626074

50	علی ولی اللہ	اونچا، بلند	33	6	خاکی	66	راغب حسین	خواہش مند	26	8	خاکی	83	شامیر حیدر	خوبصورت جوان	26	8	آتشی
51	حجت رضا	دلیل	26	8	خاکی	67	ریان علی	جنت کا دروازہ	20	2	خاکی	84	محمد ظافر علی	کامیاب	51	6	آتشی
52	حر عباس	آزاد، خودمختار	26	8	خاکی	68	زرتاش حیدر	امیر، دولت مند	32	5	آبی	86	ظفریاب حیدر	فتح پانے والا	38	2	آبی
53	حسن حسین رضا	خوبصورت نیک	50	5	خاکی	69	زریاب علی	دولت والا	24	6	آبی	87	عابد سجاد	سجدہ، عبادت	28	1	خاکی
54	حماد حیدر	تعریف کرنے والا	32	5	خاکی	70	زمن عباس	وقت، زمانہ	32	5	آبی	88	عاتک علی	نیک، سچا	25	7	خاکی
55	حیدر علی	شیر	26	8	خاکی	71	زواہر عباس	پھول۔ روشن	37	1	آبی	89	علی شجران	سایہ دار درخت	25	7	خاکی
56	دانیال حیدر	عدل کرنے والا	30	3	خاکی	72	زرناب حیدر	خالص سونا	32	5	آبی	90	عون محمد	مدد کرنے والا	38	2	خاکی
57	دبیر حسین	عادل۔ منصف	29	2	خاکی	73	سبط الحسن	اولاد	40	4	آبی	91	محمد وجدان حیدر	اللہ تعالیٰ کا نام	54	9	آتشی
58	در شہوار علی	موتی	34	7	خاکی	74	ذریت حسین	نسل، اولاد	34	7	آبی	92	فقیہ حیدر	عالم دین	30	3	آتشی
59	دائم رضا	ہمیشہ سدا	20	2	خاکی	75	سجاد حسن	سجدہ کرنے والا	33	6	آبی	93	قنبر علی	مولا علیؑ کے صحابی	25	7	آبی
60	دست گیر حسین	ہاتھ تھامنے والا	39	3	خاکی	76	سلمان حیدر	ذرہ، ریزہ	34	7	آبی	94	کاظمین حیدر	کفیل	37	1	آبی
61	داراب علی	شان و شوکت والا	21	3	خاکی	77	شاداب حیدر	تروتازہ	26	8	آتشی	95	کرار حیدر	بہادر، جری	22	4	آبی
62	ذاکر حسین	ذکر کرنے والا	32	5	آتشی	78	شبیر حیدر	نیک خو، خوش شکل	23	5	آتشی	96	لسان حیدر	زبان	30	3	خاکی
63	ذی شان حیدر	بڑی شان والا	32	5	آتشی	79	شبیہ حیدر	مشابہ	26	8	آتشی	97	لقا علی	شکل، دیدار	16	7	خاکی
64	ذوالکفل حیدر	کفالت کرنے والا	39	3	آتشی	80	شیمان حسین	غیرت مند	34	7	آتشی	98	محمد متقی	نیک، پارسا	28	1	آتشی
65	محمد رسب علی	حضور کی تلوار	41	5	آتشی	81	شوزب مہدی	قربان ہونے والا	32	5	آتشی	99	محب حسین	محبت کرنے والا	34	7	آتشی
						82	شفاعت حسین	بخشوانے والا	43	7	آتشی	100	محمد محسن رضا	مددگار	54	9	آتشی

لڑکیوں کے نام

1	آمنہ بتول	امن والی	30	3	آتشی	17	بتول زہرا	پاک دامن	30	3	بادی	35	در نجف	نجف کا موتی	22	4	خاکی
2	خدیجہ بتول	نبی پاک کی زوجہ محترمہ	38	2	خاکی	18	باسمہ بتول	خوش طبیعت	33	6	بادی	36	راحمہ بتول	رحم کرنے والی	35	8	خاکی
3	فاطمہ زہرا	بچانے والی	42	6	آتشی	19	پاکیزہ بتول	پاک، باعصمت	33	6	بادی	37	رخشاں بتول	چمکتی، روشن	32	5	خاکی
4	ارم زہرا	جنت	22	4	آتشی	20	پارسا بتول	نیک، پرہیزگار	27	9	بادی	38	رباب زہرا	سفید بادل ساز	22	4	خاکی
5	آیت زہرا	نشانی	21	3	آتشی	21	پارینہ بتول	پرانی، قدیم	31	4	بادی	39	رعنا بتول	خوشنما	30	3	خاکی
6	حجاب زہرا	پردہ	29	2	خاکی	22	تبسم زہرا	مسکراہٹ	31	4	بادی	40	رحیلہ بتول	رہنمائی کرنے والی	33	6	خاکی
7	عینین زہرا	آنکھیں	33	6	خاکی	23	تنزیلہ بتول	نازل کی ہوئی	40	4	بادی	41	رجاء بتول	امید	21	3	خاکی
8	آسیہ بتول	ستون	28	1	آتشی	24	ثروہ بتول	دولت مند	33	6	آبی	42	روازہرا	چادر	22	4	خاکی
9	اجیہ بتول	عالی شان	25	7	آتشی	25	ثمرین زہرا	پھلدار	32	5	آبی	43	رخسار زہرا	عارض، گال	32	5	خاکی
10	آویزہ بتول	زیور، خوشحالی	35	8	آتشی	26	حرمت زہرا	عزت آبرو	32	5	خاکی	44	زہرا بتول	کلی، شگوفہ	30	3	آبی
11	ایجاب زہرا	حامی بھرنا، راضی	23	5	آتشی	27	حنا بتول	مہندی	29	2	خاکی	45	زینب بتول	باکردار عمدہ	30	3	آبی
12	ازرہ بتول	خوشبودار درخت	30	3	آتشی	28	حب بتول	پیار محبت	30	3	خاکی	46	زرتاج زہرا	سونے کا تاج	32	5	آبی
13	امانہ بتول	وفادار	31	4	آتشی	29	حور زہرا	خوبصورت	31	4	خاکی	47	سائرہ بتول	سیر کرنے والی	29	2	آبی
14	اطروبہ بتول	خوشبو	40	4	آتشی	30	حریمہ بتول	حرمت والی	35	8	خاکی	48	سجافہ بتول	حیا، شرم والی	38	2	آبی
15	امیمہ بتول	رہنمائی کرنے والی	30	3	آتشی	31	حرا بتول	عبادت کی جگہ	26	8	خاکی	49	سمن زہرا	چنبیلی کا پھول	30	3	آبی
16	آجیہ بتول	پیغام دینے والی	26	8	آتشی	32	خیر النساء	نیک پارسا	25	7	خاکی	50	سکینہ بتول	آرام، راحت	34	7	آبی
17	ارفعہ بتول	عالی مرتبہ	38	2	آتشی	33	در شہوار	قیمتی موتی	23	5	خاکی	51	شمسہ بتول	چاند	33	6	آتشی
18	امثال زہرا	مثال	29	2	آتشی	34	در ثمین	موتی	21	3	خاکی	52	شہر بانو	خاتون شہر	24	6	آتشی

[illegible] 0302-8769512

ہر جمعرات کو 10 بجے دن زنانہ محفل باب الحوائج بمقام امام بارگاہ باب الحوائج امامیہ کالونی شاہدرہ لاہور۔ سید ارشاد حسین کاظمی

سالانہ قدیمی فرش مجلس عزا 2 صفر تا 6 صفر انتظار گاہ امام العصرؑ عارف منزل غازی عباس چوک علی پور مظفر گڑھ۔ سید محمد ذوالفقار نقوی ● 37 واں سالانہ 2 روزہ عرس میاں حسن علی قادری یکم ربیع الاول۔ عوامی کالونی عقب جنرل ہسپتال لاہور

53	شہوار فاطمہ	شہزادی	44	8	آتشی	69	عاتکہ بتول	شریف، خوشبو	34	7	خاکی	85	قلب زہرا	دل	21	3	آبی
54	شمامہ بتول	خوشبو	32	5	آتشی	70	عطیبا بتول	بلند مرتبہ، عمدہ	33	6	خاکی	86	عکس زینب	مشابہ	30	3	خاکی
55	شہ پارہ	تحفہ	18	9	آتشی	71	عترت زہرا	قرابت دار	32	5	خاکی	87	نقش زہرا	مثل، مثال	24	6	بادی
56	شاہانہ بتول	شہزادی ملکہ	35	8	آتشی	72	غالیہ بتول	خوشبو	26	8	خاکی	88	تمکین زہرا	مرتبہ طاقت	31	4	بادی
57	شفق زہرا	طلوع فجر کی سرخی	27	9	آتشی	73	فضہ بتول	چاندی	36	9	آتشی	89	عاطرہ بتول	خوشبو دار	39	3	خاکی
58	صالحہ بتول	نیک پاک	41	5	بادی	74	فخر زہرا	بزرگی	31	4	آتشی	90	نور العین زہرا	آنکھ کا نور	45	9	بادی
59	صارمہ بتول	دلیر خاتون	36	9	بادی	75	فریال زہرا	نرم و نازک	30	3	آتشی	91	کونین زہرا	دونوں جہاں	34	7	آبی
60	صدف زہرا	سیپ، موتی	36	9	بادی	76	فرحین زہرا	عقل و فہم والی	36	9	آتشی	92	ڈلاچ زہرا	پھول	26	8	خاکی
61	ضوفشاں زہرا	روشن	47	2	بادی	77	فائکہ بتول	بہادر	35	8	آتشی	93	سحاب بتول	ابر، بادل	32	5	آبی
62	طاہرہ بتول	پاک دامن	37	1	آتشی	78	کومل زہرا	نرم و نازک	30	3	آبی	94	مثوب زہرا	ثواب	32	5	آتشی
63	ظل ہما	ہما کا سایہ	22	4	آبی	79	روحا علی	قابل قدر	28	1	خاکی	95	ماہم زہرا	چاندنی	29	2	آتشی
64	علیا بتول	اونچائی، بلندی	27	9	خاکی	80	کنیز زہرا	ملازمہ	30	3	آبی	96	مامونہ بتول	حفاظت میں آئی ہوئی	40	4	آتشی
65	عطیہ بتول	انعام	31	4	خاکی	81	گل رعنا	پھول	20	2	آبی	97	وردہ بتول	گلاب کا پھول	32	5	بادی
66	عالیہ بتول	بہترین عمدہ	34	7	خاکی	82	لبابہ بتول	اہم حصہ	28	1	خاکی	98	وفا بتول	پر خلوص	37	1	بادی
67	علیہا بتول	بلندی	32	5	خاکی	83	مقدسہ زہرا	پاک، پاکیزہ	35	8	آتشی	99	عصمت زہرا	عزت، عظمت	39	3	خاکی
68	عین زہرا	آنکھ	28	1	خاکی	84	مثل زینب	مثال	27	9	آتشی	100	عناب زہرا	خوشبو انگور	30	3	خاکی

برائے حصول علم

عدۃ الداعی میں مذکور ہے کہ اگر بچہ کا دل علم کے حصول میں نہ لگتا ہو تو یہ درج ذیل آیات لکھ کر اسکے گلے میں ڈالیں اور پانی پر پڑھ کر پلائیں تو ذہن و عقل کی تیزی کے لیے مجرب ہے۔

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ○ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ (سورۃ العلق ۱-۵)

ترجمہ اپنے پروردگار کا نام لیکر پڑھو جس نے پیدا کیا اسی نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑی عزت والا ہے جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اسی نے انسان کو وہ باتیں بتائیں جن کو وہ جانتا ہی نہ تھا۔

نومولود کے حالات

- اگر کوئی بچہ اتوار کے دن یا جمعرات کی رات کو پیدا ہو اور اسکی ولادت کی ساعت 1، 2، 3، 6، 8، 9 یا 10 ہو تو بڑے مرتبے والا شان و شوکت اور عزت والا ہوگا۔ امراء اور رؤساء سے تعلقات رکھے گا۔ حکام میں عزت اور مرتبہ پائے گا۔
- اگر کوئی بچہ منگل کے دن یا جمعہ کی رات کو ساعت 2، 3، 6، 8، 9 یا 10 میں پیدا ہو تو نیک کام کرنے والا، فائدہ پہنچانے والا دولت مند اور مشہور والا ہوگا۔
- اگر کوئی بچہ منگل کے دن یا ہفتہ کی رات کو ساعت 1، 5، 6، 8 میں پیدا ہو تو چھوٹی عمر میں قتل ہو جائے گا یا اس پر قتل کا الزام لگے گا۔ ایسے بچے کی پیدائش پر اس پر سے فوراً صدقہ دینا چاہیے تاکہ اسکی بلائیں رد ہو جائیں۔
- اگر کوئی بچہ بدھ کے دن یا اتوار کی رات کو پیدا ہو اور ساعت 1، 4، 6، 8 ہو تو بڑا نیک اور بلند خیالات والا ہو، دولت خوب جمع کرے، بڑا عالم، ہنرمند، حکیم اور تاریخ دان ہو۔ دنیا کا آرام پائے۔
- اگر کوئی بچہ جمعرات کے دن یا پیر کی رات کو پیدا ہو اور ساعت 1، 4، 8، 11 ہو تو بڑا عالم، عقلمند، خوش حال اور جاہ و جلال والا ہو۔ مذہبی کاموں میں بہت دلچسپی لے، معزز و مشہور ہو، صاحب تدبیر اور حکام میں عزت پائے۔
- اگر کوئی بچہ جمعہ کے دن یا منگل کی رات کو پیدا ہو اور ساعت 1، 2، 5، 8، 9، 10 ہو تو دولت والا ہو، سیر و تفریح، کھیل کود، اور تماشے کا شوقین، مذہبی کاموں میں رغبت رکھے گا۔
- اگر کوئی بچہ ہفتہ کے دن یا بدھ کی رات کو پیدا ہو اور ساعت 1، 2، 8، 10 ہو تو نحوست میں مبتلا ہو ممکن ہے کہ زندگی بھی نہ رہے اور اگر زندہ بچ جائے تو ہمیشہ بیمار رہے یا بدکاری کی زندگی بسر کرے۔ ایسے بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اس پر آیات قرآنی دم کرے اور سورۃ اخلاص اور سورۃ قل اعوذ برب الناس پانی پر دم کرکے اس سے غسل دینا چاہیے اور صدقہ بھی اتارنا چاہیے۔

مرتضوی بک ڈپو نزد امام بارگاہ موہنی بازار نواب شاہ

ناد علی نگینہ سنٹر کیفے شیراز چوک نواب شاہ

حصار برائے دفع نحوست سیارگان و دفع بلیات

درویش خضر عباس پیاسی
0333-6474494,0321-7573652

اعمال جلالی کی رجعت سے بچنے کے لیے حصار از حد ضروری ہوتا ہے۔ جنات ارواح اور موکلات کے حملے سے حفاظت کے لیے بھی حصار کرنا ضروری ہے۔

☆ حصار ماحولی یہ ہے کہ بعد نماز عشاء تین مرتبہ آیت الکرسی پڑھکر دونوں ہاتھوں پر دم کرے اور تین مرتبہ دونوں ہاتھوں کو ملائے تو اس رات کو ارواح بد اور بدخوابی سے عامل محفوظ رہے گا۔

☆ جلالی اعمال کی رجعت سے تحفظ کے لیے روزانہ عمل سے قبل یہ حصار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے اپنے تمام جسم پر پھیر لے۔ یہ حصار بدنی ہے۔ یاحلیم یا کریم یاحافظ یاحفیظ یاناصر یااللہ یارقیب یا وکیل یا اللہ یا اللہ یا اللہ بحق کھیعص حم عسق میں نے اپنے آپ کو حرز کیا لا الہ الا اللہ سے میں نے اپنا حصار کیا محمد الرسول اللہ سے۔

جب کافی مضبوط حصار کی ضرورت ہو تو درج ذیل آیت الکرسی یا اسمائے الہٰی عمل سے قبل 3 مرتبہ پڑھ کر انگلی پر دم کرے یا چھری پر دم کر کے اپنے گرد حصار کرے پھر حصار میں داخل ہو کر 3 مرتبہ یہی ورد پڑھکر اپنے اوپر دم کرے۔

اعصمت باللہ العلی العظیم اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم القائم الدائم لاتاخذہ سنۃ ولا نوم حاضر ناظر لہ ما فی السموات و ما فی الارض قادر قدیر علی کل مخلوق من ذالذی یشفع عندہ الا باذنہ کریم رحیم علیم ما بین ایدیھم و ما خلفھم لا خلاف ولا کذاب جبار غفار ستار ولا یحیطون بشئی من علمہ الا بما شاء اللہ الرحمن الرحیم وسع کرسیہ السموات ولا یود حفظھما وھو العلی العظیم حافظ حفیظ رقیب وکیل ناصر یانصیر۔

یہ نقش حضرت علی علیہ السلام سے منسوب ہے تحفظ حادثات، آفات، مصائب اور دفع سحر، جادو، سایہ، جنات، اور نظر بد کے لیے بے مثال ہے اس لوح میں سرخ ڈوری ڈال کر دکان یا مکان میں لٹکائیں۔ اس پر کسی ورد کی ضرورت نہیں۔ نقش کی پشت پر ناد علی صغیر تحریر کریں۔ **ناد علی صغیر**

۷۸۶

۱۶۵۱۱	۱۶۵۲۵	۱۶۵۲۱	۱۶۵۱۸
۱۶۵۲۲	۱۶۵۱۷	۱۶۵۱۲	۱۶۵۲۳
۱۶۵۱۶	۱۶۵۱۹	۱۶۵۲۷	۱۶۵۱۳
۱۶۵۲۶	۱۶۵۱۴	۱۶۵۱۵	۱۶۵۲۰

نَادِ عَلِیًّا مَظْهَرَ الْعَجَائِبِ تَجِدْهُ عَوْنًا لَّكَ فِی النَّوَائِبِ. كُلُّ هَمٍّ وَّغَمٍّ سَيَنْجَلِی بِعَظَمَتِكَ يَا اَللّٰهُ بِنُبُوَّتِكَ يَا مُحَمَّدُ وَبِوِلَايَتِكَ يَا عَلِیُّ يَا عَلِیُّ يَا عَلِیُّ اَدْرِكْنِی العجل الساعۃ الدحا

درویش خضر عباس پیاسی فاضل پور بستی نزد پولیس چوکی ضلع راجن پور (جنوبی پنجاب)

تحفہ عظیم حرز دافع بلیات

نہایت اہتمام کے ساتھ موم جامہ کیا گیا ہے۔ اس تعویذ مبارک میں جوشن کبیر کے علاوہ سورۂ یٰسین، آیت الکرسی، چہار قل، سورۂ مزمل اور ناد علی شامل ہیں۔ ہدیہ -/20 بازو بند -/25

تعویذ حرز جواد (امام تقیؑ) برائے حفاظت -/20 علاوہ ڈاک خرچ

افتخار بک ڈپو مین بازار اسلام پورہ لاہور Ph: 042 37223686

دعا رد بلا

بلاؤں کے دور ہونے کے لیے درج ذیل دعا بعد نماز مغرب روزانہ پڑھیں

يَا اَللّٰهُ يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِیُّ يَا فَاطِمَةُ يَا حَسَنُ يَا حُسَيْنُ يَا صَاحِبَ الزَّمَانِ اَدْرِكْنِی وَلَا تُهْلِكْنِی

اے اللہ، اے محمدؐ، اے علیؑ، اے فاطمہؑ، اے حسنؑ، اے حسینؑ اے زمانے کے سردار میری مدد فرمائیے ورنہ ہلاک ہو جاؤں گا۔

ہر قسم کے امراض کے لیے فی سبیل اللہ رابطہ کریں
حکیم سید وفا عباس۔ شرقپور 0300-4150257,0322-4927620

30،29 صفر المظفر شبیہ ذوالجناح و تابوت امام حسنؑ امام بارگاہ قصر رضا (محلہ رضا آباد) فیصل آباد۔ بانی سید غضنفر عباس ترمذی 0321 6607241

58 سالہ قدیمی جلوس شبیہ ذوالجناح 8 صفر جاگووالا چک (قصور)۔ منتظم سید نوید عباس شاہ 0306 7214512 + شبیہ تابوت شہزادہ علی اکبر بعد اذان فجر بروز عاشور مرکزی امام بارگاہ قصر زینب سانگلہ ہل ضلع ننکانہ صاحب: منجانب واجد علی گردیزی

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ [illegible] الا ان اولیاء اللہ لاخوف علیہم ولاہم یحزنون۔

آپ کے بچوں کا مستقبل اعداد کے آئینے میں

محمد اکمل خان
ماہر علوم مخفی

مدینۃ الروحانیت، جامعہ حسنیہ علیہ السلام، وارڈ 13، کروڑ لعل عیسن ضلع لیہ۔ پنجاب پاکستان 0333-4578467, 0301-4578467

محترم قارئین ان سطور میں والدین کی رہنمائی کے لیے تاریخ پیدائش کے حوالے سے بچوں کے فطری میلانات کو واضح کیا گیا ہے تا کہ ان کی روشنی میں والدین اپنے بچوں کے محفوظ مستقبل کے لیے درست پیشے کا انتخاب کر سکیں۔ ایسا کرنے سے نہ صرف بچے اس فیلڈ میں خوب ترقی کریں گے بلکہ طبعی موزونیت کی بنا پر نہایت دلچسپی اور بھرپور لگن ان کی کامیابی کی ضامن ہوگی۔ یہاں تاریخ پیدائش کے مطابق اعداد کے طبعی رجحان، فطری لگاؤ اور وراثت میں موجود تعمیری صلاحیتوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن کے تحت خوب ترقی اور خوشحالی کا حصول ممکن ہے۔ اگرچہ ہر عدد کا فرد مختلف پیشوں میں کامیاب ہو سکتا ہے مگر اعداد کی طبیعت اور مزاج کے مطابق پیشہ اختیار کرنے سے ذہنی و قلبی سکون اور زندگی میں اعلیٰ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ مزید مفصل معلومات چاہتے ہوں فون پر بات کر سکتے ہیں۔ ان شاء اللہ ایک ترقی یافتہ اور مضبوط قوم بننے کے لیے تمام ہم وطنوں کی درست رہنمائی کی جائے گی۔ نیز سحر و جادو اور لاعلاج امراض کے علاج کے لیے ادارہ ہذا کی کتاب "خزائن شفا" شائع ہو چکی ہے جس کے مطالعے سے ہر شخص اپنا، بچوں اور اپنے عزیز و اقارب کا کامیاب روحانی علاج خود کر سکتا ہے۔ بچوں کے تعلیمی معاملات میں ترقی کے لیے "تعلیم روحانیت اور بچے" امامیہ جنتری 2015ء اور بچوں کی نفسیات اور مزاج کو سمجھنے کے لیے "حروف و اعداد اور بچوں کی نفسیات" امامیہ جنتری 2016ء میں میری تحریریں ملاحظہ فرمائیں۔

1,10,19,28 تاریخ کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے موزوں پیشے

ایسے بچے لیڈر ہوتے ہیں اور کسی بھی ادارے کے سربراہ کے طور پر بہترین خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ نیز ایسے شعبے جن میں لوگوں سے ملنا جلنا ہو زیادہ بہتر ہیں۔ اس کے علاوہ سرجری، الیکٹرانکس، ایڈورٹائزنگ، صحافت، اداکاری اور جیولری کے شعبے میں زیادہ کامیاب ہوں گے۔ ایسے لوگ عموماً ہر تین سال کے بعد اپنا پیشہ تبدیل کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔

2,11,20,29 تاریخ کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے موزوں پیشے

ایسے لوگ تبلیغ اور پیغام امن کے لیے بہت موزوں ہیں۔ سٹوری رائٹر، ٹیچر، آرٹسٹ، لیکچرر، کیمسٹ، ڈینٹسٹ، سرجن اور ایسے تمام کام جن میں زبان دانی کی مہارت ضروری ہے ان کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔

3,12,21,30 تاریخ کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے موزوں پیشے

یہ عدد اعلیٰ مقام اور اونچے عہدے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ اس لیے ایسے لوگ لیڈر، سیاستدان، جج، منسٹر، ایڈمنسٹریٹر، وکیل، ٹیچر، مبلغ، مقرر، رائٹر، ایکٹر، ڈاکٹر اور ایڈورٹائزر کے طور پر زیادہ کامیاب زندگی گزارنے کی فطری صلاحیتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ماتحت کے طور پر ایسے لوگ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور کھل کر اپنی صلاحیتیں نکھار نہیں پاتے۔

4,13,22,31 تاریخ کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے موزوں پیشے

جدت، انقلاب، غور و فکر اور باغیانہ طرز سوچ ایسے لوگوں کے لیے نئے راستے، نئی منزلیں، نئے اہداف پیدا کرتے ہیں۔

تجارت، ٹرانسپورٹ، الیکٹرانکس اور مشینری سے متعلق کام ان کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ انجینئرنگ، انڈسٹری، سائنس، اعداد و شمار، بینکنگ اور تعمیراتی کاموں میں بھی ان کو بہت ترقی حاصل ہوگی۔

5,14,23 تاریخ کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے موزوں پیشے

ایسے لوگ آزاد طبع اور دوسروں سے تعلقات بنانے میں ماہر ہوتے ہیں۔ ان کے لیے وکالت، میڈیسن، بینکنگ، سرجری، اور تمام کلیدی عہدے ان کے لیے بہترین ثابت ہوتے ہیں۔

6,15,24 تاریخ کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے موزوں پیشے

اس عدد کے حامل لوگ گھر، وطن اور انسانیت سے بہت پیار کرتے ہیں۔ انجینئر، ڈیکوریشن، آرکیٹیکٹ، موسیقار، جیولر، ڈیلر، بروکر، کمیشن ایجنٹ، سوئیٹس وغیرہ کے کام ان کے لیے زیادہ مبارک ثابت ہوں گے۔

7,16,25 تاریخ کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے موزوں پیشے

ایسے لوگ اعلیٰ تخیل سے مالا مال ہوتے ہیں اور بلند عزائم رکھتے ہیں۔ سمندری سفر، بیرون ملک سفر، امپورٹ ایکسپورٹ، تجارت، ڈیری پراڈکٹ، فشری، کیمیکل انڈسٹری، دوسری پراڈکٹس، میڈیسن اور سبزی ان کے لیے زیادہ مبارک ہوں گے۔

8,17,26 تاریخ کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے موزوں پیشے

سنجیدگی، محنت، غور وفکر اور عمل ان لوگوں کا خاصہ ہے۔ مذہب، روحانیت، کیمسٹری، فزکس، ریاضی، کوئلہ، ٹمبر انڈسٹریز، کنسٹرکشن، اور ہر قسم ایڈمنسٹریشن میں یہ لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔

9,18,27 تاریخ کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے موزوں پیشے

ایسے لوگ متحرک، جوشیلے اور نہایت پرعزم ہوتے ہیں۔ آرمی، دفاع، سیاست، میڈیکل، بزنس، کیمسٹ، لوہے اور سٹیل کی تجارت میں ایسے لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔

جن لوگوں کو درست تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو تو نام کے اعداد سے کام لیں یا ہم سے رجوع فرمائیں۔ نیز ان سب پیشوں میں کامیابی کے لیے بہتر ہے ہر شخص اپنے نام کے اعداد کے مطابق اسماء الٰہی حاصل کر کے ہمیشہ ان کا ورد کرے۔ نیز ذیل میں تحریر سورہ فتح کی پہلی آیت کا نقش مبارک اپنے پاس رکھنے سے فتح و نصرت، ترقی اور کامیابی کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس نقش کو کسی علم جفر کے ماہر سے آداب عملیات کے تحت سعد اوقات میں تیار کروا کر اس پر 1233 مرتبہ سورہ فتح مبارک کی پہلی آیت انا فتحنا لک فتحا مبینا تلاوت کریں اور اپنے پاس رکھیں۔ روزانہ اس آیت کی ایک تسبیح ورد میں رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ نیز یہ نقش چاندی پر سعد اوقات میں تیار شدہ مدینۃ الروحانیت سے منگوا سکتے ہیں۔



اللھم	صل علی	محمد	وآل محمد
۹۳	۱۲۸	۱۰۷	۲۲۹
۱۲۷	۹۰	۲۳۲	۱۰۸
۲۳۱	۱۰۹	۱۲۹	۹۱



انا فتحنا	لک	فتحا	مبینا
۴۹۰	۱۰۴	۵۹۲	۴۹
۱۰۱	۴۸۷	۵۲	۵۹۳
۵۱	۵۹۴	۱۰۰	۴۸۸

سورۂ اخلاص کا خاص الخاص عمل

دو رکعت نماز پڑھیں ہر رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد 101 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ پھر نماز ختم کر کے سجدہ میں 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں پھر سجدے کے بعد تشہد میں 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ اسی طرح 11 مرتبہ یہ عمل کریں۔ پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں پھر 11 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ 11 منٹ تک رو رو کر آنکھیں پرنم کر کے 11 منٹ تک دعا مانگیں اور اپنے مقصد کی کامیابی کے دعا مانگیں۔ عمل صبح شام کر سکتے ہیں۔ کسی بزرگ سے سنا ہے کہ یہ عمل بزرگ جنات بھی کرتے ہیں۔ مشکل کشائی کا بہترین عمل ہے۔ ہر مومن کو میری طرف سے اجازت ہے۔ سورۃ الحمد اور دعائے کمیل سے شفائے امراض کے لیے رابطہ کریں۔ منجانب: محمد علی کمیلی چک 3/4L تحصیل احمد پور سیال ضلع جھنگ۔ فون 0332-6996581

امامیہ جنتری میں تمام آرٹیکل و اشتہار نیک نیتی سے شائع ہوتے ہیں کسی کے ساتھ لین دین کا ادارہ ذمہ دار نہیں ہو گا

0333-4704756

مظفر برادرز بک سنٹر حیدرآباد تحصیل 0300 7789275
تحصیل بک سٹال منگولہ چوک خیرپور میرس سندھ 0313-2935844

اسم اعظم

جابر علی المعروف شایان علی
0312-5310914, 0302-5243272
محلہ قصر زہرا گلی ذاکر محمد حسین والی جھنگ صدر

اسم اعظم کی تحقیق کے دقیق سلسلہ کو جاری رکھتے ہوئے مزید تحقیق پیش خدمت ہے۔ علم الحروف کے مطابق حروف ابجد قمری کی ترتیب کو اربعہ عناصر میں تقسیم کیا جائے تو جو اسماء سبعہ سیارگان کی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے برآمد ہوتے ہیں وہ موکلان کرسی الٰہی ہیں۔ اور ایک مخصوص مقام تک انہیں رسائی دی گئی ہے جیسا کہ شب معراج سید الانبیا حضرت محمد ﷺ کو جناب جبرائیل معراج کے لیے لے جا رہے تھے تو ایک خاص مقام جسے سدرۃ المنتہیٰ کہا جاتا ہے جب وہاں پہنچے تو پرواز رک گئی یہ اس بات کی واضح دلیل و ثبوت ہے کہ اس مقام سے آگے انہیں اختیار نہیں تھا بعینہ جو اختیار موکلان کرسی الٰہی کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے ان کی کل تعداد 8 ہے۔ آٹھوں نے عرش اٹھاتے وقت یک زبان ہو کر

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ الطَّيِّبِيْنَ

پڑھتا ہے جب ان آٹھ ملائکہ نے یک زبان ہو کر یہ ورد شروع کیا تو عرش الٰہی اس قدر برق رفتاری سے بلند ہوتا چلا گیا کہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ملائکہ عرش کو نہیں اٹھا رہے تھے بلکہ عرش الٰہی ملائکہ کو اٹھائے لیے جا رہا تھا۔ تب پروردگار نے فرمایا کہ اب قیامت تک تم آٹھ ملائکہ نے یہی ورد کرتے رہنا ہے اس کے باعث تمہیں عرش کا وزن محسوس نہ ہوگا۔ یہاں امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ اس واقع میں ہماری اتباع کرنے والوں کے لیے بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے کہ اگر وہ کسی بھی ایسی پریشانی میں مبتلا ہو جس کا بوجھ وہ نہ اٹھا سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ الطَّيِّبِيْنَ

کثرت سے پڑھے تو اس سے پریشانیوں کا بوجھ ایسے ہی اٹھا لیا جائے گا جیسے ملائکہ سے عرش کا بوجھ لیا گیا۔

قارئین: آپ کی دلچسپی کو مدنظر رکھتے ہوئے اس مرتبہ وہ تحقیق پیش کر رہا ہوں اس موضوع کا زینہ ہے گزشتہ کالم میں جس طریقہ سے آپ کو اسم اعظم کے استخراج کا قاعدہ ترتیب صعودی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بتایا تھا بعینہ ایک عبارت آپ کے نام کی استخراج کی جائے گی جس میں آپ نے ترتیب نزولی کو مدنظر رکھنا ہے اور 15 حروف کی ایک عبارت قائم کرنی ہے اس عبارت کے نیچے موکلان کرسی الٰہی کے اسماء بالترتیب ا، ابجد، ہتوزح، طیکل، منسع، فصقرشت، ثخذ، ضظغ کو ساعت زہرہ میں لکھ کر پاس رکھنا ہے اور اپنے نام کے مطابق تحقیق کے رنگ کا انتخاب کرنا ہے اور اس پر

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ الطَّيِّبِيْنَ

کندہ کروا کر اپنے حروف نام مع والدہ سے استخراج شدہ برج کے موافق برج کے طالع میں پہننا ہے اس کی برکت سے فہم و فراست میں اضافہ ہوگا کیسی ہی مشکل ہو جس کے حل ہونے کا امکان معلوم نہ ہوتا ہو وہ حل ہو جائے گی، تعلیم کے میدان میں کامیابی کے آثار پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، جن کی شادیاں التوا کا شکار ہیں ان کی فوری شادی ہو جائے گی، روزگار میں اضافہ ہوگا۔

قاعدہ استخراج برج اپنے حروف نام کے ابجد قمری ملفوظی اعداد لیں ان میں اپنی والدہ کے حروف نام کے اعداد بھی شامل کر لیں اور جمل کو 12 پر تقسیم کر دیں جو باقی رہ جائے وہ آپ کا برج ہوگا۔

جدول ملفوظی اعداد ابجد قمری

حروف	ا	ب پ	ج چ	د ڈ	ہ	و	ز ژ	ح	ط	ے ی	ک گ	ل	م	ن
قیمت	111	3	53	35	6	13	8	9	10	11	101	71	90	106
حروف	س	ع	ف	ص	ق	ر ڑ	ش	ت ٹ	ث	خ	ذ	ض	ظ	غ
قیمت	120	130	81	95	181	201	360	401	501	601	731	805	901	1060

جدول برائے طالع بروج

نام برج	موافق طالع بروج	نام برج	موافق طالع بروج
حمل	اسد، قوس	میزان	دلو، جوزا
ثور	سنبلہ، جدی	عقرب	حوت، سرطان
جوزا	میزان، دلو	قوس	حمل، اسد
سرطان	عقرب، حوت	جدی	ثور، سنبلہ
اسد	قوس، حمل	دلو	جوزا، میزان
سنبلہ	جدی، ثور	حوت	سرطان، عقرب

جدول موکلات کرسی، الٰہی

نام موکل	ظاہری حروف	باطنی حروف	قیام تصوری بہ جہت [illegible]	[illegible]
الف	ا	✗	پائیہ اول بیرونی جہت	عقل
ابجد	اب ج د	ل ف ا ی م ا ل	پائے دوئم بیرونی جہت	روح
حوزج	حوز ج	ااوا	پائے سوئم بیرونی جہت	نفس
طیکل	ط ی ک ل	اااف ام	پائے چہارم بیرونی جہت	قلب
منسع	م ن س ع	ی م و ن ی ن ی ن	پائے اول اندرونی جہت	حرارت
فصقر	ف ص ق ر	ااواف ا	پائے دوئم اندرونی جہت	ٹھنڈک
ششتخ	ش ت ث خ	ی ن ااا	پائے سوئم اندرونی جہت	تری
ذضظغ	ذ ض ظ غ	اال ا و ا ی ن	پائے چہارم اندرونی جہت	خشکی

مثال برائے تفہیم استخراج عبارت بلحاظ ترتیب نزولی

ف ا ط م ہ

5 13 9 1 17

17 16 25 12 17 28

20 25 19 6 6 11 17

28 20 5 14 20 14 25 20

20 8 12 21 21 27 15 10 10

10 10 26 14 7 14 13 2 8 2

4 6 4 22 20 15 27 14 16 20 10

28 4 2 2 20 28 15 12 2 14 6 4

4 24 8 22 8 12 16 27 13 17 25 9 23

23 9 15 21 1 7 5 11 16 25 20 5 4 19

10 13 24 19 2 27 8 25 14 2 23 25 8 24 23

ث خ ح ذ ث ب ن ذ ح ظ ب ق خ م ی

مدرجہ بالا ترتیب نزولی کے اعداد سے استخراج شدہ حروف سے مندرجہ ذیل عبارت بنی

ثخحذ ثبنذ حظبقخمی

مثال برائے تفہیم استخراج برج

ذیل میں فاطمہ نقوی بنت پروین اختر کے برج کے استخراج کا قاعدہ ملاحظہ کیجئے

ف	81	پ	3
ا	111	ر	201
ط	10	و	13
م	90	ی	11
ہ	6	ن	106
	298		334

298
+334
12 / 632 \ 52
60
32
24
8 باقی رہا

اب فاطمہ نقوی کے حروف نام فاطمہ سے برج عقرب استخراج ہوا جدول موافق طالع بروج سے ملاحظہ کیا تو موافق طالع بروج سرطان اور حوت برآمد ہوئے۔ اب بروز جمعۃ المبارک ساعت اول (زہرہ) میں ایک کاغذ پر زعفران سے استخراج شدہ عبارت لکھیں اور اسکے نیچے اسماء موکلات کرسی و الٰہی ا، ابجد، حوزج، طیکل، منسع، فصقر، ششتخ، ذضظغ لکھیں اور اسے اپنے پرس میں محفوظ رکھ لیں۔

جملہ امور کی وضاحت کر دی ہے مزید رہنمائی کے لیے بذریعہ فون / خط و کتابت رابطہ کر سکتے ہیں مزید معلوماتی سلسلہ کے لیے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ وقتاً فوقتاً معلوماتی سلسلہ آپ تک پہنچتا رہے۔

والسلام جابر علی المعروف شایان علی

Youtube Channel Address
youtube.com/ jabirshayaan

معمول تسبیح: شیخ بہائیؒ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی صبح کی نماز کے بعد سورۂ توبہ کی یہ آیت بلا تکلم گیارہ بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے منہ اور بدن پر پھیرے تو وہ اللہ کی امان میں رہیگا

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (۱۲۹)

میرے لیے اللہ کافی ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا رب ہے

ہر پریشانی کے واسطے نماز فجر کے بعد اکتالیس مرتبہ اس وظیفہ کو پڑھیں پریشانی دور ہوگی۔

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبِّ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ

تیرے لیے ان سے اللہ کافی ہے اور وہی سننے جاننے والا ہے میرے رب میں مغلوب ہوں تو مدد فرما۔

وَأَنْتَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ تو سب مدد گاروں سے بہتر ہے

مستحصلہ امتزاج الحروف

تحریر و تحقیق
ایم غلام عباس اعوان
0333-6801653
0300-6011925

ہر انسان کی زندگی حالات کے نشیب و فراز سے جڑی ہوتی ہے۔ وقت کے سعد و نحس ادوار زیست انسانی کا حصہ ہیں کبھی ہم تھوڑی سی کاوش اور محنت سے کامیاب و کامران ہوتے ہیں تو کبھی انتھک محنت اور سعی کے باوجود ناکامیوں اور محرومیوں کا شکار ہوتے ہیں پھر طبع متجسس ہوتی ہے کہ آخر ان پریشانیوں کا سبب کیا ہے؟ اور حل کیا ہے؟ جب حواس ظاہرہ سے ان امورات کا احاطہ نہیں کر پاتے تو شدت سے ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ کسی روحانی علم کی کہ جس سے ہم اپنے مصائب و آلام کی باطنی وجوہات تلاش کر کے ان کا سدباب کر سکیں جملہ روحانی علوم میں علم جفر ایک ایسا جامع اور مکمل علم ہے۔ جس کا شعبہ اخبار تشخیص میں معاون ہوتا ہے جبکہ شعبہ آثار سے ہم ان باطنی رکاوٹوں کی وجوہات کو دور کرنے میں مدد لے سکتے ہیں۔

آپ احباب کی اس ضرورت کے پیش نظر ہر سال امامیہ جنتری کی وساطت سے علم جفر کا انتہائی سلیس اور زود فہم قاعدہ بیان کیا جاتا ہے میں پورے وثوق سے لکھ رہا ہوں کہ آج جو قاعدہ مستحصلہ بیان کیا جا رہا ہے اس سے آپ از خود اپنی پریشانی کا نہ صرف سبب تلاش کر سکیں گے بلکہ اس سبب کو دور کرنے کا عمل حل بھی نکال سکیں گے۔ انشاء اللہ قاعدہ کی افادیت اور اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ایک ہی سائل کے دو سوالات کی امثلہ پیش کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا مقصود آپ کو قاعدہ سمجھانا ہے۔

تشریح قاعدہ

- سوال عمدہ پیرائے میں بندش کر لیں۔
- سوال کے ہر لفظ کو الگ الگ لکھ لیں۔ اور ہر لفظ کا پہلا اور آخری حرف الگ لکھتے جائیں جیسے غلام عباس کے دو لفظ ہوئے غلام کا پہلا حرف غ اور آخری حرف م ہوا عباس کا پہلا حرف ع اور آخری حرف س ہوا۔
- یہ جو نئی حروف کی سطر بنی ہے۔ اسکو دو برابر حصوں میں کر لیں آخری حصہ پہلے حصہ کے نیچے لکھ کر امتزاج دیں یعنی اوپر والا حرف پھر نیچے والا حرف اسی طرح اگلا اوپر والا حرف اور نیچے والا حرف ……
- یہ سطر امتزاج جوابیہ سطر ہے۔ اس میں تقریباً 80 فیصد حروف خود ناطق ہوں گے۔ بقیہ ۴ یا ۵ حروف کو نظیرہ و ہم رتبہ سے تبادلہ دینے پر نہایت مفصل اور مربوط جواب بن جاتا ہے۔

(نظیرہ ابجد قمری میں ہر حرف سے اگلا پندرھواں حرف نظیرہ کہلاتا ہے)

جدول ہم رتبہ یہ ہے

اعداد مفردہ	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
ہم رتبہ حروف	ا	ب	ج	د	ہ	و	ز	ح	ط
	ی	ک	ل	م	ن	س	ع	ف	ص
	ق	ر	ش	ت	ث	خ	ذ	ض	ظ
	غ								

مثال نمبر1: یا علیم ☆: محمد عظیم بن فریحہ کی پریشانیوں کا اصل سبب کیا ہے؟۔

الگ الگ الفاظ: محمد عظیم بن فریحہ کی
پریشانیوں کا اصل سبب کیا ہے
شروع اور آخر کا حرف م د ع م ب ن ف ہ ک ی
پ ں ک ا ا ل س ب ک ا ہ ی
آخری نصف حصہ م د ع م ب ن ف ہ ک ی پ
شروع میں لکھا ں ک ا ا ل س ب ک ا ہ ی
سطر امتزاج م ں د ک ع ا م ا ب ل ن س ف
ب ہ ک ک ا ی ہ ب ی
نظیرہ و ہم رتبہ م ں ت ر ع ا م ا ب ل ن
س ف ب ق ک ک ا ی ہ
منتر عامل بناسب ق کیا کہ

یعنی کسی منتر کے عامل نے سب معاملات کو (ق) باندھ رکھا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

(پوری سطر جواب میں صرف تین حروف کو امدادی حروف سے بدلا گیا)

مثال نمبر2: یا علیم ☆: منتر کے عامل کی بندش محمد عظیم بن فریحہ کی کیسے ختم ہو؟

الگ الگ الفاظ منتر کے عامل کی بندش محمد عظیم
بن فریحہ کی کیسے ختم ہو

18 محرم یوم کربلا بمقام امام بارگاہ قادری آباد ملتان زیر اہتمام: انجمن ... قادری آباد ملتان 0300-9631966 + سالانہ مجلس 5/7 محرم امام بارگاہ حسینیہ ... فاروق آباد ضلع شیخوپورہ۔ رانا تجمل عباس 0300 4593537

شروع اور آخر کا   م ر ک ی غ ل ک ی ب ش م و

غ م ب ن ف ھ ک ی ک ی خ م ھ و

حرف م ب ن ف ھ ک ی ک ی خ م ھ و

سطر امتزاج   م م ر ب ک ن ی ف خ ھ ل ک

ک ی ی ک ب ی ش خ م م و ھ غ و

نظیرہ ہم رتبہ   م م ر ب ک ن ی ف غ

ھ ل ک ر ی ی ک ب ی ش ی م م ت ھ ب ر

رب ممکن یہ فعل کرے بیشک عمیت پڑھ

یعنی باشبہ اگر اسم الٰہی یا حمیت کا ورد کرے تو اللہ کریم سب کچھ ممکن فرما دیں گے۔ (انشاءاللہ)

ادارے کی فرمائش پر چند جفری پیش گوئیاں پیش خدمت ہیں۔

یاعلیم ☆ کیا ہندوستان پاکستان پر کبھی ایٹمی حملہ کرے گا؟

ک ا ھ ن ب ن ب ر ک ی ا ی خ ھ ک ی ک ا

ی ا ی خ ھ ک ی ک ا

ک ی ا ھ ی ن خ ا ی ن ک ب ی ر ک ا

ک ی س ا ق ی ھ ی پ ی ن گ

یک قیاس ہے بے کن بیکار

یعنی یہ خیال (قیاس) بے بنیاد اور بیکار ہے۔ وہ ایسا نہیں کرے گا۔

(واللہ اعلم)

یاعلیم ☆ کیا ملک پاکستان آبی ذخائر میں خود کفیل ہو گا؟

ک ا م ک پ ن ا ی ذ ر م ن

خ د ک ل ھ و ھ و ک ا

م ن خ و ک ل ھ و ک ا

ک م ان م خ ک د ب ک ن ل ا ھ ی و ذ ک ر ا

ک م آ ن م ی ا د ب گ ن ل ا ھ ی و ذ ک ر ا

ھ خ ر ذ ک ر ی

ممکن آ بدیر کن لا ذخیرہ کر

یعنی ایسا ممکن ہے مگر دیر سے ذخیرہ کی خوبی (کن) لا سکے گا۔ (واللہ اعلم)

یاعلیم ☆ کیا کبھی مقبوضہ کشمیر ہندوستان کے چنگل سے آزاد ہو گا؟

کیا کبھی مقبوضہ کشمیر ہندوستان کے چنگل سے آزاد ہو گا؟

شروع و آخر کا حرف ک ا ک ی م ھ ک ر ھ ن ک

ی ج ل س ی ا د ھ و ک ا ی ج ل س

ی ا د ھ و ک ا

سطر امتزاج ک ی ا ج ک ل ی س م ی ھ ا ک د ر ھ

ھ و ن ک ک ا

ک ی ا ف ل ا س م ی ا ن آ ک د و ھ ھ و ن

گ ک ا

کافی سال میں دکھ آ و ہو گا کن

یعنی کافی سال تک اہل کشمیر کو دکھ اٹھانا پڑیں گے بالآخر (کن) خوبی یا آزادی حاصل ہوگی۔ (ان شاءاللہ)

یاعلیم ☆ دو ہزار اٹھارہ عیسوی کے الیکشن میں کونسی سیاسی پارٹی اقتدار میں آئے گی؟

دو ھ ز ا ر ا ھ خ ی ک ی ا ن م ن ک ی س ی پ ی

ا ر م ن ا ی ک ی

سطر اول حصہ: د و ھ ز ا ر ا ھ خ ی ک ی ا ن م ن

سطر کا حصہ دوئم ک ی س ی پ ی ا ر م ن ا ی ک ی

سطر امتزاج د ک و ی ھ س ز ی ا پ ھ ی خ ا ی ر ک م ی ن ا ن ی م

ک ن ی

کہ دو سیراب ہے عمران کی امکان یہ (واللہ اعلم بالصواب)

سوال حل کرنے کی تاریخ 30-06-2018 ہے۔

ضروری گزارش کسی بھی قسم کا ذاتی نوعیت کا سوال بذریعہ علم جفر ہم سے معلوم کرانا چاہیں تو -/100 روپے فی سوال فیس ادا کر کے جواب لے سکتے ہیں۔ دفتر کا ایڈریس یہ ہے۔ سب آفس ہفت روزہ ایکشن عبداللہ خالد پلازہ غلہ منڈی جوہر آباد ضلع خوشاب (دفتری اوقات 10 تا 4 بجے علاوہ جمعہ و اتوار) 0333-6801653,0300-6011925

آفتاب جعفر مع فیوض جفر (شعبہ آثار) مصنف ایم غلام عباس اعوان۔ ناشر افتخار بک ڈپو اسلام پورہ لاہور

علمِ رمل کی افادیت

مولانا محمد علی عابد قنبری

اوقات صبح 10 بجے سے شام 4 بجے
ہدیہ فی سوال 300 روپے

0302-2630786
0315-2266569 0341-2627585
abidqambary@gmail.com

نوٹ: سوال کرنے والے حضرات دو رکعت نماز حاجت پڑھ کر یہ نیت رکھ کر کہ اللہ سب جاننے والا ہے اور بندہ فقط ذریعہ بننے والا ہے۔ اپنا مسئلہ ذہن میں رکھ کر 1 سے 16 کے درمیان کوئی عدد یا عددی مرض سے مطلع کر کے فون کرے۔

ظہور حجتؑ سے قریب ترین زمانے کی مشکلات کے ساتھ ہم لوگ جی رہے ہیں۔ شیطانیت اپنے عروج پر ہے عریانیت اپنی حد کراس کر چکی ہے۔ ہمارے رسم و رواج میں یہود و ہنود کی تہذیب نمایاں ہے اور ہم نام کے مسلمان ہیں، تمام ہندوانی رسوم کو شادی بیاہ میں پورا کرنے کے بعد کسی کیٹرنگ کرنے کے بعد اپنے آپ کو مومن ثابت کرنے کے لیے حدیث کساء ضرور پڑھائیں گے خدا کے لیے اپنے آپ کو بدلو قول و فعل میں ایماندار نظر آؤ، ایک دوسرے سے اعتراض کرنے سے پہلے اپنے اپنے حصے کا کام کرلو تو شاید کچھ نہ کچھ معاشرہ ٹھیک ہو جائے۔ ہم کے مومن نہیں بلکہ کام کے مومن نظر آؤ، ہم تو کہہ رہے ہیں مولا ہمارے ہیں کمال یہ ہے کہ کل وہ بھی کہیں کہ یہ ہمارے ہیں۔ حسد، بغض، کینہ کی آگ سے نکل کر ایک دوسرے کے لیے نظر بد، جادو، بندش، رکاوٹیں کروانے سے بالاتر ہو کر محنت سے کام کریں۔ پنجگانہ نماز کے ساتھ ساتھ اگر کہیں نماز تہجد کے عادی ہو جائیں تو ان عاملوں، نجومیوں، کاہنوں اور جادوگروں کے پاس جانے کی ضرورت ہرگز نہ پڑے گی۔ مولا امیر المومنینؑ نے نہج البلاغہ میں نجومیوں کی مذمت فرمائی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے ان دنیاداروں کو چھوڑ کر چہاردہ معصومینؑ کے علوم کی طرف توجہ کریں اور جو ہم کو معصومینؑ ان چیزوں کا عمل بتایا ہے ان پر عمل کریں انشاء اللہ سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو بھی ان گزارشات پر عمل کرے تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ جس کے ثواب کا حق آغا نثار احمد (مرحوم) بانی امامیہ جنتری و ادارہ اور میرے والد مولانا فقیر محمد جعفری (مرحوم) کی بلندی درجات کیلئے اور بالخصوص آغا افتخار حسین کی اہلیہ (مرحومہ) کیلئے اور جمیع مومنین و مومنات مرحومین بالخصوص شہدائے کوئٹہ، ماروی، پارا چنار کیلئے سورۂ فاتحہ کی درخواست کرتا ہوں اور دعا گو ہوں آغا افتخار حسین اور میرے والدین کی طول عمر اور صحت کیلئے۔

اس سال قارئین امامیہ جنتری کو علمِ رمل کا ایک اہم کلیہ یعنی مدت نکالنے کا طریقہ بتانا چاہتا ہوں، یہ واضح رہے کہ یہ علم الغیب نہیں ہے بلکہ بزرگوں کے اعداد و شمار اور مشاہدات کا نتیجہ ہے۔ سو فیصد تو صحیح نہیں ہو سکتا لیکن قریب ترین جواب ضرور ہوا کرتا ہے۔ اس میں مندرجہ ذیل سوال آتے ہیں۔ میرے حالات کب بہتر ہوں گے؟ مجھے نوکری کب ملے گی؟ مجھے تعلیم میں کب تک کامیابی حاصل ہوگی؟ مجھے نوکری کب ملے گی؟ جائیداد کب میرے ہاتھ آئے گی؟ بیماری سے کب نجات کب حاصل ہوگی؟ میری شادی کب ہوگی؟ قرضے سے کب نجات ملے گی؟ حج و زیارات کی سعادت کب ملے گی؟ دوست سے ملاقات کب ہوگی؟ گمشدہ مال کب ملے گا؟ گھر چھوڑ کر گیا کب واپس آئے گا۔ مدت نکالنے سے قبل زائچہ صرف استاد دیکھ لینا ضروری ہے کہ آیا جس کام کیلئے مدت دیکھی جا رہی ہے وہ ظہور پذیر بھی ہوگا یا نہیں۔ ظہور اگر ثابت ہو جائے تو معلوم ہونے کے متعلق سوال ہو اس خانے کی شکل موجودہ زائچہ کو اسی خانے کی شکل ہے۔ ازاں دائرہ سکن ضرب دے کر شکل نتیجہ یا مستحصلہ پیدا کرو۔ دائرہ سکن درج ذیل ہے۔

نام خانہ	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶
شکل دائرہ سکن																
سعد و نحس / خارج داخل ثابت	سعد خارج	نحس ثابت	سعد خارج	سعد ثابت	خارج نحس	سعد ثابت	نحس خارج	نحس داخل	نحس منقلب	سعد داخل	سعد منقلب	سعد داخل	نحس منقلب	سعد داخل	سعد منقلب	ممتزج

اب دیکھو کہ شکل نتیجہ زائچہ کے اندر امہات، بنات اور متوالات میں کس جگہ پر ہے اور قوی ہے یا ضعیف۔ اگر قوی تو اندر معیار مندرجہ ذیل جدول کے اور اگر ضعیف ہو تو بعد انقضائے معیاد یعنی معیاد ختم ہونے کے بعد حصول مراد کا حکم لگانا چاہیے اگر شکل نتیجہ امہات میں ہو تو دن بنات میں ہو تو ماہ اور اگر متوالات میں ہو تو سال بمطابق جدول ذیل مدت لگے گی۔



نوٹ: آتش اور ہوا میں دوستی ہے آب اور خاک میں دوستی ہے آب، آتش فی الحقیقت مخالف ہیں آب و ہوا دشمن ہیں
اسی طرح خاک و آتش بھی خاک و ہوا دشمن ہیں

جدول مدت

نام کواکب		زحل	مشتری	زہرہ	عطارد	مریخ	شمس	قمر	راس ذنب
اشکال زائچہ									
امہات	یوم	۲۸	۸	۲	۱۲	۹	۶	۱	۳
بنات	ماہ	۵	۱	۱	۳	۵	۱۰	۱۰	۶
متوالات	سال	۳	۱	۱	۱۲	۵	۱	۳	۱½

شکلیں چار قسم کی ہوتی ہیں۔ (لحیان) جس کا شکل نقطہ باہر ہو اسے خارج کہتے ہیں۔ (انکیس) جس کا شکل نقطہ اندر کی طرف ہو اسے داخل کہتے ہیں۔ (فرح) جس کے شکل نقطے اوپر نیچے ہوں اسے منقلب کہتے ہیں۔ (عقلہ) جس شکل کے اوپر نیچے خط ہوں اس کا نام ثابت ہے۔ داخل سے مراد ہے قبضہ کا ہے یا حصول کا ہے۔ خارج سے مراد ہے سوال والی پارٹی سے چاہت کا ہے۔ ثابت سے مراد ہے حالت بدستور قائم ہے منقلب سے مراد کچھ مراد حاصل ہو کچھ نہیں۔ سعد و نحس اشکال کو مدنظر رکھیں مثلاً داخل شکل ہو تو آسانی حاصل ہو اگر نحس ہو تو پھر دشواری سے حاصل ہو خارج سعد ہو تو جاری ہو تو مشکل سے اور جو نحس خارج سے جلدی دور ہو ثابت سعد سے مراد حالت ایسی نہ ہو منقلب سعد سے مراد آسانی کچھ حاصل ہو منقلب نحس سے مراد پریشانی اٹھا کر کچھ حاصل ہوں۔

سوال کیا گیا 2 جون 2017 کو میری تقدیر کب بدلے گی؟ اور فون کے ذریعے چار نمبر 3,11,12,14 لکھوائے۔



شکل خانہ نمبر اعتبہ الداخل ہے برج ثور اور ستارہ زہرہ سے تعلق رکھتی ہے نیک داخل شکل بابرہ ہے اور زند جہاں شکل کو قانون کے مطابق دائرہ سکن خانہ اول لحیان سے ضرب دیں۔ زائچہ خانہ نمبر (۱) عتبہ الداخل ضرب دائرہ سکن کے خانہ نمبر (۱) لحیان کے ساتھ ضرب دی نتیجہ طریق نکلا یہ شکل زائچہ مذکورہ میں تلاش کی زائچہ بنات میں دکھائی دی اس تحصیل شکل کو ہم نے جدول مدت میں دیکھا تو قمری مہینہ میں دو مہینات کے خانے میں ظاہر ہوا لہٰذا سائل کو جواب دیا بطفیل محمد و آل محمد آپ کا کام دو ماہ کے اندر اندر ہو جائے گا

سوال کیا گیا کہ میرا کب تک بہن بھائیوں سے میل جول رہیگا؟ اور فون پر چار نمبر 3,1,14,6 لکھوائے۔



اصول و قواعد: ضرب خانہ اول و سوم کی شکل کا نتیجہ اگر نیک شکل اور موجودہ رمل ہے اور اس کے عددوں کے مطابق برسوں تک میل رہے گا۔ شکل اول اور دوم کے نقطے ملاؤ اگر آتشی نقطے مل جائیں تو دس برس اگر بادی مل جائیں تو بیس برس اگر آبی ملے تو تمام عمر اور اگر خاکی ملے تو چند روز تک میل رہے گا۔ خانہ اول میں شکل نحس اور خانہ سوم میں نحس ہے جو میل جول کی دلیل نہیں ہو سکتے خانہ اول اور سوم کو ضرب دی تو جواب عکس آیا جو نحس شکل ہے اور رمل میں موجود نہیں۔ یہ دوسری دلیل ہے کہ میل جول نہیں ہو سکتا اور نقطہ خاک ملانے جو کہ چند روز تک میل رہنے کی دلیل ہے

سوال کیا گیا مجھے دولت کب ملے گی؟ اور فون پر چار نمبر 12,5,3,12 لکھوائے۔



شکل اول کو شکل دوم سے ضرب دی نتیجہ فرح نکلا فرح کا زائچہ میں خانہ سوم میں تکرار ہے جو امہات کے خانے میں آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سائل کو ابتدائے عمر میں دولت ملے گی

سوال کیا گیا کہ قیدی رہا ہوگا؟ فون پر 3,1,14,6 نمبر لکھوائے۔



شکل چہارم ہشتم اور ہفتم دوازدہم کی ضرب سے جو نتیجہ آئے اسے خانہ ششم سے ضرب دیں اگر خارج آئے تو قیدی جلد رہا ہوگا اگر سعد داخل آئے تو دیر سے رہا ہوگا اگر نحس داخل ہو یا عکس آئے تو زندان میں ختم ہو جائے گا اگر عتبہ الداخل آئے تو کسی وسیلے سے رہا ہوگا اگر حمرہ ہو اور تکرار خانہ چہارم میں ہے تو رہائی میں اندیشہ ہے اور اگر خانہ دوم میں تکرار آئے تو اندیشہ قتل ہے اور خانہ دہم میں عکس یا عقلہ آئے تو ملزم کی سزا طویل ہے اور اگر قبض الخارج ہے تو ضمانت سے رہا ہوگا اگر ان کے علاوہ کوئی بھی شکل ہے تو رہا ہو جائے گا۔ شکل چہارم و ہشتم اور ہفتم و دوازدہم کو ضرب دے کر خانہ ششم سے ضرب دی تو نتیجہ عتبہ الخارج آیا جس کا مطلب ہے کہ کسی کے وسیلے سے رہا ہو جائے گا

سوال کیا گیا کہ میں شفا پاؤں گا یا نہیں؟ اور فون پر چار نمبر 16,3,14,3 لکھوائے۔



اگر خانہ ششم میں شکل سعد خارج ہو مریض جلد شفا پائے گا اگر سعد داخل یا نحس خارج ہے تو دیر سے شفا پائے گا اگر شکل منقلب ہے تو نیک ہو کر پھر بیمار ہو جائے گا اگر شکل نحس داخل یا ثابت ہے تو بیماری سے نجات مشکل ہے یعنی بیماری جان لیوا ہے۔ اگر خانہ ششم میں نحس داخل ہو تو مریض سفر کرے گا ایک اور کلیہ کے مطابق زائچہ کے تمام نقطے شمار کر کے تین پر تقسیم کریں اگر ایک بچے تو مریض انتقال کر جائے گا اگر دو بچے تو شفا پائے گا اگر تین بچے تو دیر سے شفا ہوگی اگر شکل ششم میں طریق ہے جو کہ سعد منقلب ہے اس کا مطلب ہے نیک ہو کے پھر بیمار ہو جائے گا زائچہ کے نقطے شمار کرنے سے کل 36 ہوئے تین پر تقسیم کیا تو کچھ نہیں بچا یعنی صفر ہے جو دیر سے شفا ہوگی۔ لیکن شکل نحس سعد منقلب ہے لہٰذا دیر سے شفا ہوگی۔

سوال کیا گیا نکاح ہوگا اگر ہوگا تو میری کتنی شادیاں ہوں گی؟ اور فون پر چار نمبر 13,8,9,2 لکھوائے؟



شکل اول و ہفتم سعد داخل ہیں اور خانہ پنجم میں شکل نحس ہے سائل کی شادی تو ہو جائے گی لیکن رسم و شادی بارات اور بینڈ باجے نہ ہوں گے اشکال ہفتم سعد داخل ہے لیکن شکل خانہ چہارم منقلب ہے جزوی موافقت رہے گی۔ عورت کا قیام گھر میں کبھی رہے گا اور کبھی نہیں۔ خانہ اول و ہفتم کی اشکال سعد ہے کیونکہ دونوں اشکال کا تعلق ایک ہی عنصر سے ہے اس لیے سائل کے ہاں اولاد ہونا مشکل ہے۔ شکل خانہ سوم نحس ہے لہٰذا سائل کے بہن بھائی اور عزیز و اقارب اس شادی سے خوش نہیں ہوں گے اور مخالفت کریں گے۔ خانہ اول اور ہفتم کے نتیجے کو خانہ یازدہم سے ضرب دیں نتیجہ جس قدر موجود رمل ہو اگر نیک ہو تو اس قدر شادیاں ہوں گی اور موجود رمل نہ ہو تو شادی نہیں ہوگی۔ اگر منقلب ہو تو بات پختہ ہو کر ٹوٹ جائے گی۔ نحس داخل ہو تو گھر میں آ کر واپس چلی جائے گی سعد ثابت سے شادی تو نہیں ہوگی لیکن امید باقی رہے گی۔ اس ضرب کا نتیجہ فرح ہے جو شکل منقلب ہے اس کا ابتدا بات پختہ ہو جائے گی لیکن ٹوٹ جائے گی۔

سوال کیا گیا میری بیوی سے اولاد ہوگی؟ اور فون پر چار نمبر 15,14,8,9 لکھوائے۔



شکل خانہ پنجم اور خانہ نہم کو ضرب دے کر نتیجہ برآمد کریں اور اگر شکل سعد و مذکر ہو تو دلیل فرزند کی ہے مبارک قدم پیدا ہوگا اگر شکل مونث کی ہے تو لڑکی پیدا ہوگی۔ اگر زائچہ رمل میں غلبہ اجتماع کا ہو تو فرزند زیادہ پیدا ہوں گے اور اگر زائچہ میں غلبہ جماعت شکل کا زیادہ ہو تو بیٹیاں زیادہ پیدا ہوں گی اور ایک اور کلیہ کے مطابق اگر خانہ پانچ اور سات کو ضرب دیں تو شکل مذکر آئے تو لڑکا اور شکل مونث آئے تو لڑکی اگر طالع اور نہم ساتھ ہوں گی تو دلیل ہے کہ اولاد ہوگی اور اگر نحس شکل ہو تو حکم برعکس ہوگا۔ خانہ پنجم اور نہم ضرب دی تو جواب اجتماع آیا جو مونث شکل ہے لہٰذا لڑکی پیدا ہوگی۔ اور خانہ پنجم اور ہفتم کو ضرب دی تو جواب نقی آیا جو مونث شکل ہے لہٰذا لڑکی پیدا ہوگی ویسے رمل میں اجتماع شکل دو دفعہ ہے اور جماعت ایک دفعہ ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سائل کے ہاں فرزند زیادہ ہوں گے واللہ اعلم بالصواب۔

اسراری فتح نامہ باموکل

امیر حیدر
0301-6762979
0333-6821579

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ (القرآن)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین تقویم (انداز) میں پیدا فرمایا۔ مگر اس جہان میں انسان کو دکھ (زیادہ) اور سکھ کم ہیں۔ یہ دکھ، تکلیف اور پریشانیاں انسان کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہیں۔ دکھوں کے مداوا کے لیے بھی خالق کائنات رب رحمٰن و رحیم نے راہ دکھادی کہ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ یعنی قرآن مقدس میں ہر دکھ درد کی شفاء ہے مگر انسانوں نے کتاب حق سے غفلت کی تو دکھوں کا اسیر ہو گیا۔

ہر کام میں کامیابی اور فتح یابی کے لیے قرآن مجید میں متعدد آیات فتح مرقوم ہیں جن میں 3 آیات بہت مشہور ہیں۔

☆ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ سورۂ صف نمبر 61 پارہ 28 آیت 12

☆ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا پارہ 26 سورۂ فتح آیت 1

☆ اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ پارہ 27 سورۂ القمر آیت 9

☆ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ (مشہور عام دعا)

2002ء سے 2017ء (16 سال) تک ناچیز کو اپنے بزرگوار استاد نانا قبلہ آغا حسنین احمد صاحب استاد العالمین بہاولپور سے علم الاعداد، نجوم، استخارہ، شرف سیارگان کی تربیت حاصل کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں اپنے استاد محترم آغا حسنین احمد صاحب قبلہ کی اجازت سے ایسا عمل قارئین کی نذر کرنے کی سعادت کا متمنی ہوں جو تیر بہدف ہے جس سے جملہ مقاصد 40 یوم میں حاصل ہونے کی گارنٹی ہے۔

ترکیب تیاری اسراری لوح فتح نامہ باموکل برائے ہر کام میں کامیابی، تکمیل ہر خواہش، ناموری، فتحیابی، تسخیر خلق، روزگار ترقی،

☆ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ کے حروف 17 اعداد 1302

☆ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا کے حروف 19 اعداد 1233

☆ اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ کے حروف 14 اعداد 1960

☆ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ کے حروف 21 اعداد 1315

تینوں آیات اور دعا کے نقطے = 36

حروف اور نقطوں کا میزان = 17+19+14+21+36=107

آیات اور دعا کے اعداد = 1302+1233+1960+1315 =

میزان 5810 + حروف + نقطے 107، میزان 5917 سے آئیل کے 41 عدد تفریق کریں باقی 5876

ان اعداد کو حروف پر منطبق کیا تو = و ع ض غ غ غ غ غ غ ائیل یہ اس لوح کا موکل ہے اس کو لوح کے اوپر لکھیں۔

کل میزان 5917 تفریق 30 = 5876 ÷ 4 = حاصل تقسیم 1471 باقی 3 بچا نقش چال مربع بادی کے خانہ نمبر 5 میں ایک عدد کا اضافہ ہوگا مربع (4X4) ساعات قمر میں لکھیں سونا پالش کرائیں۔ ڈوری ڈال کر کمرہ میں لٹکائیں کہ ہوا سے ہلتی رہے۔ کمرہ میں نہ لگا سکیں تو الماری کے اندر لگائیں یا اپنے پرس میں رکھیں۔ پرس کا کلر باہر سے سیاہ نہ ہو۔ مضمون کی کوئی جزو سمجھ نہ آئے تو فون پر معلوم کریں۔

جو کرم فرما تیار نہ کر سکیں وہ مکمل اسراری لوح فتحنامہ باموکل ورد شدہ، صدقہ ادا شدہ، سونا پالش کا ہدیہ 1000 روپے منی آڈر یا ایزی پیسہ بھجوا کر حاصل کریں۔ والدہ کا نام ضرور لکھیں۔

چال مربع بادی

۱۴	۱	۸	۱۱
۷	۱۲	۱۳	۲
۹	۶	۳	۱۶
۴	۱۵	۱۰	۵

نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ

۱۳۸۵	۱۳۷۱	۱۳۷۹	۱۳۸۲
۱۳۷۸	۱۳۸۳	۱۳۷۳	۱۳۷۲
۱۳۸۰	۱۳۷۷	۱۳۷۳	۱۳۸۷
۱۳۷۴	۱۳۸۶	۱۳۸۱	۱۳۷۶

اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ

امیر حیدر عقب امام بارگاہ جاگیر علی اکبر جاوید کالونی بہاولپور اوقات صبح 9 بجے تا عشاء 9 بجے اتوار کو دفتر کھلا ہوتا ہے۔

مسز سیدہ نگینہ زہرا انجم زیدی ایرانی
0336-9272110
0345-2350714

مجرب نقش برائے دفعِ بندشِ شادی

رب کریم کی بارگاہ میں التماس ہے کہ وہ ذات رحمن و رحیم بانی امامیہ جنتری محترم آغا نثار احمد صاحب مرحوم و مغفور کے درجات بلند فرمائے۔ محترم آغا افتخار حسین صاحب ان کے افراد خانہ اور امامیہ جنتری کے دیگر تمام معاونین کو صحت اور شفا عطا فرمائے۔ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور بصدقہ محمد و آل محمد ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثمہ آمین۔

محترم قارئین امامیہ جنتری تسلیمات! امامیہ جنتری میں میرے شائع شدہ مختلف مضامین کے حوالے سے امامیہ جنتری کی خواتین (مستورات) قارئین جس کثیر تعداد میں اپنے مسائل کے روحانی حل کے سلسلے میں مجھ حقیر سے رابطہ کر کے میری عزت افزائی کر رہی ہیں، اس سے مجھے حوصلہ ملا کہ میں امامیہ جنتری کی خواتین قارئین کی خدمت کے اس روحانی سلسلے کو جاری رکھوں۔ میری یہ کاوش صرف اور صرف امامیہ جنتری کی خواتین قارئین کے لئے ہے۔ اس لئے گزارش ہے کہ مرد حضرات رابطہ کرنے کی زحمت نہ کریں۔

بندش شادی اکثر لڑکیوں کا خوب سیرت و خوبصورت ہونے کے باوجود رشتہ نہیں آتا۔ بعض لڑکیاں سلیقہ مند اور پڑھی لکھی، نوکری بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ اپنے والدین کا پورا گھر سنبھالی ہوئی ہوتی ہیں۔ کبھی کوئی رشتے کا پیغام آتا ہے تو کسی نہ کسی وجہ سے بات آگے نہیں بڑھ پاتی ہے۔ لڑکے والے کوئی خاص وجہ بتائے بغیر بات ختم کر دیتے ہیں۔ کچھ لڑکیوں کی اچھی جگہ منگنی طے ہوئی ہو، کچھ غلط فہمی یا بغیر وجہ کے ٹوٹ جاتی ہے۔ جب بھی ایسی صورت پیدا ہوتی ہے تو والدین کے لئے بڑی پریشانی کا سبب بنتی ہے۔ یہ علامت سحر/جادو کی شدید ترین علامت ہوتی ہے۔

سحر کی وجہ سے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ کنواری لڑکیوں کے لئے رشتے کے پیغام آتے ہیں مگر بات آگے نہیں بڑھ پاتی۔ بعض لڑکیوں کی بندش کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے کہیں سے کوئی رشتہ نہیں آتا۔ کچھ ایسے رشتہ دار حسد اور دشمنی کی وجہ سے کنواری لڑکیوں کی شادی کی بندش کر دیتے ہیں۔ بہت سی لڑکیوں کی اسی فکر میں شادی کی عمر نکل جاتی ہے۔ والدین بھی بیٹی کی فکر میں بیمار رہتے ہیں۔

لڑکیوں میں جادو کی چند علامات (1) رشتے نہ آنا۔ (2) ہمیشہ سر درد رہنا، کسی علاج سے فائدہ نہ ہونا۔ (3) سوتے وقت گھبراہٹ۔ (4) سینے میں گھٹن اور سانس میں مسئلہ رہتا ہے۔ (5) خاص کر معدے میں درد بھی رہے گا۔ (6) کمر کی نچلی طرف شدید درد رہنا۔ (7) شادی سے اکتاہٹ رہتی ہے۔ (8) پریشان، چپ چپ اور تنہائی میں رہنا، سب سے الگ تھلگ رہنا۔ (9) منگنی کا اٹکے رہنا، بات آگے نہ بڑھنا۔ (10) نکاح ہو جانا مگر رخصتی کا اٹکے رہنا۔ (11) ڈراؤنے خواب آنا۔ (12) رشتہ طلب کرنے والی فیملی میں بہت سے نقائص کا نظر آنا۔ (13) نیند کے دوران بہت زیادہ گھبراہٹ محسوس ہوگی۔ (14) بغیر وجہ کے پریشان خیالی، ذہن میں منتشر خیالات کا آنا۔ (15) دل میں کثرت سے وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ (16) چڑچڑا پن طبیعت میں زیادہ ہو جاتا ہے وغیرہ۔ الحمد اللہ ان تمام مسائل کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے۔ مناسب رہنمائی سے ان سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔

نقش سورۃ القصص ۳۹۹۲۸۹



درج ذیل سورۃ حج کی آیات اور دعا مشک و زعفران سے لکھ کر لڑکی کے گلے میں ڈالی جائے۔ ان شاء اللہ اس آیت کی برکت سے ہر قسم کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝ لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ۝ لِتَعَلَّقَنَّ بَعلاً صالحاً یا نفس اپنا، اپنی والدہ کا نام بحق هذه الاسماء وصلّ اللہ علی سیدنا محمّدٍ وّعلی آلہ وسلّم

Email: naginazahraanjum110@gmail.com, 0312-0010704

زائچہ میں دوسرے گھر کے احکامات

تحریر
جاوید جمالی علاوی
0301-5503367

السلام علیکم! یا اللہ مدد، یا پاک محمدؐ و آل محمدؐ مدد

غیب کا علم اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہ معصومینؑ جانتے ہیں جنھیں اللہ نے عطا کیا ہے۔ شکر ہے پاک رب العالمین اور پاک رحمت العالمینؐ و آل محمدؐ کا جن کی عظیم نعمتوں، برکتوں، رحمتوں اور عنایات کے طفیل میرا روحانی، وجدانی اور علمی سفر جاری ہے۔

قارئین کرام! اس مرتبہ میں آپ کی خدمت میں زائچہ کے دوسرے گھر سے متعلق احکامات پیش کر رہا ہوں امید ہے کہ ماضی کی طرح آپ میری اس کاوش کو پسند کریں گے نہایت اختصار کیساتھ عرض ہے کہ زائچہ میں دوسرا گھر مالی و معاشی حالات کی نشاندہی کرتا ہے، روپیہ سے منسوبی سیارگان زہرہ و مشتری ہیں ذریعہ کامیابی شمس و قمر اسباب آمدنی زائچہ کے دوسرے گھر پر قابض سیارہ/ سیارگان اور ذریعہ آمدن زائچہ کے دوسرے گھر کے مالک سے لی جاتی ہے۔

اگر کسی زائچہ میں دوسرے گھر میں سعد سیارہ/ سیارگان ہوں اور ان پر کوئی نحس نظر نہ ہو تو مالی پوزیشن اچھی ہوگی۔ اور اگر اس گھر میں سعد سیارہ/ سیارگان کی نظر دوسرے سیارہ/ سیارگان سے سعد ہو تو مالی وسعت ہوگی۔ اور اسی طرح زائچہ کے دوسرے گھر میں موجود سیارہ/ سیارگان کی دوسرے سیارہ/ سیارگان سے نحس ہو تو حصول مال میں رکاوٹیں ہوں گی۔ اگر دوسرے گھر میں کوئی بھی سیارہ ہو اور اسکی دوسرے گھر کے حاکم سیارہ سے تسدیس یا تثلیث ہو ہو یا سعد گھروں کے حاکموں میں سے کسی کیساتھ قران میں ہو تب مالی حالت میں بہتری کی نشاندہی ہے اور اسی طرح دوسرے گھروں میں نحس سیارہ، سیارگان ہوں اور نحس ہی نظرات رکھتے ہوں تو یہ مالی مشکلات کا اظہار ہے۔ دوسرے گھر کا حاکم طالع کے حاکم کیساتھ سعد نظر رکھتا ہو یا دوسرے گھر کا حاکم سعد یا شرف یافتہ یا اوج کی حالت میں ہو تو مالی پوزیشن میں بہتری کی علامت ہے، طالع کا حاکم دوسرے گھر میں ہو اور دوسرے گھر کا حاکم گیارھویں میں ہو اور گیارھویں کا حاکم طالع میں ہو تو دولت کی فراوانی کی نشاندہی ہے اور اگر کوئی سیارہ دوسرے یا گیارھویں گھر میں نحس نظر سے متاثر ہو رہا ہو اور دوسرے گھر کا حاکم تیسرے یا چھٹے یا گیارھویں گھر کے حاکم سیارہ کیساتھ قران میں ہو یا نحس نظر ہو تو یہ روپیہ کے حصول میں رکاوٹوں کی نشاندہی کرتا ہے اور تنگدستی لاتا ہے۔

اگر زائچہ میں گیارھواں گھر سیارہ زہرہ کا اپنا گھر ہو اور زہرہ اپنے گھر میں ہو یا دوسرے گھر میں قمر و مشتری کا قران ہو یا زہرہ دسویں گھر شرف کے گھر میں ہو تو یہ بہت مال و دولت کے حصول کی طرف اشارہ ہے اگر دوسرے گھر نحس سیارہ/ سیارگان قابض ہوں اور ان کے نحس نظرات شمس یا قمر کیساتھ ہوں یا دوسرے گھر کے سیارہ/ سیارگان کے کسی سیارہ/ سیارگان سے نحس نظر ہو تو یہ مالی پوزیشن میں سخت قسم کی متواتر رکاوٹوں اور بحران کی نشاندہی ہے۔

قارئین کرام! زائچہ کے دوسرے گھر میں جو سیارہ ہوتا ہے وہ اپنی فطرت کے مطابق اسباب مہیا کرتا ہے اگر شمس دوسرے گھر میں ہو تو قابلیت سے آمدن میں اضافہ کیساتھ فضول خرچی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اگر زائچہ کے دوسرے گھر میں مریخ ہو تو اچھی آمدنی کے ذرائع کی نشاندہی ہے زیادہ امکانات مشینری، صنعت ذرائع سے فائدہ دے گا لیکن زائد اخراجات بھی لائے گا اگر زحل زائچہ کے دوسرے گھر میں ہو تو اسے ساڑھ ستی کا آخری ڈھائی سالہ دور کہتے ہیں یہ خوش بختی کے برعکس حالات لاتا ہے لیکن میری تحقیق اور تجربہ میں آیا ہے کہ اگر زائچہ کا دوسرا گھر زحل کے شرف یا اوج یا ذاتی گھر ہو تو پراپرٹی (زمین۔ مکان، گھر) میں فائدہ دیتا ہے بالخصوص جب زحل کی دیگر سیارہ/ سیارگان سے سعد نظرات ہوں اور زحل کیساتھ ان کے نحس نظرات نہ ہوں۔

یورینس اگر زائچہ کے دوسرے گھر میں ہو تو یہ غیر متوقع مالی حالات کی نشاندہی ہے اگر نیپچون زائچہ کے دوسرے گھر میں ہو تو مالی امور میں دھوکہ بالخصوص جب اسکے دیگر سیارہ/ سیارگان سے نحس نظر ہو۔ مالی امور میں دھوکہ اور مشکلات کیساتھ ساتھ قانونی گرفت میں آنے کی طرف نشاندہی ہے اور اگر دوسرے سیارہ/ سیارگان سے سعد نظرات ہوں تو رشوت وغیرہ کے ذریعے مال و دولت لاتا ہے تجربہ میں آیا ہے کہ اگر نیپچون دوسرے گھر میں سعد ہو اور اسکے دیگر سیارہ/ سیارگان سے سعد نظرات ہوں تو سمندری سفر (شپ) اور تعلیمی اداروں میں کامیابی لاتا ہے۔ سیارہ زہرہ اگر دوسرے گھر میں ہو تو دوسروں بالخصوص جنس مخالف سے مالی فائدہ ملنے کی نشاندہی ہے۔ راہو یا کیتو دوسرے گھر میں مالی مشکلات کی نشاندہی

کرتے ہیں قسمت میں غیر متوقع تبدیلیاں لاتے ہیں۔

مردانہ زائچہ میں سیارہ قمر کے نظرات اور عورت کے زائچہ میں شمس کے نظرات کو مدنظر رکھا جاتا ہے۔ میری ذاتی تحقیق اور تجربہ ہے کہ ہر دو زائچہ میں شمس اور قمر دونوں کے دیگر سیارگان کیساتھ نظرات کو مدنظر رکھنا چاہیے اگر شمس یا قمر کی سیارہ مشتری کیساتھ سعد نظر ہو تو مال و دولت کی فروانی کی نشاندہی ہے اور اگر نحس ہوں تو یہ بدقسمتی، مالی نقصانات، دوسروں سے دھوکہ، مالی نقصانات بالخصوص اگر کسی عورت کے زائچہ میں شمس کی مشتری سے نحس نظر ہو تو اس عورت کے مالی امور میں بدقسمت خاوند کی نشاندہی ہے اور اگر زائچہ میں قمر و مشتری کی آپس میں نحس نظر ہو تو زائچے کے حامل کا رجحان جوا اور لاٹری کی طرف ہوگا اور وہ اپنا بہت نقصان کرے گا اگر زائچہ میں شمس و قمر کی آپس میں سعد نظر ہو تو یہ بہت اچھی علامت ہے اور اگر ان سیارگان کی آپس میں نحس نظر ہو تو یہ بدقسمتی کی علامت ہے ایسا انسان بھنور میں پھنسا رہتا ہے۔

آخر میں ہر سال کی طرح گزارش ہے کہ ہر جمعرات کو عصر کے بعد سے لیکر جمعہ کے غروب آفتاب تک کسی بھی وقت قربۃً الی اللہ کی نیت سے اول و آخر 18-18 مرتبہ درود پاک کیساتھ ایک مرتبہ حدیث مبارکہ کساء کی تلاوت ضرور کریں اور قربۃً الی اللہ کی نیت سے غریب سادات کو ہدیہ کریں اور غریب غیر سادات کو صدقہ دیتے رہیں۔ اپنی دعاؤں میں امامیہ جنتری کے سرپرست، منتظمین تمام مومنین و مومنات مجھے اور میری فیملی سمیت سب کو یاد رکھیں۔ والسلام دعا گو طالب جاوید جمالی علاوی

حصول رشتہ کے لیے: چاندی کی گیارہ سے بیس کے درمیانی جمعہ کو بعد نماز عصر درج ذیل آیات زعفران سے لکھ کر پاس رکھے اور دھو کر پیئے تو اسکی شادی ہوجائے گی نیز تاحیات فروانی رزق کے لیے مجرب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ

أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ

خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ

نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ۝ (سورۂ طٰہٰ: ۱۳۱-۱۳۲)

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی شادی کے لیے سورۂ قصص کی یہ آیت تلاوت کی تھی کہ ان کی شادی ہوگئی لہذا مرد اپنے اور عورت اپنے لیے پڑھ سکتی ہے

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ۝

اگر کسی کا بخت باندھ دیا گیا ہو تو اس طلسم کو لکھے اور ہر روز اس پر نگاہ ڈالے

٥٢٨١١ ح ٩٩٠٩٩٩٩٩١١١١٩ داح طاح

دنیا و آخرت کی بعض پریشانیوں کا حل

حضرت امام حسینؑ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حاجات کی قبولیت کے لیے 7 روز یہ اذکار 1000 مرتبہ پڑھے تو حاجات پوری ہوجائے گی۔

بروز ہفتہ	یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ
بروز اتوار	اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ
بروز پیر	سُبْحَانَ اللّٰہِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ
بروز منگل	یَا اَللّٰہُ یَا رَحْمٰنُ
بروز بدھ	حَسْبِیَ اللّٰہُ وَنِعْمَ الْوَکِیْلُ
بروز جمعرات	یَا غَفُوْرُ یَا رَحِیْمُ
بروز جمعہ	یَا ذَالْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ

◉ علماء فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنے کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے دو رکعت نماز حاجات پڑھے (نماز فجر کی طرح) اور پھر 1047 مرتبہ

مَا شَاءَ اللّٰہُ لَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ

پڑھ کر اسکا ثواب حضرت امام محمد تقیؑ کی مقدس روح کو ہدیہ کرے تو امام محمد تقیؑ اس دعا کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرینگے اور وہ دعا ان شاء اللہ قبول ہوگی

◉ 41 دن تک روزانہ نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نماز حاجت ادا کرکے کہے اَمَّنْ یُّجِیْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاہُ وَیَکْشِفُ السُّوْٓءَ پھر 3 مرتبہ کہے یَارَبِّ پھر ایک مرتبہ یَا عَبَّاسَ ابْنَ عَلِیِّ ابْنِ اَبِیْ طَالِبٍ پھر کہے اَلْاَمَانُ اور 3 مرتبہ کہے اَدْرِکْنِیْ پھر اس جملے کو اتنی مرتبہ تکرار کرے کہ سانس قطع ہوجائے اور پھر اپنی حاجت طلب کرے 41 روز تک یہ عمل کرنے کے دوران ہی ان شاء اللہ اسکی یہ حاجت پوری ہوگی اور حاجت پوری ہونے کے بعد بھی اس عمل کو دہرائے۔

◉ تمام حاجات کی قبولیت کے لئے 15 روز تک روزانہ 1780 مرتبہ پڑھے وَاُفَوِّضُ اَمْرِیْٓ اِلَی اللّٰہِ اِنَّ اللّٰہَ بَصِیْرٌۢ بِالْعِبَادِ

اگر 15 روز میں حاجت پوری نہ ہو تو اس عمل کو 40 روز تک کرے۔ ان شاء اللہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔

شادی کب ہوگی؟ کیسی رہے گی؟ کیوں ٹوٹی؟

تحریر و تحقیق
غلام رضا عسکری اعوان
[illegible] کراچی
0300-3210024
0333-7014915

قارئین امامیہ جنتری اسلام وعلیکم و یا علی مدد۔ شادی ۔ اس دور میں معمہ بنتی جارہی ہے جن کی بھی ہوتی انکا سوال کب ہوگی، دوسرا سوال کیسی رہے گی، اور جن کی شادی ناکام ہو جاتی ہے انکا سوال ہوتا ہے کیوں ناکام ہوئی۔ مہذب معاشرے میں شادی دو زندگیوں کا نہیں دو خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ اور شادی شدہ جوڑے کی زندگی کے حالات کا دارومدار دونوں خاندانوں پر مثبت یا منفی دونوں صورتوں سے پڑتا ہے۔ گذشتہ سولہ سال سے علوم مخفیہ سے منسلک ہوتے ہوئے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمارے یہاں شادی بس ایک فرض سمجھ کر کی جاتی ہے اچھی ازدواجی زندگی کی کوشش رشتوں کی چھان پھٹک اور دیگر معاشرتی ضروری کاروائیاں بھی بعض افراد بیٹی یا بیٹے کے رشتے کے لئے ضروری نہیں سمجھتے، ایسے افراد نجوم یا علوم مخفیہ کا سہارا لیں یہ سوچنا بیکار ہوگا۔ قارئین استخارہ اور علم دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے ذاتی طور پر تحقیق کریں آپکی اولاد کے بہترین مستقبل کے لئے احسن قدم ہوگا۔

شادی کب ہوگی ؟ آپ سب قارئین جنتری کے لئے ہندی نجوم کا ایک کلیہ پیش کررہا ہوں جس سے آپ جان سکیں گے کہ آپ کی شادی کب ہوگی۔ یہاں یہ واضح کرتا چلوں کہ ایک حسابی عمل ہے جس کا درست ہونے کا دارومدار آپکی درست تاریخ پیدائش اور درست وقت پیدائش پر منحصر ہوتا ہے۔ کلیہ کچھ اسطرح سے ہے۔ اپنا زائچہ بنوائیں اور ستاروں کی پوزیشن کو مدنظر رکھیں۔ زائچہ میں بارہ گھر ہوتے ہیں۔ شادی کے معاملات میں چار گھروں کی بہت اہمیت ہوتی ہے اور اسکے ساتھ ہی تو سارا زائچہ کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ شادی اور شادی کے بعد کے حالات آپکے نکاح کے وقت اور درست تاریخ پر منحصر ہوتے ہیں۔ میرے ذاتی مشاہدے میں ایسے کئی کیسز ہیں جنکی شادی محض اس وجہ سے ناکام ہوتی ہے کہ انکے نکاح کا وقت درست نہیں ہوتا۔ اگر کسی صاحب سے کہہ دیا جائے کہ نکاح کی تاریخ غلط تھی تو جواب ملتا ہے سعد دن تھا اور اس دن معصومینؑ میں سے کسی امام کی ولادت یا خوشی تھی تو ہم نے شادی کرلی۔ دن سعد ضرور ہوتا ہے ستارے سعد ہیں یا نہیں اس کا اندازہ کسی صاحب کو نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے زائچے کے مطابق آپکی شادی ان ادوار میں نہیں ہوتی تو یہ یقین کرلیں کہ کچھ خرابی ستاروں کی ہے جسکی وجہ سے معاملات خراب ہیں۔

شادی اور **روایتی مولوی ملاں** اور علم الاعداد والوں سے اکثر والدین بچے بچیوں کی شادی میں تاخیر کی وجہ سے روایتی مولوی ملاں حضرات کا شکار بنتے ہیں جنکا جواب بندش اور شادی کو باندھ دیا گیا یا علم عملیات کی وجہ سے شادی کا نا ہونا ہے۔ یاد رکھیں شادی میں تاخیر کے 95% کیسز میں ستاروں کا عمل دخل ہوتا ہے کوئی جادو یا بندش نہیں ہوتی

شادی کا فطری وقت زائچے سے پتہ چلتا ہے۔ ہر ستارے کا بالغ ہونے یا MATURITY کا وقت الگ ہوتا ہے اگر آپکا برج اسد ستارہ شمس ہے تو 22 سال کی عمر، اگر برج ثور اور میزان ستارہ زہرہ ہے تو 24 سے 25 سال کی عمر، اگر برج جوزا یا سنبلہ ستارہ عطارد ہے تو 31 سے 32 سال کی عمر، اگر برج سرطان ستارہ قمر ہے تو 23 سے 24 سال کی عمر، اگر برج حمل یا عقرب ستارہ مریخ ہے تو 27 سے 28 سال کی عمر، اگر برج جدی یا دلو ستارہ زحل ہے تو 32 سے 35 سال کی عمر، اگر برج قوس یا حوت ستارہ مشتری ہے تو 23 سے 25 سال کی عمر میں فطری طور پر آپکے ستارے کی شادی کا دور ہوتا ہے۔ ان ستاروں میں سے دو ستارے کسی بھی مرد یا عورت کے زائچے میں شادی کے لحاظ سے اپنے اثرات دیتے ہیں پہلے گھر اور زائچے کے ساتویں شادی کے گھر کا ستارہ دونوں ستارے اگر سعد ہیں اور زائچہ ولادت میں کسی بھی نحس ستارے کی نظر سے پاک ہیں تو لڑکے یا لڑکی کی شادی میں کسی قسم کی نہ تو رکاوٹ آتی ہے نہ ہی تاخیر ہوتی ہے۔ اور ستارے کی فطری بلوغت کے اوقات میں شادی ہوجاتی ہے۔

مریخ اور زحل شادی میں تاخیر رکاوٹ اور طلاق کا سبب بنتے ہیں

زہرہ اور عطارد نحس ہوں تو کردار میں خرابی فحاشی یا غلط تعلقات کی وجہ سے شادی میں ناکامی یا تاخیر واقع ہوتی ہے۔

شمس نحس ہو تو ازدواجی زندگی میں عزت وقار میں کمی اور بدقسمتی لاتا ہے

قمر کی نحوست ازدواجی زندگی میں عدم تحفظات اور حساسیت کے ساتھ وہم وسوسے اور شکوک وشبہات کی وجہ سے شادی میں ناکامیاں سامنے آتی ہیں۔

راہو اور کیتو اگر زائچہ میں پہلے ساتویں یا دوسرے آٹھویں یا چھٹے گیارہویں گھروں میں نحس ستاروں کے ساتھ موجود ہوں تو شریک

ساجد بک ڈپو اردو بازار سرگودھا
محمد بک ڈپو ... بازار جھنگ صدر

حیات کو مزمن امراض لاحق ہو سکتے ہیں اولاد کا نا ہونا اور صحت کی مسلسل خرابی ازدواجی زندگی کو تلخ کر دیتی ہے۔ درج بالا نجومی اشارے شادی کی تاخیر یا نا ہونے کے اسباب میں سے 10% سے بھی کم اسباب ہیں۔ انتہائی مختصر ورنہ صرف شادی کی رکاوٹوں پر باقاعدہ 150 سے زائد صفحات پر مشتمل کتاب لکھی جا سکتی ہے۔

حل بذریعہ صدقات محترم آغا افتخار صاحب سے کئی افراد میرے بارے میں مہنگا صدقہ کروانے کی شکایات کرتے ہیں۔ قارئین شادی بیاہ میں غیر ضروری اخراجات بہت ہوتے ہیں ایک عام سی دلہن کے عروسی لباس اور پارلر کا خرچ 25 سے 50 ہزار تک ہو جاتا ہے یہ ایک مڈل کلاس میں انتہائی نچلے درجہ کا خرچ بتا رہا ہوں۔ اب اگر والدین کو ضروری صدقات بتا دیں تو جواب آتا ہے اتنے صدقات ہم تو نہیں کر سکتے۔ اگر آپکی بیٹی یا بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی تو بہتر ہے کہ آپ مکمل زائچہ بنا کر ستاروں کی رکاوٹوں کا سدباب کریں۔ اگر نہیں زائچہ بنانا تو دو صدقات بتاتا ہوں

کالا نمک اور لاہوری یا سرخ نمک

(یہ صدقہ آپ بنا تشخیص کے بھی دے سکتے ہیں) اپنے وزن کے مطابق لیں لاہوری نمک 7 سے 10 روپے کلو ملتا ہے اگر آپکا وزن ساٹھ کلو ہے تو چار سو بیس روپے کا خرچ اور کالا نمک 30 سے 40 روپے کلو ملتا ہے جو کہ 2500 کے قریب کا صدقہ بنتا ہے۔ ایک کالا مرغا صدقہ کے لئے آپکو آٹھ سو ہزار سے کم نہیں ملتا تو یہ صدقات آپکو مہنگے نہیں پڑیں گے۔ انتہائی مہنگا اور مجرب صدقہ منگل کا یا زحل کی نحوست کی صورت میں گائے کا صدقہ ہوتا ہے جو کہ آپکو 25 سے 30 ہزار کا پڑ سکتا ہے۔ صرف شادی کے اخراجات میں تھوڑی سی کمی اور مناسب صدقات آپکی بیٹی اولاد کا مستقبل محفوظ بنا سکتے ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ازدواجی زندگی میں بندھنے والے جوڑے کے **زائچے بنا کر ستارے ملانا** احسن ترین طریقہ ہے۔ اکثر شادیوں کی ناکامی ذہنی ودل کی ہم آہنگی کا نہ ہونا ہے۔

شادی کا متبرک وقت یا مہورت نکال کر نکاح سر انجام دینا معقول ہے اور یقینی خوشیاں ازدواجی زندگی میں ملنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ یہ کوئی مہنگا طریقہ نہیں ہے 3000 سے پانچ ہزار میں دونوں افراد کے زائچے بنا کر آپکو نکاح کا معقول اور ستاروں کی نحوست سے پاک وقت آپکی اولاد کی تا حیات ازدواجی خوشیوں کا ضامن ہوتا ہے۔ عمومی طور پر اگر لڑکیوں کے رشتے نہ آ رہے ہوں یا لڑکوں کی یا لڑکوں کی بات نہ بن رہی ہو تو درج ذیل نقوش آپ استعمال کروا سکتے ہیں

Spica برج سنبلہ کے 28.50 درجہ پر موجود یہ جامد ستارہ اپنے اندر تسخیر کی بے پناہ قوت رکھتا ہے ایسے افراد بچے یا بچیاں جنکے رشتے نہیں آتے یا رشتہ دیکھ کر جواب نہیں آتا یا خاندان یا ملنے جلنے والوں کی جانب سے بچے بچیوں کے رشتہ کی نوید نا ملے تو انہیں استعمال کروایا جائے Spica کا یہ نقش کاروباری اور عوام عامہ سے منسلک فیلڈ ورک کے کاموں یا عام دکاندار حضرات کے لئے بھی تسخیر کا بہترین کام کرتا ہے۔

Regulas برج اسد کے 04.50 درجات پر موجود یہ جامد ستارہ اثرات نظر بد یا آسیبی کیفیات کی وجہ سے شادی بیاہ میں تاخیر ہو یا کسی پر عملیات کے بد اثرات ہوں تو ریگولس کا نقش مریخ کے شرف کے ساتھ استعمال کریں

Algol جو کہ 01:10 درجہ برج ثور میں موجود ہے اثرات نظر بد حسد کی وجوہات پر شادی کی رکاوٹ ہو تو الغول کا نقش بھی استعمال کیا جا سکتا ہے خصوصاً اگر برج ثور سے منسلک لڑکے اور لڑکیوں کی شادی میں رکاوٹ ہو تو یہ نقش طلسم استعمال کیا جا سکتا ہے

Sirius برج جوزا کے 19.05 درجات پر موجود یہ جامد ستارہ شہرت اور عزت کے حوالے سے دیرپا اثرات رکھتا ہے۔ جوزا قوس والوں کے لئے شادی کی رکاوٹ ہو تو یہ نقش استعمال کریں۔ سائرس کے عجیب و غریب اثرات ہیں جدید نجوم میں جامد ستاروں کے حوالہ سے لکھی جانے والی کتب میں ان ستاروں کے خواص پر اگر مضمون لکھا جائے تو کم و بیش دو سے تین صفحات پر مشتمل ہونگے۔

فم السماک برج دلو کے 23.50 درجات پر موجود یہ ستارہ روحانیت تسخیر اور شہرت کے ساتھ ساتھ بندش اور رکاوٹوں کو دور کرنے کی بے پناہ صلاحیت کا حامل یہ ستارہ آج کل راہو کیتو کے زیر اثر آ رہا ہے۔ اس سال قوس جدی دلو اسد سرطان سنبلہ لڑکے لڑکیاں زحل کی نحوستوں کا براہ راست شکار ہونگے جبکہ راہو کیتو بھی براہ راست اسد اور دلو والوں کی صحت اور دیگر معاملات میں خرابیاں پیدا کریں گے۔ تاہم مشتری کی سعادت عقرب اور قوس والوں کی شادی بیاہ میں معاون ثابت ہوگی۔ جامد ستاروں پر دیگر جنتریوں میں کچھ خاص کام نہیں کیا گیا یہ اعزاز امامیہ جنتری کو حاصل ہے جسکے طفیل آپ تک مختصر لیکن مفید معلومات پہنچائی جا رہی ہیں۔

قارئین امامیہ جنتری کے ان صفحات پر علم نجوم سیکھنے کے حوالہ سے آپ کی جانب سے پذیرائی اور در اہلبیتؑ سے ملا ہوا یہ علم ہر سیکھنے والے کے لئے آسان کرتے ہوئے YOUTUBE پر ہر ہفتہ بذریعہ ویڈیو علم نجوم اور روحانیت پر اسباق جاری کئے جائیں گے۔ نجوم سیکھنے کے خواہش مند افراد

یوٹیوب چینل کو دیکھیں اور نجوم کے ساتھ نقوش روحانی علوم اور فلسفہ تشخیص درجہ بدرجہ ویڈیو کے ذریعہ آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ اسکے علاوہ ہر ماہ کی نظرات سیارگان اور سعد اوقات بھی بذریعہ یوٹیوب آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ YOUTUBE پر جائیں ACCUASTROLOGY سرچ کریں اور SUBSCRIBED کریں ہر آنے والی ویڈیو کا پیغام آپکے ای میل پر آجائیگا۔ علم سے منسلک رہیں اور اپنے معاملات زندگی کو آسان بنائیں۔ قبلہ آغا افتخار حسین اور بانیان جنتری کے لیے دعا گو ہوں میرے ایک جملے سے کسی کی بھلائی ہو تو مجھے دعا ضرور دیجئے گا۔

www.accuastrology.com

Astrology Solutions
Gems Therapy
Talismans Soutions
Pendulum Healing
Astrology Articles
Horaray Astrology
Talisman Events

Natal Horoscope Match Making Mahurat Election Astrology Yearly Predictions and much moor . Clicik for our services

www.accuastrology.com
Email info@accuastrology.com
Raza Askri . Ph0092-3003210024- 0333-7014915

آسان اردو میں مکمل
ویب سائٹ وزٹ کریں

WWW.ACCUASTRO.COM

ماہانہ وسالانہ زائچے، ستاروں کی نحوست وسعادت اور [illegible] کے ساتھ جائیں مسائل کا حل۔ نوروز وعالمی حالات، نجوم سیکھنے والوں کے لیے اسباق، اعداد و دست شناسی پر مکمل مضامین اور رمل پر سیر حاصل مضامین، نجوم وجفر پر سافٹ ویئرز ڈاؤن لوڈنگ اور تحقیقی مواد کیساتھ سیکھئے نقوش اور عملیات کا فن، نجوم وجفر و اعداد کے شائقین آن لائن علوم مخفیہ سیکھیں

ماہانہ میگزین جفر نجف کا آن لائن مطالعہ کریں

Www.accuastro.com

Accuastro@skype.com Accuastro@facebook.com

غلام رضا عسکری اعوان، نواب شاہ۔ کراچی پاکستان
0092-300-3210024, 0092-333-7014915

جدول ایام ہفتہ

بروز جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے مبارک ہے واسطے ترویج اور نکاح کے۔ نماز جمعہ سے قبل سفر کرنا مکروہ ہے۔ ساعت اول میں بعد نماز صبح 256 مرتبہ یا نُورُ پڑھے تو چشم خلائق میں عزیز ہوگا اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو بوقت شب 2 رکعت نماز پڑھ کر یا نُورُ 256 مرتبہ پڑھے تو ممکن ہے خواب میں معلوم ہو جائے کہ چور کون ہے۔

شنبہ (ہفتہ) سب کاموں کے واسطے خوب ہے خصوصاً سفر کے لیے بعد نماز صبح 1060 مرتبہ یا غنیُ پڑھے گا تو بارگاہ خداوندی سے بے حد مال مرحمت ہوگا۔

یکشنبہ (اتوار) عمارت بنانے اور شادی کرنے کے لیے خوب ہے اکثر کاموں کے لیے میانہ ہے بعد نماز صبح ساعت اول میں یا فَتّاحُ 489 مرتبہ پڑھے تو فتح و نصرت حاصل ہو۔

دوشنبہ (پیر) نحس ترین یوم ہے کسی کام کے لیے مبارک نہیں ہے اگر ساعت اول میں نماز صبح کے بعد 129 مرتبہ یا لَطِیفُ پڑھے تو باری تعالیٰ اپنی رحمت سے مال عطا فرمائے گا۔

سہ شنبہ (منگل) میانہ ہے اکثر کاموں کے واسطے سفر کے لیے خوب ہے اس روز نیا لباس پہننا خوب ہے حاجت طلب کرنے کے لیے خوب ہے اگر ساعت اول میں بعد نماز صبح 903 مرتبہ یا قَابِضُ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی خواہش ہوگی۔

چہار شنبہ (بدھ) اکثر کاموں کے واسطے شائستہ نہیں ہے تعمیر مکان کے لیے نیک ہے بعد نماز صبح ساعت اول میں اگر یا مُتَعالُ 541 مرتبہ پڑھے تو عزت دنیا و آخرت حاصل ہو۔

پنجشنبہ (جمعرات) مبارک ہے سب کاموں کے لیے خوب ہے خصوصاً طلب حاجت اور سفر کے واسطے اگر ساعت اول میں بعد نماز فجر یا رَزّاقُ 308 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ بے حد مال عطا فرمائے گا۔

جائز محبت کا انتہائی مؤثر عمل

سیدہ ارم زہرا (اٹک)
0321-5702541, 0301-7899755

روزمرہ زندگی میں مختلف مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ مثلاً قرض، افلاس/غربت، بیکاری، روزگاری، ازدواجی مسائل، شادی بیاہ، میاں بیوی کی ناچاقی، باہمی لڑائی جھگڑا، زبان درازی، مارکٹائی، فریقین کی بے راہ روی، اولاد کا نہ ہونا، اولاد کی نافرمانی، تعلیم سے فرار، جوان لڑکے لڑکیوں کی شادی وغیرہ۔ بسیار مسائل انسان ایسے پریشان کن حالات سے لاچار و بے قرار ہے۔ فرمان رب العزت ہے۔

لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین

تمام مشکلات، امراض و حاجات کا حل قرآن مجید ہے۔ اس دور میں میاں بیوی کی ناچاقی محبت کی جگہ نفرت اکثر اوقات نوبت بہ طلاق پہنچ جاتی ہے۔ خاندان کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں لہٰذا میاں بیوی کی باہمی محبت کا ایک نایاب عمل قارئین امامیہ تقویم 2019 استفادہ پیش کر رہی ہوں۔ ذوالکتابت نقش آیت 39 سورۃ طٰہٰ پارہ نمبر 16۔ نیز مطلوب معہ والدہ کے اعداد مطابق

شرائط و ہدایات:

☆ صرف اپنی ذات کیلئے تیار کر سکتے ہیں۔ ☆ حروف ابجد کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہو۔ ☆ زعفران و عرق گلاب اور کاہی یا سرکنڈا کے قلم سے لکھیں ☆ جسم و لباس پاک ہو۔ ☆ متعلقہ ستارہ کا جس کی ساعت ہو بخور جلائیں

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شمکائیل جبرائیل شفقیائیل

وألقيت عليك	محبة مني	ولتصنع	على عيني
۵۴۷	۱۵۵	۶۴۶	۱۴۰
۶۴۷	۱۳۹	۵۴۸	۱۵۴
۱۳۸	۶۴۴	۱۵۷	۵۴۹
۱۵۶	۵۵۰	۱۳۷	۶۴۵

نقطائیل میکائیل لوبیائیل

الحب فلاں بن/بنت فلاں الی حب فلاں بن/بنت فلاں

لوح شفائے امراض

محمد اسد اللہ سلیمانی ادارہ روحانی علاج
محلہ الٰہی بخش کالونی مین بازار نزد برف والا کارخانہ جھنگ
0300-6501194

اگر کوئی مرد یا عورت کسی مرض میں مبتلا ہو یعنی شوگر، کینسر، اختلاج قلب، خونی و بادی بواسیر، بخار، فالج و لقوہ، اولاد کا نہ ہونا، بانجھ پن، مرگی، موٹاپا، یرقان، بلڈ پریشر، ہیپاٹائٹس بی و سی کے علاوہ مہلک سے مہلک بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کیلئے اس لوح شفائے امراض کو سفید کاغذ پر زعفرانی سیاہی سے لکھ کر یا چاندی پر کندہ کر کے پاس رکھیں اور روزانہ 110 مرتبہ پڑھیں

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یَا سَلَامُ یَا سَلَامُ یَا سَلَامُ
یَا شَافِیُ یَا شَافِیُ یَا شَافِیُ یَا بَدِیْعُ یَا بَدِیْعُ یَا بَدِیْعُ
یَا رَحِیْمُ یَا رَحِیْمُ یَا رَحِیْمُ یَا مُغِیْثُ یَا مُغِیْثُ یَا مُغِیْثُ
یَا مُحَمَّدُ یَا فَاطِمَۃُ یَا عَلِیُّ یَا حَسَنُ یَا حُسَیْنُ بِحَقِّ
لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ وَ بِحَقِّ یَا جِبْرَائِیْلُ
یَا مِیْکَائِیْلُ یَا اِسْرَافِیْلُ یَا عِزْرَائِیْلُ یَا دَرْدَائِیْلُ بِرَحْمَتِكَ
یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ

اور (اوّل و آخر 11-11 مرتبہ درود ابراہیمی) پڑھ کر شہد پر دم کر کے پانی میں گھول کر پی لیں۔ انشاء اللہ جو بھی مرض ہو گا جلد از جلد شفاء ملے گی۔ آزمائش شرط ہے۔

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

شافی رحیم حفیظ	سلام کریم رحمٰن	لا الہ الا اللہ	محمد رسول اللہ
محمد رسول اللہ	لا الہ الا اللہ	سلام کریم رحمٰن	شافی رحیم حفیظ
سلام کریم رحمٰن	شافی رحیم حفیظ	محمد رسول اللہ	لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ	محمد رسول اللہ	شافی رحیم حفیظ	سلام کریم رحمٰن

فاطمہ علی حسن حسین

جبرائیلؑ میکائیلؑ اسرافیلؑ عزرائیلؑ

حجر القمر (Moon Stone)

حکیم مظفر علی رضوی
المعروف جوہرے
0300-4519796

اس کو عربی میں حجر القمر اور انگریزی میں مون سٹون کہتے ہیں اسے مختلف زبانوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ مثلاً چندر کانت، اللہ نور وغیرہ اس پتھر کا چاند سے گہرا تعلق ہے اس لیے اس پر چاند کا ایک حلقہ سا بنتا ہے جواہرات پر تحقیق کرنے والے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ حجر القمر کی عمر ڈھائی سے 3 ارب سال تک ہے عقاب اپنے بچوں کی آنکھوں کو کھولنے میں مدد دینے کے لیے گھونسلوں میں رکھتے ہیں۔

مقام پیدائش حجر القمر دنیا کے کئی ممالک مثلاً بھارت، عرب کے پہاڑی علاقے تنزانیہ، مقدونیہ میں پایا جاتا ہے مگر سب سے اچھا سری لنکا میں دستیاب ہے۔ **اجزائے ترکیبی** پوٹاس، ایلومینیم، سیلیکا کا مرکب ہے **سحری خواص** روزگار کے ذرائع اور ترقی میں معاون ہے دماغ کی پرتوں کو کھولتا ہے۔ پڑھنے والے بچوں اور بڑوں کی ذہانت میں اضافہ کرتا ہے اس کا استعمال مثبت سوچ کو جنم دیتا ہے۔ اس کو درخت پر باندھنے سے پھل زیادہ آتا ہے اس کا پہننا خوش بختی کی علامت ہے۔ اسکو پہننے سے زندگی پر مسرت اور خوشگوار گزرتی ہے۔ اسکا پہننا ذہن میں وجدانی کیفیت کو جنم دیتا ہے۔ **طبی خواص** حجر القمر کا مزاج سرد خشک ہے اس کو صرع میں لینا فائدہ مند ہے۔ جنون کی کیفیت میں اسکا طبی طریق پر استعمال بے حد فائدہ مند ہے۔ خفقان کے مرض میں اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے اس کا استعمال حافظے کو مضبوط اور روحانی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ نسیان میں فائدہ مند ہے۔ مالیخولیا کی شکایت بھی اس سے رفع ہو جاتی ہے۔

آپ کا معاون و مبارک نگینہ

(نگینوں کا تعلق راس کے ساتھ) بحوالہ کرشمہ قدرت مولفہ ہمایوں مرزا لکھنوی

برج	ستارہ	رنگ	متعلق نگینہ	برج	ستارہ	رنگ	متعلق نگینہ
حمل۔ میکھ	مریخ	سرخ	ہیرا، مونگا، یاقوت، عقیق یمنی، اوپل	میزان۔ تلا	زہرہ	سفید سیاہی مائل	مرجان، ہیرا، پکھراج، دُرِ نجف، لہسنیہ
ثور۔ برکھ	زہرہ	سفید	مرجان سرخ، ہیرا، دُرِ نجف، موتی	عقرب۔ برچھک	مریخ	سرخ	ہیرا، یاقوت، مونگا، عقیق
جوزا۔ متھن	عطارد	سرخی مائل	پکھراج، زمرد، زبرجد	قوس۔ دھن	مشتری	زرد	فیروزہ، پکھراج زرد، لہسنیہ، زمرد
سرطان۔ کرک	قمر	سفید	نیلم، حجر القمر، عقیق زرد، پکھراج زرد، لہسنیہ	جدی۔ مکر	زحل	سیاہ نیلا	موتی، نیلم، عقیق یمنی، دُرِ نجف
اسد۔ سنگھ	شمس	نارنجی	نیلم، مرجان، عقیق، یاقوت	دلو۔ کمبھ	زحل	نیلا سیاہ	عقیق سرخ، نیلم
سنبلہ۔ کنیا	عطارد	سفید	عقیق زرد، زبرجد، اوپل	حوت۔ مین	مشتری	زرد پیازی	پکھراج سفید، دُرِ نجف

احکام قربانی قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے قربانی دسویں گیارہویں اور بارہویں کو بھی ہو سکتی ہے ☆ قربانی کیلئے اونٹ، گائے، بھیڑ، بکرا ہونا چاہیے۔
☆ اونٹ اور گائے کی قربانی مادہ ہونی چاہیے بھیڑ بکرا دنبہ ہو تو نر سنت ہے۔ ☆ قربانی کی کھال بطورِ اجرت دینا جائز نہیں (فتویٰ)
☆ گھر میں پلے جانور کی قربانی مکروہ ہے ☆ ذبح کے بعد جانور کا حرکت کرنا ضروری ☆ ذبح کرنے والا مسلمان ہو

دعائے قربانی

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○ اِنِّیْ وَجَّھْتُ وَجْھِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا مُّسْلِمًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ اِنَّ صَلٰوتِیْ
وَنُسُکِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَبِذٰلِکَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ اَللّٰھُمَّ مِنْکَ وَلَکَ بِسْمِ اللّٰہِ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ

☆ اس کے بعد جانور کو ذبح کرنا شروع کرے اگر خود اکیلا قربانی دے رہا ہو تو یہ الفاظ کہے **اَللّٰھُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّیْ** اور اگر چند آدمیوں سے مل کر قربانی کی ہو تو **اَللّٰھُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا** کہے۔ ☆ اگر کسی دوسرے شخص کی طرف سے ہو تو **اَللّٰھُمَّ تَقَبَّلْ مِنْہُ** کہے اگر کئی دوسرے افراد کی طرف سے ہو تو **اَللّٰھُمَّ تَقَبَّلْ مِنْھُمْ** کہے۔ بہتر ہے کہ **مِنِّیْ۔ مِنَّا۔ مِنْہُ۔ مِنْھُمْ** کی جگہ ان لوگوں کا نام لیا جائے۔ بشکریہ زادِ صالحین (مؤلف شیخ سلطان محمود)

FR
CABLES
یقینی تحفظ بے خوف زندگی

کیا آپ اب بھی آگ سے کھیل رہے ہیں؟

زرا سوچیئے!!

آگ کا سب سے بڑا سبب **شارٹ سرکٹ**

PVC انسولیشن کیبل نہ صرف آگ لگنے کا سبب بنتی ہے بلکہ جلنے کے بعد اس کا زہریلا دھواں دم گھٹنے کا باعث بھی بنتا ہے۔
امریکہ، یورپ اور مشرق وسطی کے بعد **فائر ریزسٹنٹ پولیمر** سے تیار کردہ **FR Cables** اب پاکستان میں پہلی بار۔

950°C تک حرارت برداشت کرنے کی قوت ◉ آگ اور شارٹ سرکٹ سے محفوظ ◉ زہریلے دھوئیں سے محفوظ
◉ زیرو ہیلوجن میٹریل ◉ 99.99% فل گیج خالص کاپر ◉ بجلی کے بل میں یقینی بچت ◉ مصدقہ اداروں سے تصدیق شدہ

Pakistan's First Fire Resistant Cables

Spell Petrochemicals (Pvt) Ltd.
88-E-1, Model Town Lahore, Pakistan.
UAN: 042-111-177-355 Fax: 042-35884854
E-mail: frcables@spellgroup.com
Web: www.frcables.com

Emerging Brands of the Year Award

سید بابر حسین رضوی
0336-1105500 کلفٹن کراچی
0313-2009666

بروج اور اسمائے الٰہی

نوٹ: ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اور دیگر اوقات میں بکثرت ورد کریں۔

۷۸۶

برج حمل

سے تعلق رکھنے والے افراد کے وظائف

سلامتی کیلئے اسم الٰہی	یا سلام
روحانیات بڑھانے کیلئے	یا مہیمن
دعا کی قبولیت کے لئے	یا سمیع
حصول عزت و توقیر کیلئے	یا معز
کسی کو بلانے کے لئے	یا معید

کا ورد مفید ہوگا۔

۷۸۶

برج ثور

سے تعلق رکھنے والے افراد کے وظائف

ہر مقصد کے لئے	یا معطی یا اللہ
دولت مند ہونے کیلئے	یا غنی یا اللہ
علم حاصل کرنے کیلئے	یا علیم یا اللہ
شادی کے لئے	یا لطیف یا اللہ
محبت کے لئے	یا عزیز یا اللہ

کا ورد مفید ہوگا۔

۷۸۶

برج جوزا

سے تعلق رکھنے والے افراد کے وظائف

حفاظت دشمن و ہوائی آفت و بلا کیلئے	یا حفیظ یا اللہ
روحانیات بڑھانے کیلئے	یا باسط یا اللہ
استخارہ کے لئے	یا خبیر
آئندہ اچھا وقت لانے والے	یا مقدم یا اللہ
ہر مقصد کے لئے	یا مالک الملک

کا ورد مفید ہوگا۔

برج سرطان

سے تعلق رکھنے والے افراد کے وظائف

قرب الٰہی کیلئے	یا ذوالجلال والاکرام
امیر و کبیر ہونے کیلئے	یا مغنی
ہر مقصد کے لئے	یا صمد
بلندی و مرتبہ کے لئے	یا رافع
طاقت کے لئے	یا قوی

کا ورد مفید ہوگا۔

برج اسد

سے تعلق رکھنے والے افراد کے وظائف

اللہ کی نظر کرم حاصل کرنے کیلئے	یا رحمٰن
دشمن کی زبان بندی کیلئے	یا خافض
آنکھ و قلب کی روشنی کیلئے	یا نور
طاقت کے لئے	یا قوی
ترقی و عزت و مرتبہ کیلئے	یا واسع

کا ورد مفید ہوگا۔

برج سنبلہ

سے تعلق رکھنے والے افراد کے وظائف

ہر مقصد کے لئے	یا مالک الملک
ترقی کے لئے	یا مقدم یا اللہ
روحانیات بڑھانے کیلئے	یا قیوم یا اللہ
حصول رزق کے لئے	یا باسط یا اللہ
حفاظت دشمن و ہوائی آفت و بلا کیلئے	یا حفیظ یا اللہ

کا ورد مفید ہوگا۔

برج میزان

سے تعلق رکھنے والے افراد کے وظائف

محبت کے لئے	یا عزیز یا اللہ
شادی کے لئے	یا لطیف یا اللہ
علم حاصل کرنے کیلئے	یا علیم یا اللہ
دولت مند ہونے کیلئے	یا غنی یا اللہ
ہر مقصد کے لئے	یا معطی یا اللہ

کا ورد مفید ہوگا۔

برج عقرب

سے تعلق رکھنے والے افراد کے وظائف

دعا کی قبولیت کے لئے	یا سمیع
روحانیات بڑھانے کیلئے	یا مہیمن
سلامتی کیلئے اسم الٰہی	یا سلام
حصول عزت و توقیر کیلئے	یا معز
کسی کو بلانے کیلئے	یا معید

کا ورد مفید ہوگا۔

برج قوس

سے تعلق رکھنے والے افراد کے وظائف

بند کام کھولنے کیلئے	یا فتاح یا اللہ
محبت کے لئے	یا ودود یا اللہ
ہدایت حاصل کرنے کیلئے	یا ہادی یا اللہ
اسباب پیدا کرنے کے لئے	یا باعث یا اللہ
قرب الٰہی کے لئے	یا رحیم یا اللہ

کا ورد مفید ہوگا۔

برج جدی

سے تعلق رکھنے والے افراد کے وظائف

رزق کے لئے	یا رزاق
روکنے و بندش کے لئے	یا قابض
استخارہ کے لئے	یا خبیر
حاجت روائی کے لئے	یا وہاب
اولاد نرینہ کے لئے	یا وارث
توبہ کے لئے	یا غفار

برج دلو

سے تعلق رکھنے والے افراد کے وظائف

ہر مقصد کے لئے	یا وہاب
رزق کے لئے	یا رزاق
زبان بندی کیلئے	یا قابض
استخارہ کے لئے	یا خبیر
اولاد نرینہ کے لئے	یا وارث
توبہ کے لئے	یا غفار

برج حوت

سے تعلق رکھنے والے افراد کے وظائف

قرب الٰہی کیلئے	یا رحیم یا اللہ
اسباب پیدا کرنے کے لئے	یا باعث یا اللہ
ہدایت حاصل کرنے کیلئے	یا ہادی یا اللہ
محبت کے لئے	یا ودود یا اللہ
بند کام کھلنے کے لئے	یا فتاح یا اللہ

کا ورد مفید ہوگا۔

فالنامہ انبیاء علیہم السلام

جب کسی کو کوئی مشکل پیش آوے اور متردد ہو کہ اس امر میں کیا کرنا چاہیے تو نظر بخدا کر کے اس طریقہ پر فال دیکھے کہ باوضو ہو کر سورۂ فاتحہ اور سورۂ اخلاص اور آیۃ الکرسی مع اوّل و آخر درود شریف پڑھ کر آنکھیں بند کر کے کلمہ کی انگلی اوپر اسمائے شریف انبیاء علیہم السلام کے رکھ کر دیکھے۔

نقشہ اسماء

حضرت آدمؑ	حضرت شیثؑ	حضرت ادریسؑ	حضرت صالحؑ	حضرت ابراہیمؑ	حضرت اسمٰعیلؑ	حضرت یعقوبؑ	حضرت یوسفؑ
حضرت شعیبؑ	حضرت ایوبؑ	حضرت خضرؑ	حضرت داؤدؑ	حضرت سلیمانؑ	حضرت عیسیٰؑ	حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم	

فال حضرت آدم علیہ السلام: اے خداوند فال تجھ کو ایسے کام پیش آویں کہ خوش ہو جائے اور سب تیرے مطیع ہوں۔ فتوح غیب سے ہو۔

فال حضرت شیث علیہ السلام: اے خداوندا فال جو کوئی تیرا دشمن ہو اس پر فتحیاب ہو مگر چند روز صبر کر کہ اگر سفر کا ارادہ ہو چند روز کے بعد جانے پر آمادہ ہو۔ ابھی طالع میں نحوست ہے۔

فال حضرت ادریس علیہ السلام: اے صاحب فال اگر تجھ کو کچھ رنج ہو تو شاد ہو۔ اگر نکاح کی خواہش ہے عورت اچھی ملے، فرزند نرینہ پیدا ہو، اگر سفر کا ارادہ ہے تو سفر مبارک ہوگا اور جو کچھ مراد ہوگی خدا بر لائے گا۔

فال حضرت صالح علیہ السلام: اے خداوند فال اگر تجھ کو کچھ رنج ہو تو راحت نصیب ہوگی، اگر تیرا کوئی بیمار ہے تو شفا پائے گا۔ اگر تیرا کوئی غائب ہے تو حاضر ہوگا۔

فال حضرت ابراہیم علیہ السلام: اے خداوند فال جو نیت تیری ہو وہ مطلب برآئے (پورا ہو) اور کچھ خوشی دیکھے۔ صدقہ دیا کر۔

فال حضرت اسمٰعیل علیہ السلام: اے خداوند فال جو مشکل ہے حل ہو اور کلفت دور ہو، حاصل سرور ہو۔ ایک مینڈھا ذبح کر کے گوشت اس کا محتاجوں کو دے دے۔

فال حضرت یعقوب علیہ السلام: اے خداوند فال تیرے اوپر کچھ رنج اور محنت پہنچی ہے۔ لیکن چند روز صبر کر، اپنے اوپر جبر کر بعد چند روز کے خوشی ہوگی۔ اگر تیرا کوئی عزیز غائب ہے حاضر ہوگا اور تجھ سے ملے گا۔

فال حضرت یوسف علیہ السلام: اے خداوند فال کچھ تجھے رنج پہنچے گا اور بعد چند روز خوشی ہوگی۔ دشمنان مقہور ہوں گے اور دوستاں مسرور۔

فال حضرت شعیب علیہ السلام: اے خداوند فال اگر خواہش نکاح ہے تو زن جمیلہ اور فرزند نیک پیدا ہو اور جس چیز کو تیرا دل چاہے وہ مل جائے اور جو کام کرے اس کا انجام اچھا ہو۔

فال حضرت ایوب علیہ السلام: اے خداوند فال بعد تھوڑے دنوں کے تجھے رنج پہنچے گا۔ اگر صبر کرے گا تو غم جلد دور ہو جائے گا اگر غائب ہے۔ حاضر ہوگا

فال حضرت خضر علیہ السلام: اے خداوند فال خدائے تعالیٰ تجھ کو مال اور دولت عطا فرمائے اور تیری کھیتی اور باغ میں پیداوار اچھی ہو روزانہ محتاجوں کو دیا کر۔

فال حضرت داؤد علیہ السلام: اے خداوند فال تجھ کو غیب سے روزی ملے۔ حلال کے مال سے مالا مال ہو اور جب کبھی کوئی کام سخت پیش آوے تو حل ہو جائے۔ کچھ غم نہ کر خدا کو یاد کر۔

فال حضرت سلیمان علیہ السلام: اے خداوند فال یہ فال تیری مبارک ہے۔ سب کام تیرے پورے ہوں اور دشمن پامال ہو جائیں

فال حضرت عیسیٰ علیہ السلام: اے خداوند فال تجھ کو بشارت ہے کہ مراد تیری برآوے، دین اور دنیا کی نعمت ملے۔ مگر تجھ کو کچھ رنج نہ پہنچے گا۔ صدقہ دیا کر رنج دور ہوگا۔

فال حضرت محمد مصطفٰے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اے خداوند فال یہ فال بہت ہی نیک ہے۔ محبوب خلائق ہوگا۔ خوشی سے گزرے لوگ تیری عیب پوشی کریں۔ تیرے ساتھ نیکی سے پیش آئیں اور سب کے ساتھ تو نیکی کر تیرا انجام اچھا ہوگا۔ دین اور دنیا میں نیک نام ہوگا۔

ہر ماہ کی پیدائش سے نگینوں کا تعلق

بشکریہ: کرشمہ قدرت
مؤلفہ: ہمایوں مرزا لکھنوی

جنوری	گومیدک، یاقوت، لعل، عقیق سرخ
فروری	نیلم، لاجورد، حجر القمر
مارچ	فیروزہ، دُرِّ نجف، زبرجد
اپریل	ہیرا، نیلم، یاقوت، عقیق
مئی	زمرد، عقیق یمنی
جون	موتی، زمرد
جولائی	یاقوت، عقیق یمنی گہرا سرخ
اگست	مرجان، یاقوت، عقیق یمنی
ستمبر	نیلم، یاقوت، عقیق زرد
اکتوبر	اوپل، دُرِّ نجف، زبرجد
نومبر	پکھراج، زبرجد
دسمبر	لاجورد، یاقوت، فیروزہ

تاریخ سالانہ مجلس عزا 8 ربیع الاول شہادت امام حسن عسکریؑ۔ بمقام وندہ شاہ بلاول۔ سید علی اصغر شاہ ہمدانی + سالانہ عرس مبارک سید احمد کبیر ہمدانی ہر سال 28 مارچ۔ بمقام وندہ شاہ بلاول۔ سید علی اصغر شاہ ہمدانی

یک سالہ زائچے 2019

کے فلکی اثرات

تحریر: شیخ زوار رضا جاوا (ماہر فلکیات)
238-B سبزہ زار ملتان روڈ، لاہور
Cell : 0300-9477284
Ph: 042-37496809
0321-9477284
Www.enlighteningspirits.com
E-Mail: jawa1215@gmail.com

نوٹ: مندرجہ ذیل دعا 9 مرتبہ روزانہ مقررہ وقت پر مع اول و آخر 9 مرتبہ درود پڑھ کر دم کریں۔ مشکلات آسان ہونگیں۔

Plaase Subscribe Our Youtube Channale www.youtube.com/ Sheikh Zawar Raza Jawa

دعا۔ رد نحوست سیارگان بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یَا اَللّٰہُ یَا اَللّٰہُ یَا اَللّٰہُ یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ یَا رَحْمٰنُ یَا رَحِیْمُ یَا عَلِیُّ یَا عَظِیْمُ یَا کَافِیْ یَا غَنِیُّ یَا مَالِکُ یَا قُدُّوْسُ یَا کَبِیْرُ یَا مُتَعَالُ یَا فَتَّاحُ یَا رَزَّاقُ اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ اِحْفَظْنِیْ مِنَ الْجِنَّۃِ وَالنَّاسِ وَمِنْ نُحُوْسَۃِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْعُطَارِدِ وَالزُّہْرَۃِ وَالْمِرِّیْخِ وَالْمُشْتَرِیْ وَالزُّحَلِ وَالرَّاْسِ وَالذَّنَبِ بِحَقِّ یَا اَللّٰہُ یَا اَحَدُ یَا صَمَدُ وَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَّعَلِیٍّ وَّفَاطِمَۃَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ وَعَلِیِّ ابْنِ الْحُسَیْنِ وَمُحَمَّدِ ابْنِ عَلِیٍّ وَّجَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ وَّمُوْسَی ابْنِ جَعْفَرٍ وَّعَلِیِّ ابْنِ مُوْسٰی وَمُحَمَّدِ ابْنِ عَلِیٍّ وَّعَلِیِّ ابْنِ مُحَمَّدٍ وَّحَسَنِ ابْنِ عَلِیٍّ وَّالْحُجَّۃِ ابْنِ الْحَسَنِ صَلَوٰۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنَ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ

برج: حمل **ARIES** **سیارہ:** مریخ

رنگ: ____ گلابی، بادامی
عنصر: ____ آتشی
جواہر: ____ مرجان، یاقوت، اوپل، عقیق یمنی
بہترین شریک حیات: ____ اسد، قوس
ناموافق ساتھی: ____ سرطان، میزان، جدی

بیماریاں: تیز بخار، اعصابی تناؤ، سر، شدید سر درد، دورہ [illegible]

دن: منگل **عدد:** 9 21 Mar to 20 Apr **حروف:** ا، ل، ع، ی

اہم نکات برج حمل والوں کے لیے گزشتہ سال کی نسبت یہ سال انشاءاللہ کافی بہتر ہوگا اس سال طالع کا حاکم مریخ فرح اوج اور وبال طرح جیسی اچھی بری دونوں طرح کی کیفیات سے گزرے گا کیریئر روزگار کا حاکم زحل تمام سال کیریئر کے گھر قیام کرتے ہوئے روزگار میں بہتری کا باعث ہوگا نویں کا حاکم سعد اکبر مشتری تادیں دسمبر تک قیام کرتے ہوئے بیرون ملک سفر، روحانی علوم اور حج اور زیارات کے مواقع پیدا کر رہا ہے۔ دیگر سیارگان میں شمس عطارد اور زہرہ سیر افلاک کرتے ہوئے آپ کے معاملات پر مندرجہ ذیل اثرات مرتب کر رہے ہیں

آپکی شخصیت شخصی وقار گزشتہ سال مئی تا وسط نومبر آپکا ذاتی ستارہ عطارد منفی پوزیشن میں رہنے سے آپکا شخصی وقار خاصہ متاثر ہوا ہے اس سال بھی آپکو کچھ ملی جلی صورتحال کا سامنا رہے گا یکم جنوری تا 14 فروری مریخ طالع میں رہتے ہوئے آپکی خود اعتمادی اور عزت توقیر میں اضافہ کر رہا ہے 15 فروری تا 31 مارچ مریخ وبال میں ہونے سے آپکی خود اعتمادی متزلزل ہو رہی ہے مالی معاملات میں وعدہ وعید سے گریز کریں 16 مئی تا 2 جولائی کا عرصہ آپکے لیے خاصہ مشکل ثابت ہوگا مریخ کی چوتھے ہوئی کیفیت آپکے مزاج میں غصہ اور جھنجھلاہٹ کا عنصر بڑھ جائے گا آپکی پریشانی کی بڑی وجہ خانگی اور پراپرٹی سے متعلقہ معاملات ہو سکتے ہیں 2 جولائی تا 14 اکتوبر کا دورانیہ انشاءاللہ بہتر رہے گا آپ خاصے مطمئن نظر آ رہے ہیں 15 اکتوبر تا 23 ستمبر کا دورانیہ آپکے لیے خاصہ صبر آزما ثابت ہو سکتا ہے آپکا وقار داؤ پر ہوگا بعد از 23 اکتوبر تا آخر سال حالات ایکبار پھر آپکے موافق ہونگے (ان شاءاللہ)

صحت گزشتہ سال کی نسبت صحت کے حوالے سے یہ سال ان شاءاللہ کافی بہتر ثابت ہوگا اس سال آپکو 10 فروری تا 17 اپریل، 6 تا 21 مئی، 21 اگست تا 3 اکتوبر صحت سے منسوب مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے سال کا باقی دورانیہ ان شاءاللہ بہتر گزرے گا اوپر بتائے گئے عرصہ میں صحت کے حوالے سے لاپرواہی نہ کریں تو بہتر ہوگا اس سال آپکو ٹانگوں، پیروں اور خون سے متعلقہ مسائل کے علاوہ انتڑیوں اور نظام ہضم کی جانب سے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے پروردگار عالم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین۔

منگنی ہر سال کی طرح اس سال بھی آپکی منگنی نسبت طے پا جانے کے قوی امکانات موجود ہونگے مگر اس نازک اور اہم ترین کام کو انجام دینے کے لیے درست وقت کا انتخاب از حد ضروری ہوگا تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے بچا جا سکے اس سال منگنی نسبت طے کرنے کے لیے بہترین اوقات 21 مارچ تا 20 اپریل، 21 جولائی تا 23 اگست اور 22 نومبر تا 22 دسمبر ہونگے (ایام عزا کو ملحوظ خاطر رکھیں) جبکہ 1 جنوری تا 20 مارچ، 20 اپریل تا 21 جون، 23 ستمبر تا 23 اکتوبر کا عرصہ موافق نہ ہوگا

ان ایام میں ایسی کسی بھی تقریب کے انعقاد سے گریز کریں اس دورانیہ میں پہلے سے طے شدہ منگنیاں بھی خطرے میں ہوں گی احتیاط از حد ضروری ہوگی۔

شادی

2019 میں نکاح شادی کیلئے بہترین اوقات 28 مارچ تا 20 اپریل، 15 مئی تا 21 اگست، 14 ستمبر تا 8 اکتوبر موافق نظر آرہا ہے جبکہ 7 جنوری تا 27 مارچ، 21 اپریل تا 15 مئی، 22 اگست تا 13 ستمبر، 18 اکتوبر تا 2 نومبر کا عرصہ قطعی موافق نہ ہوگا اس دورانیہ میں نکاح شادی سے گریز کریں اس دوران طے پانے والے نکاح وشادیاں اختلافات کی نذر ہوکر بعد ازاں ختم ہوسکتی ہیں وہ حمل افراد جنکی شادیاں تا حال طے نہیں پاسکیں ان شاءاللہ امسال طے پاجائیں گی

گھر، خاندان، پراپرٹی

حمل افراد کے لیے خاندان خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے امسال آغاز سال تا 20 جنوری خانگی معاملات پر توجہ کی ضرورت زیادہ ہوگی اس دوران گھر کی تبدیلی یا پراپرٹی کے لین دین سے گریز کریں اسی طرح ہر ماہ ہبوط قمر کا دورانیہ بھی آپکے لیے مشکلات پیدا کرسکتا ہے 16 مئی تا 2 جولائی مریخ کی چوتھے ہبوط زدہ موجودگی آپکے گھریلو معاملات کو بہت بری طرح متاثر کررہی ہے غیر متوقع طور پر گھر کی تبدیلی کا امکان ہوگا ان ایام میں پراپرٹی کے لین دین سے گریز کریں وگرنہ نقصان کا اندیشہ ہے عین ممکن ہے کہ جگہ متنازعہ ہو گو کہ 21 جون کو شمس کے عین اسی مقام بحالت اوج آجانے سے مریخ کے اثرات میں کمی واقع ہوگی مگر پھر بھی احتیاط لازم ہے اسی طرح 21 جنوری اور 17 جولائی کے قمری گرہن بھی آپکے گھریلو زندگی اور پراپرٹی سے متعلقہ معاملات کو متاثر کرنے کا باعث بنیں گے۔

ابتدائی تعلیم، نزدیکی سفر، تحریری معاہدے

آپکے زائچہ کے تیسرے گھر کا حاکم ستارہ عطارد ہے جو کہ ایک تیز رفتار ستارہ ہے اور ایک سال میں آٹھ کیفیات سے گزر جاتا ہے جن میں کچھ مثبت ہیں اور کچھ منفی اس طرح یہ ستارہ آپکے معاملات پر اچھے برے دونوں طرح کے اثرات مرتب کرتا ہے امسال یکم جنوری تا 10 فروری، 17 اپریل تا 5 مئی، 21 مئی تا 5 جون، 29 اگست تا 14 ستمبر، 4 اکتوبر تا 9 دسمبر ستارہ عطارد بہتر پوزیشن میں رہتے ہوئے حمل بچوں کو بہتر تعلیمی ماحول فراہم کررہا ہے اس دوران آپکے لیے نزدیکی سفروں میں فوائد کا حصول ممکن ہوگا اس دورانیہ میں آپکو نئے معاہدات کا موقع ملے گا اور تحریری معاملات حل کرنا بہتر ہوگا جبکہ 10 فروری تا 17 اپریل، 6 تا 20 مئی، 15 ستمبر تا 3 اکتوبر اور 9 تا 29 دسمبر کا عرصہ موافق نہ ہوگا حمل بچوں کو تعلیمی مدارج طے کرتے ہوئے مشکلات پیش آسکتی ہیں بتائے گئے ہوئے دورانیہ میں سفر سے پرہیز کرنا بہتر ہوگا چونکہ آپکے سفر اول تو ملتوی ہوسکتے ہیں دوئم مطلوبہ نتائج کا حصول ممکن نہ ہوگا اس دورانیہ میں کسی بھی قسم کے تحریری معاہدوں سے بھی پرہیز کرنا بہتر ہوگا اس دوران طے پانے والے معاہدے پایہ تکمیل تک پہنچنا مشکل ہونگے۔

اولاد، انعامی بانڈ، لاٹری

آپکے بیت اولاد کا حاکم ستارہ شمس آغاز سال میں یکم تا 20 جنوری حالت حضیض میں اور 20 جنوری تا 19 فروری حالت وبال میں رہتے ہوئے آپکو بچوں کی جانب سے پریشانی میں مبتلا کرسکتا ہے بچوں کی صحت، حجاب، شراکتی اور ازدواجی معاملات آپکی پریشانی میں اضافہ کا باعث بن سکتے ہیں 21 مارچ کو شمس کے برج حمل میں آجانے سے آپکی پریشانیوں کا خاتمہ ممکن ہوگا یہ شمس کے شرف کا گھر ہے اولاد کے خواہشمند افراد کو گذشتہ سال پانچویں راہو کی موجودگی کیوجہ سے خاصی مایوس کن صورت حال کا سامنا کرنا پڑا مگر امسال پروردگار کے کرم سے انشاءاللہ آپ صاحب مراد ہونگے 21 مارچ تا 20 اپریل کا عرصہ اس حوالے سے سال کا بہترین وقت ہے 21 مئی تا 21 جون کا عرصہ قدرے مشکل صورت حال کا غماز ہے بچوں کی وجہ سے آپکی سماجی حیثیت متاثر ہوسکتی ہے 22 جون کو شمس کے زائچہ کے چوتھے اوج میں آجانے سے آپکی جاری مشکلات انشاءاللہ ختم ہوجائیں گی 23 جولائی کو پانچویں کا حاکم شمس پانچویں میں آجانے سے مزید بہتری آجائے گی اولاد کے خواہشمند افراد کو ان شاءاللہ خوشخبری مل جائے گی 23 ستمبر تا 23 اکتوبر تک کا عرصہ آپکو بہت محتاط روی سے گزارنا ہوگا بچے آپکی اضافی توجہ کے طالب ہونگے انکو وقت دیں اور انکے مسائل حل کرنے میں انکی مدد کریں 22 نومبر تا 22 دسمبر تک کا عرصہ بھی بہتر نظر آرہا ہے آپ بچوں کے ازدواجی مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپکے بچے اور آپ تفریح کا پروگرام بناسکتے ہیں۔

وراثت، مشترکہ مالی معاملات، قرضہ

آپکے زائچے کا آٹھواں حصہ آپکے شراکتی معاملات کے ساتھ ساتھ آپکے قرضہ جات سے بھی متعلق ہے اور اس حصے کا حاکم مریخ اس سال تیزی سے سفر کرتا ہوا سات قسم کی کیفیات سے گزرے گا یکم جون تا 14 فروری، 2 جولائی تا 14 اکتوبر اور 19 نومبر تا آخر سال مریخ حالت ترفیع اوج اور فرح میں رہتے ہوئے آپکے متعلقہ معاملات میں بہتری کا باعث ہوگا آپ کے رکے ہوئے کام بھی انشاءاللہ حل ہوجائیں گے جبکہ 14 فروری تا 31 مئی بالعموم اور 16 مئی تا 2 جولائی کا عرصہ بالخصوص موافق نہ ہوگا آپکے بنے بنائے کام بھی بگڑ سکتے ہیں قرض خواہ آپکی پریشانیوں میں اضافہ کا باعث ہونگے مشترکہ مالی معاملات میں بھی نقصان کا اندیشہ موجود ہوگا اسکے علاوہ 14 اکتوبر تا 19 نومبر کا عرصہ بھی موافق نظر نہیں آرہا اس دورانیہ میں آپکو احتیاط سے اقدام کرنے ہونگے۔

روحانیت، بیرون ملک سفر، حج وزیارات، اعلیٰ تعلیم

آپکے زائچے کے نویں گھر کا حاکم ستارہ مشتری گذشتہ سال سے ہی

نویں گھر حالت فرح میں رہتے ہوئے آپکی توجہ روحانی معاملات پر مرکوز کر رہا ہے آپکی طبیعت درود وظائف کیجانب مائل ہو رہی ہے اس سال خصوصی طور پر آپکا حج وزیارات کا پروگرام بن سکتا ہے یا آپ پر پروردگار کا خاص کرم ہوگا تعلیم کے خواہشمند افراد کے لیے بہتر تعلیمی مواقع پیدا ہو رہے ہیں اسی طرح بیرون ملک تعلیمی اور کاروباری اغراض سے سفر کے خواہشمند افراد کے لیے بھی ماحول سازگار نظر آ رہا ہے البتہ 10 اپریل تا 11 اگست ستارہ مشتری کی رجعت آپکے معاملات میں تعطل یا رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہے اس صورت حال سے بچاؤ کے لیے مشتری سے منسوب روحانی تدارک آپکی مشکلات میں کمی کا باعث ہوگا۔

معیشت، کیریر روزگار، ترقی، تنزلی آپکے کیریر روزگار سے متعلقہ ستارہ زحل گذشتہ سال سے آپکے کیریر کے گھر میں موجود ہے اور حالت فرح میں رہتے ہوئے آپکی ترقی اور کیریر روزگار میں معاون ہے اس سال آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ طویل دورانیے کے منصوبوں پر عمل پیرا ہوں زحل ستارہ جلدی اور مختصر عرصے کے منصوبوں کے لیے معاون نہیں ہوتا یکم تا 20 جنوری شمس کیریر کے گھر حالت حضیض میں رہتے ہوئے آپکے کیریر روزگار میں منفی اثرات مرتب کرے گا یا خصوصی گورنمنٹ ملازمین کے لیے یہ وقت خاصہ مشکل ثابت ہو سکتا ہے خدانخواستہ آپکو تنزلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے 20 جنوری کے بعد حالات میں بہتری آئے گی 30 اپریل کو کیریر کا حاکم ستارہ زحل رجعت میں چلے جانے کی وجہ سے آپکے کاموں میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جائیں گی ذاتی کاروبار کرنے والے افراد کو بھی اب مشکل صورت حال کا سامنا رہے گا یہ سلسلہ 18 ستمبر تک چلے گا اس کے علاوہ ملازم پیشہ افراد کو بھی اپنے سپروائزر یا مالکان کی جانب سے کھچاؤ تناؤ اور مخالف رویوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بتائے گئے عرصے کے علاوہ 17 جولائی کا قمری گرہن اور 26 دسمبر کے شمسی گرہن کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں گرہن کے قریبی ایام بھی آپکو مشکل صورت حال سے دوچار کر سکتے ہیں۔

دوست احباب، خواہشات، کاروباری معاملات گذشتہ سال آپکے زائچے کے گیارہویں گھر مریخ کی منفی پوزیشن اور زحل کی رجعت دونوں آپکی خواہشات کی تکمیل میں رکاوٹ رہے۔ ہیں اسی طرح کاروبار روزگار کے حوالے سے کی گئی آپکی کوششوں کو کامیابی سے ہمکنار نہیں ہونے دیا اس سال گو کہ صورتحال 100% آپکے حق میں نہ ہوگی تاہم پھر بھی گذشتہ کی نسبت 2019 کافی بہتر ہوگا۔ آغاز سال تا 20 جنوری صورتحال بہتر ہوگی جبکہ 20 جنوری تا 19 فروری شمس کی گیارہویں وبال زدہ کیفیت آپکی خواہش کی تکمیل میں رکاوٹ ہوگی اس دوران اپنے کیریر روزگار کے معاملات کو محدود رکھنا بہتر ہوگا دوستوں سے اختلافات سے پرہیز کریں 19 فروری تا 30 اپریل حالات آپکے موافق نظر آ رہے ہیں اب آپکی خواہشات کی تکمیل ممکن ہوگی دوستوں سے وابستہ توقعات پوری ہوں گی آپ نئی منصوبہ بندیوں پر اپنے دوستوں کی مدد سے عمل پیرا ہیں۔ یکم مئی تا 18 ستمبر تک کا عرصہ آپکو محتاط روی سے گزارنا ہوگا اپنی خواہشات کو محدود کریں دوستوں سے وابستہ توقعات اب پوری ہونا مشکل ہوگا مجموعی طور پر آپکی خوش بختی متاثر ہو رہی ہے وسط ستمبر تا آخر سال حالات ایک بار پھر بہتر رہنے کا امکان ہے۔

بیرون ملک قیام، امیگریشن، خفیہ سازشیں 2019ء آپکے بیرون ملک قیام اور ویزہ/امیگریشن اپلائی کرنے کے لیے موزوں ترین سال ہے قدرت کی مہربانی سے آپکو یہ موقع 13 سال بعد ملا ہے مگر اپلائی کرنے کے لیے آپکو درست وقت کا انتخاب کرنا از حد ضروری ہوگا 10 فروری تا 17 اپریل آپکو اپلائی کرنے سے قبل کاغذات کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لینا از حد ضروری ہوگا کسی بھی قسم کی جعلی دستاویزات کے استعمال سے گریز کریں پہلے سے اپلائی کیے گئے امیگریشن کیسز بھی اس دورانیے میں خارج ہو سکتے ہیں پہلے سے بیرون ملک مقیم افراد کو جگہ کی تبدیلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو کہ بہتر نہ ہوگا 10 اپریل تا 11 اگست بوجہ رجعت مشتری ویزہ یا امیگریشن اپلائی کرنے سے پرہیز کریں ورنہ آپکو مایوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسی دوران بارہویں زہرہ کی بحالت شرف موجودگی بھی رہے گی مگر عطارد کی رجعت اور ہبوطی کیفیت آپکے معاملات میں رکاوٹ کا باعث ہوگی اس سال آپکے خلاف خفیہ سازشوں کا بازار بھی گرم نظر آ رہا ہے گو کہ عطارد کا ہبوط اور مشتری کی رجعت آپکے لیے اس حوالے سے رحمت خداوندی ثابت ہونگے آپکے مخالفین انتشار کا شکار رہیں گے۔

شمسی وقمری گرہن اس سال 3 شمسی اور 2 قمری گرہن واقع ہو رہے ہیں جنوری جولائی اور دسمبر کے گرہن آپکے خانگی، اولاد اور کیریر روزگار سے متعلقہ معاملات کو متاثر کر رہے ہیں جبکہ 21 جنوری 3 اور جولائی کے گرہن بالخصوص آپکے خانگی، پراپرٹی اور رہائش کے معاملات کے علاوہ آپکے بچوں، منگنی تعلیم اور افیئرز کو متاثر کرنے کا باعث بن رہے ہیں آپ پر لازم ہوگا کہ گرہن کے دورانیے میں 2 رکعت نماز کسوف وخسوف اور متعلقہ صدقات ضرور ادا کریں پروردگار عالم سے دعا ہے آپکے لیے ہر ممکن آسانیاں فراہم کرے اور آپ سب کو اپنی خاص رحمتوں کے سایہ میں پناہ عطا فرمائے آمین **صدقہ** ہر منگل 900 گرام دال مسور کسی مستحق کو دیں یا پرندوں کو ڈال دیں۔ **ورد خاص** روزانہ ایک تسبیح سورہ یوسف آیت 64 ورد کریں بمعہ اول وآخر 10/10 مرتبہ درود پاک۔

قرآنی آیات سے جادو کا توڑ اور دیگر امراض سے شفایابی کے ڈاکٹر سید عقیل حسن شاہ مکان نمبر 52/4 الامین سوسائٹی بیدیاں روڈ لاہور کینٹ
0322-4812453

برج: ثور TAURUS **ستارہ: زہرہ**

رنگ: گہرا نیلا
عنصر: خاکی
جواہر: الماس، نیلم، فیروزہ
بہترین شریک حیات: سنبلہ، جدی
ناموافق ساتھی: اسد، عقرب، دلو

بیماریاں: حلق اور کانوں کے عوارض، پھوڑے پھنسیاں، تولیدی مسائل

دن: جمعہ **عدد:** 1 21 Apr to 21 May **حروف:** ب، و

اہم نکات

امسال دونوں بڑے سیارگان زحل اور مشتری آپکے زائچے کے اہم ترین مقامات پر قیام کرتے ہوئے بحکم خدا آپ پر انتہائی سعد اثرات مرتب کر رہے ہیں آپکے کیریئر روزگار، روحانی مدارج، بیرون ملک سفر، اعلیٰ تعلیمات اور وراثت جیسے اہم ترین امور میں ان شاء اللہ بڑی اور مثبت تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں دیگر سیارگان میں مریخ کی فلکی سیر امسال آپ پر مثبت اور منفی دونوں طرح کے اثرات مرتب کر رہی ہے آپکا اپنا ستارہ زہرہ اور شمس و عطارد امسال آپکے حالات پر درج ذیل اثرات مرتب کر رہے ہیں

آپکی شخصیت، شخصی وقار

بنیادی طور پر آپ ایک آرام طلب خوش مزاج ملنسار اور سیر و تفریح کے شائق شخصیت کے مالک ہیں 2019 جہاں آپکے لیے تفریح کے کئی ایک مواقع لے کر آرہا ہے وہیں آپکو گذشتہ کی نسبت زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ 14 فروری تا 31 مارچ طالع میں مریخ کی موجودگی آپکے مزاج میں تیزی پیدا کردے گی آپ قدرے جھنجلاہٹ کا شکار رہیں گے یہ وقت آپکی شخصی وقار کے لیے بہتر نہ ہوگا آپکو خود پر قابو رکھنا ہوگا ذہنی دباؤ کی صورت میں آپکا طرز عمل معاشرے میں آپکی عزت و توقیر میں کمی کا باعث بن سکتا ہے اسی دوران 6 مئی تا 21 مئی طالع میں عطارد کی بحالت تخسیف موجودگی آپکو غلط فیصلوں اور نامناسب رویوں کی طرف دھکیل سکتا ہے 20 اپریل تا 15 مئی زہرہ کا وبال آپکی خود اعتمادی کو متاثر کر رہا ہے 15 مئی تا 9 جون آپکا ستارہ بحالت ترفع ہونے سے آپکی خود اعتمادی بحال ہوگی آپ خاصہ بہتر محسوس کریں گے 9 جون تا 3 جولائی آپکا ذاتی ستارہ اوج میں رہنے سے آپکی عزت و توقیر میں اضافہ ہوگا آپ معاشرے میں اپنا کھویا وقار بحال کرنے میں مصروف ہیں 28 جولائی تا 21 اگست آپکی سماجی مصروفیات بڑھ جائیں گی عزیز و اقارب سے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں 21 اگست تا 14 ستمبر کا عرصہ خاصہ مشکل ثابت ہو سکتا ہے آپکے افیئرز منظر عام پر آجانے کی وجہ سے آپکو کافی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس دوران بچوں سے اختلافات سے گریز کریں۔ 14 ستمبر تا 18 اکتوبر حالات میں بہتری آنے گی مگر 18 اکتوبر تا آخر سال آپکو خاصہ محتاط رہنا ہوگا آپ ایکبار پھر ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں سسرالی عزیزوں سے بھی تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔

عزیز و اقارب، ابتدائی تعلیم

آپ لوگ کافی ملنسار اور سیر و تفریح کے شائق افراد ہوتے ہیں اس طرح سماجی تقریبات اور دوستوں کی محفل آپکی توجہ کا مرکز اور آپکے لیے خاص اہمیت کے حامل ہیں امسال آپکو کافی بہتر ماحول میسر رہے گا مگر جیسے دن کے تعاقب میں رات ہوتی ہے اسی طرح سال کا کچھ دورانیہ آپکو ماحول موافق نہ مل سکے گا 21 جنوری، 17 جولائی دونوں قمری گرہن اور 16 مئی تا 2 جولائی بیت الاقرباء میں مریخ کا ہبوط آپکے تعلقات کشیدہ رکھے گا ان ایام میں آپکو از حد محتاط رہنا ہوگا تو بچوں کو بھی اس دوران تعلیمی حوالے سے مشکلات پیش آسکتی ہیں۔ اسکے علاوہ ہر ماہ ہونے والے قمر در عقرب کو بھی ضرور مد نظر رکھیں اور ہر قمر در عقرب میں قمر سے منسوب صدقات ضرور ادا کریں

مالی پوزیشن

آپکے مالی معاملات سے متعلقہ ستارہ عطارد ایک تیز رفتار ستارہ ہے 10 فروری تا 17 اپریل ہبوط کے گھر رہتے ہوئے آپکو مشکلات سے دوچار رکھے گا اسی دوران 9 تا 28 مارچ عطارد حوت میں رجعت پزیر ہوگا یہ دورانیہ مالی امور کے حوالے سے بہت مشکل ثابت ہوگا جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں خواہ وہ زبانی ہو یا تحریری اور کسی بھی حوالے سے چیک وغیرہ لکھ کر دینے سے گریز کریں 17 اپریل تا 21 مئی گو کہ حالات بہتر ہونگے مگر مکمل طور پر آپکے قابو میں نہ ہوں گے 21 مئی کو عطارد طالع میں آجانے سے حالات میں مثبت تبدیلی آئے گی آپ مالی طور پر بہتر فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے مالی پوزیشن مستحکم ہو رہی ہے سال کے باقی دورانیہ میں 14 ستمبر تا 3 اکتوبر، 9 تا 29 دسمبر کا عرصہ بھی کچھ محتاط روی کا متقاضی ہوگا بتائے گئے عرصہ کے علاوہ باقی دورانیہ انشاءاللہ موافق ہوگا مجموعی طور پر مالی حوالے سے یہ ایک ملا جلا سال ہوگا۔

گھر، خاندان، پراپرٹی

یکم جنوری تا 20 مارچ بیت الارض کا حاکم ستارہ شمس منفی پوزیشن میں ہوگا گھر کی تبدیلی یا پراپرٹی گھر کی خرید و فروخت سے گریز کریں 21 مارچ تا 20 اپریل حالات ملے جلے ہوں گے جہاں خانگی حالات میں بہتری متوقع ہے وہیں خاندان کے کچھ افراد کی جانب سے آپکے خلاف خفیہ سازشیں ہو سکتی ہیں گھر کی تبدیلی اور پراپرٹی کی خرید و فروخت کے لیے یہ سال کا بہترین وقت ہوتا ہے خواہ وہ رہائش کیلئے ہو یا انویسٹمنٹ کے نقطہ نظر سے 20 مئی تا 21 جون حالات قدرے موافق نہ ہونگے آپکو احتیاط کرنا ہوگی 21 جون تا 23 اگست کا عرصہ گھر کی تزئین و آرائش، مرمت اور خرید و فروخت و تبدیلی کیلئے انتہائی موزوں وقت ہے 23 ستمبر تا 23 اکتوبر آپکو ایک بار پھر محتاط روش اختیار کرنا ہوگی دشمنوں کی ریشہ دوانیوں سے ایک بار پھر گھر کے حالات خراب ہو سکتے ہیں والدہ سے بھی کسی قسم کے اختلاف سے گریز کریں باقی عرصہ انشاءاللہ بہتر رہے گا۔

اولاد، منگنی، انعامی

بے اولاد شوہر افراد کو انشاءاللہ امسال اولاد کی نوید مل سکتی ہے اگر آپ گذشتہ کئی سال سے بے اولاد ہیں تو بہتر ہوگا اپنا انفرادی

زائچہ ہوا کے دیکھ لیں بچوں کے حوالے سے اسسال آپکو 10فروری تا17اپریل کا عرصہ بالخصوص اور 6تا21 اپریل، 14 ستمبر تا13 اکتوبر اور 9تا29 دسمبر کا عرصہ موافق نہ ہوگا اپنے بچوں پر توجہ دیں بہت سے مسائل آپکی تھوڑی سی توجہ سے حل ہو سکتے ہیں۔ منگنی کے حوالہ سے 18 اپریل تا6 مئی، 21 مئی تا14 ستمبر، 13 اکتوبر تا9 دسمبر کا عرصہ موافق ہوگا سال کا باقی عرصہ سیارگان کی ناموافق پوزیشن کی وجہ سے موافق نہ ہوگا اس نازک مرحلہ کو طے کرتے وقت سیارگان کی کیفیت کو مدنظر رکھنا ضروری ہوگا ورنہ بنی بنائی بات ختم ہو سکتی ہے انعامی بانڈ کے شائق افراد کیلئے بھی یہی دورانیہ قسمت آزمائی کیلئے موزوں ہوگا باقی عرصہ میں شاید قسمت یاوری نہ کرے۔

صحت, ملازمت, ملازمین اسسال آپکو اچھے برے دونوں طرح کے حالات کا سامنا رہے گا آغاز سال 7 جنوری تا 27 مارچ، 20 اپریل تا15 مئی، 21 اگست تا14 ستمبر، 8 اکتوبر تا26 نومبر یہ سال کے وہ دورانیے ہیں جب آپکو اپنی صحت اور جاب دونوں کا خاص خیال رکھنا ہوگا لاپرواہی اور جلد بازی آپکو بڑے نقصانات سے دوچار کر سکتی ہے جاب کی تبدیلی کے لیے 27 مارچ تا20 اپریل، 5 مئی تا9 جون، 28 جولائی تا 20 اگست اور 14 ستمبر تا 18 اکتوبر کا عرصہ بہتر رہے گا اس دورانیہ میں جاب کی تبدیلی بہتر نتائج کی حامل ہوگی اسسال 7 جنوری تا27 مارچ، 21 اگست تا14 ستمبر تا8 اکتوبر تا آخر سال آپکو اپنے ملازمین کیجانب سے مخالفت یا پریشانیوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے

شادی, ازدواجی زندگی, شراکت داری گزشتہ سال مریخ کی منفی پوزیشن اور رجعت نے آپکے شراکتی ازدواجی تعلقات کو خاصہ متاثر کیا ہے گو کہ اسسال بھی حالات مکمل طور پر بہتر نہ ہونگے مگر گزشتہ سال سے کافی بہتر نظر آرہے ہیں ابتدائے سال میں یکم جنوری تا14 فروری حالات خاصے بہتر رہیں گے 14 فروری تا31 مارچ کچھ کچھاؤ تناؤ کی کیفیت رہے گی مگر 16 مئی تا2 جولائی کا عرصہ آپکے لیے خاصہ مشکل ثابت ہوگا آپکو ہر صورت اپنے شراکتی ازدواجی تعلقات کو بچانا ہوگا حالات کشیدگی کی انتہا تک ہونگے محتاط رہیں ورنہ آپکے مابین علیحدگی ہو سکتی ہے 3 جولائی سے حالات میں مثبت تبدیلی رونما ہوگی اور یہ تبدیلی 4 اکتوبر تک جاری رہے گی اس دورانیہ آپکو اپنے تعلقات از سرنو بہتر بنانے کا موقع ملے گا اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں 4 اکتوبر تا19 نومبر حالات ایک بار پھر کشیدہ نظر آرہے ہیں احتیاط سے کام کریں 19 نومبر تا آخر سال کا عرصہ موافق نظر آرہا ہے شادی کے خواہشمند ثور افراد کیلئے یکم جنوری تا14 فروری، 2 جولائی تا4 اکتوبر اور 14 نومبر تا آخر سال کا عرصہ بہتر ہوگا بتائے گئے عرصہ کے علاوہ شادی نکاح جیسی تقریبات کے انعقاد سے گریز کریں اسکے علاوہ ایام عزا کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں۔

وراثت, مشترکہ مالی معاملات, قرضہ اس حوالہ سے 2019ء ایک بہترین سال ہے آپکے وراثتی معاملات سے منسوبہ ستارہ مشتری گزشتہ سال سے آپکے زائچے کے آٹھویں گھر موجود رہتے ہوئے آپکے وراثتی اور مشترکہ مالی معاملات پر انتہائی سعد اثرات مرتب کر رہا ہے آپکے سالوں سے رکے ہوئے وراثتی معاملات بھی اب حل ہو جائیں گے اسی طرح یہ سال مشترکہ مالی معاملات کے حوالہ سے بھی مجموعی طور پر ایک مثبت سال ہے البتہ 10 اپریل تا 11 اگست رجعت مشتری آپکے معاملات میں تاخیر کا سبب بن سکتی ہے تاخیر سے بچنے کیلئے مشتری سے منسوبہ روحانی تدارک کر سکتے ہیں 2019ء اس حوالہ سے ایک بہترین سال ہے کہ اسسال وہ رقم جو آپ نے بطور قرضہ دی تھی آپکو واپس مل سکتی ہے جو کہ آپکی معاشی صورتحال میں ایک بہتر اور واضح تبدیلی کا باعث ہوگی۔

روحانیت, بیرون ملک سفر, حج و زیارات, اعلیٰ تعلیم 2019ء آپکے بیرون ملک سفر ویزہ اور حج و زیارات کے حوالہ سے ایک بہترین سال ہے آپکے گزشتہ سالوں سے بند دروازے بھی انشاء اللہ کھل جائیں گے یکم تا20 جنوری ویزہ وغیرہ اپلائی کرنے سے پرہیز کریں اسکے علاوہ 30 اپریل تا18 ستمبر کا عرصہ بھی قدرے موافق نہ ہوگا آپکے پروگرام التوا کے بعد بالآخر ملتوی ہو سکتے ہیں زحل کی رجعت بنتے بنتے کاموں کو بگاڑ سکتی ہے اعلی تعلیم کے خواہشمند افراد کیلئے یہ ایک بہترین سال ہے البتہ زحل کی رجعت کے ایام میں آپکو قدرے مشکلات پیش آسکتی ہیں امتحانات سے قبل زحل سے منسوبہ صدقات ضرور ادا کریں زحل جہاں مشکلات لاتا ہے وہیں پروردگار کی جانب سے ان مشکلات سے نکلنے کے راستے بھی آپ تک پہنچتے ہیں اسی طرح جو لوگ ان مشکلات میں ثابت قدمی کے ساتھ پروردگار سے رجوع کرتے ہیں وہ یقیناً روحانی مدراج کو طے کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یہ میرا ذاتی تجربہ ہے اسسال نویں روحانی امور سے متعلقہ گھر کا حاکم ستارہ زحل اپنے ہی گھر قیام کرتے ہوئے آپ کو نئے روحانی مدراج کیجانب گامزن کروے گا (ان شاء اللہ)

معشیت, کیریر روزگار, ترقی, تنزلی اسسال آپکے کیریر روزگار کا حاکم ستارہ زحل طالع کو تثلیث کی نظر سے دیکھتے ہوئے تمام سال سعد اثرات مرتب کر رہا ہے آپکی ترقی خواہ وہ ملازمت میں ہو یا ذاتی کاروبار کی شکل میں پروردگار کے کرم سے یقینی ہے البتہ یکم جنوری تا 19 فروری کسی بھی قسم کے کاروباری منصوبہ کے آغاز سے گریز کریں بعد از19 فروری کو معاملات آہستہ آہستہ معمول پر آجائیں گے مگر 30 اپریل تا18 ستمبر قدرے سست روی کا شکار رہیں زحل کی رجعت آپکو متاثر کر سکتی ہے مگر اس سے بچاؤ بھی ممکن ہے بعد از18 ستمبر تا آخر سال کا عرصہ انشاءاللہ موافق رہے گا آپکے کیریر روزگار کے حوالے سے مجموعی طور پر ایک بہتر سال ہے

دوست احباب، خواہشات، کاروباری فوائد اس حوالے سے یہ ایک ملا جلا سال ہے سال کی ابتداء اچھی ہو رہی ہے مگر 10 فروری تا 17 اپریل حالات قطعی موافق نہ ہونگے دوستوں سے بحث و تکرار سے گریز کریں یہ وقت آپکی خواہشات کی تکمیل میں رکاوٹ ہوگا کاروباری فوائد کے نتائج آپکی توقع کے برخلاف ہونگے دوسری طرف گیارہویں کا حاکم ستارہ مشتری 10 اپریل تا 11 اگست رجعت میں رہتے ہوئے آپکے تعلقات کشیدہ رکھے گا آپکو ازحد محتاط روش اختیار کرنا ہوگی بعد از اگست حالات میں بہتری متوقع ہے اب قدرت کی مہربانی سے آپکی خواہشات کی تکمیل ممکن ہوگی آپ کاروباری حوالے سے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں کوشاں ہیں دوست احباب کا بھی اس حوالے سے بھرپور تعاون میسر رہے گا (ان شاء اللہ)

بیرون ملک قیام، امیگریشن، خفیہ سازشیں بیرون ملک مقیم افراد کو امسال ملے جلے حالات کا سامنا رہے گا آغاز سال تا 13 فروری حالات موافق ہونگے گھر کی تبدیلی کا فیصلہ ممکن ہے مگر 14 فروری تا 2 جولائی کا عرصہ قطعی طور پر موافق نہ ہوگا آپکو واپسی کی راہ دیکھنا پڑ سکتی ہے ان ایام میں امیگریشن یا اپیل اپلائی کرنے سے گریز کریں 3 جولائی تا 14 اکتوبر کا عرصہ اس حوالے سے آپکی خواہشات کی تکمیل ممکن ہوگی گھر کی تبدیلی یا خریداری کیلئے ایک انتہائی موزوں وقت ہے مگر اسی دوران آپکے خلاف خفیہ سازشوں کا بازار بھی گرم ہوگا اپنے اردگرد نظر رکھیں 4 اکتوبر تا 19 نومبر کا عرصہ بھی ہوائیں آپکے خلاف چلتی نظر آ رہی ہیں آپ کے خفیہ دشمن اب کھل کے سامنے آجائیں گے بیرون ملک مقیم افراد کیلئے ایک بار پھر قیام مشکل ہو جائے گا 20 نومبر تا 31 دسمبر تک کا عرصہ بھی انشاء اللہ بہتر رہے گا آپکے امیگریشن کے حصول کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں

شمسی و قمری گرہن امسال 3 شمسی اور 2 قمری گرہن لگ رہے ہیں 6 جنوری، 17 جولائی اور 26 دسمبر کے گرہن آپکے زائچے کے نویں حصہ میں لگ رہے ہیں آپکے بیرون ملک سفر، اعلیٰ تعلیم اور سسرالی عزیز و اقارب سے تعلقات کیساتھ ساتھ آپکے سماجی تعلقات، گھر خاندان کے معاملات کو متاثر کر رہے ہیں جبکہ 21 جنوری اور 3 جولائی کے گرہن بہن بھائیوں، عزیز و اقارب اور نزدیکی سفر کو متاثر کر سکتے ہیں گرہن کے ایام میں گھر کی تبدیلی یا پراپرٹی کی خرید و فروخت سے گریز کریں۔ تمام گرہنوں کے اثرات سے بچنے کے لیے آپ پر لازم ہوگا کہ گرہن سے منسوب صدقات اور نماز کسوف خسوف ضرور ادا کریں پروردگار سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے **صدقہ** ہر منگل 900 گرام دال مسور کسی مستحق کو دیں یا پرندوں کو ڈال دیں۔

ورد خاص روزانہ ایک تسبیح سورہ توبہ آیت 128 ورد کریں بمعہ اول و آخر 15/15 مرتبہ درود پاک ۔

برج: جوزا **GEMINI** **سیارہ: عطارد**

رنگ: ______ ہلکا زرد

عنصر: ______ بادی

جواہر: ______ زمرد، ہیرا، زرد عقیق

بہترین شریک حیات: ______ میزان، دلو

ناموافق ساتھی: ______ سنبلہ، قوس، حوت

بیماریاں: پھیپھڑے کے عوارض، کمر اور سانس کی تکالیف، اعصابی تکلیف

دن: بدھ **عدد:** 5 22 May to 21 Jun **حروف:** ق، ک

اہم نکات 2019، جوزا افراد کے لیے ایک ملا جلا سال نظر آ رہا ہے آپکے زائچے کے ساتویں گھر مشتری جہاں شراکتی، ازدواجی اور کیریئر سے متعلقہ معاملات میں بہتری کا باعث ہوگا وہیں طالع کے مقابل رہتے ہوئے آپکے لیے کچھ مشکلات بھی پیدا کرتا رہے گا زحل زائچے کے آٹھویں نحس تمام سال موجود رہے گا اور آپکے ذہنی دباؤ میں اضافہ کرتا رہے گا تمام سال خانہ مال میں راہو کا قیام مالی معاملات میں آپکو رکاوٹوں اور بندشوں کا شکار رکھے گا آٹھویں زحل بھی خانہ مال کو مقابلے کی نظر سے دیکھ رہا ہوگا۔ اس پر ستم وسط مئی تا آغاز جولائی خانہ مال میں مریخ کا ہبوط آپکے مسائل میں کئی گنا اضافہ کر دے گا زحل مریخ کا مقابلہ اور راہو، مریخ قران یہ وہ تمام عوامل ہیں جو آپکی پریشانیوں میں اضافہ کا باعث ہونگے اس حوالے سے آپکو خصوصی طور پر آغاز سال سے ہی روحانی تدارک بھی ضرور کر لینا چاہیے دیگر سیارگان کی سیر افلاک آپ پر درج ذیل اثرات مرتب کر رہی ہے۔

شخصی وقار جیسا کہ آپ گزشتہ سطور میں پڑھ چکے ہیں 2019 آپکے لیے ایک ملا جلا سال ہے آغاز سال میں 10 فروری تا 17 اپریل عطارد کے گھر ہبوط اور رجعت میں رہے گا عطارد جو کہ آپکا ذاتی ستارہ ہے اس کا ہبوط آپکی ذہنی استطاعت کو متاثر کر رہا ہے آپکو گفتگو اور تحریر میں ازحد محتاط رہنا ہوگا آ عزت و توقیر داؤ پر ہوگی 17 اپریل تا 6 مئی حالات میں قدرے بہتری آئے گی 7 تا 21 مئی عطارد کی بارہویں موجودگی جہاں آپکے خفیہ دشمنوں کو بے نقاب کرے گی وہیں آپکو ذہنی انتشار کا شکار بھی رکھے گی بعد از 21 مئی تا 5 جون طالع میں عطارد کی موجودگی گذشتہ مشکلات پر تیزی سے قابو پانے میں مددگار ہوگی آ خود اعتمادی بحال ہو رہی ہے 29 اگست کو عطارد چوتھے شرفی گھر آ جائے گا اور 14 ستمبر تک یہیں قیام کرتے ہوئے آپکی عزت و توقیر میں اضافہ کا باعث

15 ستمبر تا 13 اکتوبر حالات قدرے موافق نہ ہونگے بحث وتکرار سے گریز کریں 3 اکتوبر تا 9 دسمبر کا عرصہ ایک بار پھر حالات آپکے موافق ہونگے 10 دسمبر تا آخر سال عطارد وبال میں بھی ہوگا اور طالع کے مقابل بھی ہوگا احتیاط لازم ہے۔

مالی پوزیشن امسال آپکو سب سے زیادہ اپنی مالی پوزیشن پر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی جیسا کہ گذشتہ سطور میں بتا چکا ہوں تمام سال خانہ مال میں راہو کی موجودگی اور آٹھویں زحل کی موجودگی آپکو شدید مالی تنگی کا شکار کرسکتی ہے آپ ایک لاابالی شخصیت کے حامل فرد ہیں مگر اب لاپرواہی کرنا مہنگا پڑ سکتا ہے اس حوالہ سے روحانی تدارک ضرور کریں 16 مئی کو مریخ بھی خانہ مال میں آجائے گا مریخ کی ہبوطی کیفیت پہلے سے خراب مالی پوزیشن کو مزید خراب کرنے کا باعث بن سکتی ہے الغرض آپکو امسال شدید مالی تنگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پروردگار آپکو اپنی امان میں رکھے

عزیز واقارب، ابتدائی تعلیم، نزدیکی سفر گزشتہ سال بیت الاقرباء میں راہو کی موجودگی نے آپکے تعلقات عزیز واقارب سے کشیدہ رکھے ہیں نزدیکی سفر معمول سے کم رہے ہیں اور جوزا بچوں کو تعلیمی میدان میں روکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا ہے امسال حالات گذشتہ کی نسبت بہت بہتر رہیں گے (ان شاء اللہ) مگر چونکہ سیارگان سیر افلاک کے دوران مختلف حالتوں سے گزرتے ہیں اس لیے انکے مثبت ومنفی اثرات مرتب کرتے ہیں اس لیے ہمارے معاملات بھی اُتار چڑھاؤ کا شکار رہتے ہیں امسال آغاز سال تا 19 فروری بیت الاقرباء کا حاکم شمس پہلے حضیض اور پھر وبال میں رہتے ہوئے آپکے تعلقات کشیدہ رکھے گا جوزا بچوں کو خاص احتیاط کی ضرورت ہوگی عزیز واقارب سے تعلقات کشیدہ ہوسکتے ہیں 20 فروری سے حالات گو کہ بہتر ہونا شروع ہوجائیں گے مگر 21 مارچ تا 21 اپریل کا دورانیہ انشاء اللہ بہترین گزرے گا گزشتہ جاری کشیدگی کا خاتمہ ممکن ہوگا دوستوں کیساتھ سیر وتفریح کا پروگرام بن سکتا ہے جوزا بچے نئے تعلیمی مدارج طے کرنے میں مشغول اور کافی مطمئن نظر آرہے ہیں 20 مئی تا 21 جون شمس کی طالع میں بحالت طرح موجودگی آپکے تعلقات ایکبار پھر کشیدہ کرسکتی ہے عزیز واقارب کیجانب سے آپکی ذات الزامات کی زد میں ہوگی نزدیکی سفروں کا پروگرام ملتوی ہوسکتا ہے جوزا بچوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوسکتا ہے آپکی توجہ تعلیم سے ہٹ رہی ہے 21 جون تا 23 اگست حالات انتہائی موافق نظر آرہے ہیں نزدیکی سفروں کے پروگرام بن سکتے ہیں عزیز واقارب سے تعلقات میں بھی بہتری متوقع ہے 23 ستمبر تا 23 اکتوبر کا دورانیہ ایکبار پھر آپکی مشکلات میں اضافہ کردے گا اس دوران سفر سے گریز کرنا بہتر ہوگا سال کا باقی دورانیہ ان شاء اللہ بہت بہتر گزرے گا

گھر، خاندان، پراپرٹی ابتدائے سال تا 10 فروری آپکے متعلقہ معاملات بہتر نظر آرہے ہیں 10 فروری تا 17 اپریل آپکے خاندانی معاملات بہت بگڑ سکتے ہیں از حد محتاط رہیں گفتگو اور فیصلوں میں جلد بازی سے گریز کریں پراپرٹی کے لین دین اور گھر کی تبدیلی کے لیے یہ وقت قطعی موزوں نہ ہوگا 18 اپریل تا 6 مئی کا دورانیہ بہتر ہوگا معاملات سدھارنے کا موقع ملے گا۔ 6 مئی تا 21 مئی کا دورانیہ میں پراپرٹی کے لین دین میں محتاط رہیں 22 مئی تا 14 ستمبر خانگی معاملات بہتر رہیں گے یہ دورانیہ گھر کی تبدیلی تزئین وآرائش، مرمت کے لیے انتہائی موزوں ہے خواہش مند افراد کے لیے گھر پراپرٹی کا حصول ممکن ہوگا 14 ستمبر تا 13 اکتوبر کا دورانیہ محتاط روش کا متقاضی ہوگا خانگی معاملات آپکی پریشانی میں اضافہ کا باعث ہوگا 13 اکتوبر تا 9 دسمبر کا عرصہ ایکبار پھر بہتر ہوگا آپ خانگی معاملات کو درست کرنے میں مصروف ہیں گھر کی تبدیلی کے قوی امکانات ہونگے مگر 10 تا 29 دسمبر کا دورانیہ ایکبار پھر موافق نہ ہوگا محتاط رہیں۔

اولاد، انعامی بانڈ، منگنی اولاد کے خواہش مند جوزا افراد کو امسال انشاء اللہ گوہر مقصود مل جائے گا جوزا افراد کو امسال اپنے بچوں پر خاص توجہ دینا ہوگی آغاز سال تا 27 مارچ کا دورانیہ بہتر نہ ہوگا آپکے بچوں میں خود سری بڑھ رہی ہے 28 مارچ تا 20 اپریل حالات بہتر رہیں گے مگر 21 اپریل تا 15 مئی معاملات آپکی توقع کے بالکل برعکس نظر آرہے ہیں آپکے بڑے بچوں کے ازدواجی تعلقات مسائل کا باعث ہونگے 15 مئی تا 21 اگست کا دورانیہ خاصہ بہتر گزرے گا آپ کافی مطمئن نظر آرہے ہیں 21 اگست تا 14 ستمبر کا دورانیہ آپکے لیے بچوں کے حوالہ سے ایک مشکل وقت ثابت ہوسکتا ہے بچوں کی وجہ سے خانگی ماحول آپکے کنٹرول سے باہر ہورہا ہے اس دورانیہ کو تدبر اور محتاط رویہ سے گزاریں 15 ستمبر تا 18 اکتوبر کے دوران آپکے مابین ماحول خوشگوار رہے گا انشاء اللہ معاملات کو حل کرنے کا موقع ملے گا مگر 18 اکتوبر تا آخر سال کا دورانیہ آپکے لیے کسی امتحان سے کم نہ ہوگا بالخصوص 18 اکتوبر تا 19 نومبر اس دوران حاملہ خواتین کو خاص طور پر احتیاط کرنا ہوگی منگنی اور انعامی بانڈ کے حوالے سے 27 مارچ تا 20 اپریل، 15 مئی تا 3 جولائی، 14 ستمبر تا 18 اکتوبر کا عرصہ موافق ہوگا اس دورانیہ میں آپکی منگنی طے ہونے اور کوئی بڑا انعام نکلنے کے قوی امکانات ہونگے بتائے گئے عرصے کے علاوہ ایسے کسی بھی معاہدے اور قسمت آزمائی سے گریز کرنا بہتر ہوگا۔

شادی، ازدواجی زندگی، شراکت داری آپکی شراکتی ازدواجی زندگی سے منسوب ستارہ مشتری گزشتہ سال سے آپکے ساتویں برج قوس میں اپنے ہی گھر آچکا ہے اور بفضل تعالیٰ آپکو اپنی سعادتوں سے نواز رہا ہے مشتری 2 دسمبر تک یہیں قیام کرے گا وہ جوزا خواتین وحضرات جن کی شادی کسی بھی وجہ

سے تا حال نہیں ہو سکی ان شاء اللہ اب انجام پانے کے قوی امکانات ہونگے آغاز سال تا 10 اپریل آپکے شراکتی ازدواجی تعلقات میں انتہائی بہتری دیکھنے میں آئے گی آپ اپنی ازدواجی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں آپکو نئے شراکتی معاہدوں کی آفر مل رہی ہے اور یہ بہترین وقت ہے کیونکہ مشتری آپکے کیریر روزگار کا بھی حاکم ہے 10 اپریل تا 11 اگست مشتری رجعت پذیر رہنے سے آپکے کاموں میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی آپکے کام بنتے بنتے رک سکتے ہیں اسی طرح آپکے ازدواجی تعلقات میں بھی کشیدگی پیدا ہو جائے گی۔ آپکو یہ وقت صبر و تحمل سے گزارنا پڑے گا بعد از 11 اگست انشاءاللہ معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی دسمبر میں مشتری ہبوط کے گھر چلے جاتے ہیں معاملات خراب ہونگے آپکو ازحد محتاط رہنا ہوگا

وراثت، مشترکہ مالی معاملات، قرضہ ایک طرف آپکے شراکتی مالی معاملات کا حاکم مشتری آپکے لیے ماحول کو بہتر بنا رہا ہے تو دوسری طرف ستارہ زحل آٹھویں میں رہتے ہوئے آپکے شراکتی مالی معاملات کو محفوظ بنا رہا ہے یکم تا 20 جنوری شمس کی آٹھویں منحنیف زدہ پوزیشن آپ سے محتاط روش کی متقاضی ہوگی 26 جنوری تا 30 اپریل حالات بہتر رہیں گے وہ احباب جو قرض کے خواہشمند ہیں انکو حسب خواہش کامیابی مل سکتی ہے اسی طرح آپکے وراثتی معاملات بھی حل ہونگے (ان شاء اللہ) مگر یکم مئی تا 18 ستمبر آپکے لیے قرضہ یا وراثت کا حصول مشکل ہوگا ان ایام میں آپکو مشترکہ معاملات میں مالی پریشانیوں سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے سال کا باقی عرصہ ان شاء اللہ ایکبار پھر آپکے مقاصد کے حصول میں معاون ہوگا

روحانیت، بیرون ملک سفر، حج و زیارات، اعلیٰ تعلیم 2018ء کی نسبت 2019ء آپکے درج بالا امور کے لیے انتہائی موافق ہے گزشتہ سال ناویں مریخ کی موجودگی اور زحل کی رجعت دونوں نے آپکو اچھا خاصہ متاثر کیا ہے مگر امسال حالات گزشتہ سال کی نسبت بہت بہتر ہونگے گو کہ امسال بھی کچھ دورانیہ موافق نہ ہوگا مگر زیادہ تر حالات بہتری پر مائل رہیں گے 20 جنوری تا 19 فروری بیرون ملک سفر یا ویزہ وغیرہ اپلائی کرنے سے گریز کریں تعلیمی حوالہ سے بھی آپکو مشکلات سے واسطہ پڑ سکتا ہے اسکے بعد یکم مئی تا 18 ستمبر آپکو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بنیادی طور پر زحل کی رجعت آپکو متاثر کر سکتی ہے اگر آپ حج و زیارات کے مشتاق ہیں تو اپنے سفری معاملات کو یکم مئی سے قبل مکمل کر لیں روحانی علوم کے حوالے سے آپکو خاص طور پر محتاط رہنا ہوگا آٹھویں زحل کی رجعت آپکو ذہنی دباؤ کا شکار کر سکتی ہے اپنے عقائد کی حفاظت کریں سال کا باقی دورانیہ انشاءاللہ حالات موافق رہیں گے مشکل دورانیہ میں زحل سے منسوب روحانی تدراک کر لیں۔

معیشت، کیریر روزگار، ترقی، تنزلی جوزا افراد کے لیے کیریر کا حاکم ستارہ مشتری دسمبر تک اپنے ہی گھر قیام پذیر رہتے ہوئے آپ پر سعد اثرات مرتب کر رہا ہے مگر دوسری طرف یہ آپکے طالع کے مقابل ہوگا آپکو بہت سوچ سمجھ کر اقدامات کرنے ہوں گے بالخصوص 10 فروری تا 17 اپریل آپکے لیے لازم ہوگا کہ ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھائیں اس دوران کیے گئے زبانی یا تحریری ہر قسم کے معاہدے پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکیں گے اسطرح ہر صورت میں آپکے لیے نقصان دہ ہونگے محتاط رہیں دوسری طرف 10 اپریل تا 11 اگست مشتری رجعت میں ہونے سے آپکے معاملات سست روی یا رکاوٹ کی طرف دھکیل دے گی مشتری کی رجعت سے بچاؤ کے لیے صدقات اور کام سے متعلقہ دعاؤں کا استعمال بہتر ہوگا بتائے گئے ہوئے ایام میں اپنے سینئر سے اختلافات سے گریز کریں ورنہ آپکو تنزلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے رجعت کے اختتام کے بعد کے دورانیہ میں آپکے لیے حالات انشاءاللہ بہتر ہونگے آپکو ترقی کے بہتر مواقع میسر ہونگے۔

دوست احباب، خواہشات، کاروباری فوائد 2019ء آپکے تعلقات اور خواہشات کی تکمیل کے حوالہ سے ایک ملا جلا سال ہے یکم تا 14 فروری بیت الامید کا حاکم حالت ترفع میں رہتے ہوئے آپکے تعلقات کو مستحکم بنا رہا ہے آپکی خواہشات کی تکمیل ممکن ہوگی مگر 15 فروری تا 31 مارچ بالعموم اور 16 مئی تا 2 جولائی کا دورانیہ قطعی موافق نہ ہوگا آپکو ازحد محتاط رہنا ہوگا اپنی خواہشات کی تکمیل نہ ہونے پر مایوسی یا ناشکری کا شکار نہ ہوں اور دوستوں سے اختلافات سے گریز کریں 3 جولائی سے حالات میں مثبت تبدیلی رونما ہونا شروع ہو جائے گی دوستوں سے اختلافات ختم کرنے میں مدد ملے گی کاروباری معاملات میں آپکی خواہشات کی تکمیل ممکن ہوگی یہ سلسلہ 14 اکتوبر تک جاری رہے گا 15 اکتوبر تا 19 نومبر کا دورانیہ آپکے لیے موافق نہ ہوگا اپنے معاملات کو پہلے ہی سمیٹ لینا بہتر ہوگا سال کا باقی دورانیہ بھی انشاءاللہ بہتر ہوگا مگر اس دورانیہ میں آپکو دوستوں کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

بیرون ملک قیام، امیگریشن، خفیہ سازشیں 7 جنوری تا 4 فروری کا عرصہ امیگریشن کے حصول کے لیے ایک بہتر وقت ہوگا یکم تا 27 مارچ کے دورانیہ میں ایسی کسی بھی کوشش سے گریز کریں ورنہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس دوران آپکے خفیہ دشمن بھی پریشان رہیں گے مگر 27 مارچ تا 20 اپریل جہاں آپکے خلاف خفیہ سازشیں بڑھ جائیں گی وہیں یہ دورانیہ امیگریشن یا جگہ کی تبدیلی کے لیے موافق ترین وقت ہوگا 21 اپریل تا 15 مئی حالات ایکبار پھر آپکے موافق نہ ہونگے بیرون ملک مقیم افراد کو جگہ کی تبدیلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے امیگریشن سے متعلقہ معاملات آپکے خلاف نظر آ رہے ہیں۔

16 مئی تا21 اگست حالات آپکے موافق ہونگے اب آپکی خواہشات کی تکمیل ممکن ہوگی امیگریشن اپلائی کرنے کے لیے یہ ایک بہترین وقت ہے 22 اگست تا14 ستمبر کا عرصہ سال کا مشکل ترین وقت ہوگا بیرون ملک مقیم افراد کو واپسی کی راہ دیکھنا پڑسکتی ہے آپکے کیسسز خارج ہونے کے امکانات ہیں 15 ستمبر تا8 اکتوبر سال کا آخری وقت ہوگا جب آپ امیگریشن اپلائی کرسکتے ہیں مگر اسی دوران اسی حوالہ سے لین دین سے گریز کرنا بہتر ہوگا محتاط رہیں اسی دوران آپکے خلاف خفیہ سازشوں کا بازار بھی گرم ہوگا سال کا باقی دورانیہ حالات آپکے موافق نہ ہونگے۔

شمسی وقمری گرہن امسال ایک قمری اور دو شمسی گرہن آپکے زائچے کے اہم ترین اور خطرناک ترین جگہ آٹھویں گھر لگ رہے ہیں آپ پر لازم ہوگا کہ 6 جنوری، 17 جولائی اور 26 دسمبر کے گرہنوں کو ضرور مدنظر رکھیں باقی دو گرہن آپکے زائچے کے خانہ مال اور بیت الاقرباء میں لگیں گے امسال لگنے والے گرہن آپکی مالی پوزیشن اور سماجی تعلقات کو بالخصوص متاثر کرنے کا باعث بنیں گے اسکے علاوہ اوپر بتائے گئے تینوں گرہن آپکے شراکتی مالی اور وراثتی معاملات کو بھی متاثر کررہے ہیں بالخصوص ان ایام میں صدقہ اور نماز کسوف وخسوف ضرور ادا کریں پروردگار آپکو ہر حادثہ سے محفوظ رکھے آمین۔

وردخاص روزانہ صبح وشام ایک تسبیح ورد کریں مع اول وآخر 17-17 مرتبہ درود پاک یَانَصِیرُ اُنْظُرْ بِحَقِّ نِعْمَ الْمَوْلٰی وَنِعْمَ النَّصِیرُ

صدقہ ہر ہفتہ 800 گرام کالے ماش کسی مستحق کو دیں لیں یا پرندوں کو ڈال دیں صدقہ راستے میں ہرگز نہ ڈالیں۔

برج: سرطان **CANCER** **ستارہ:** قمر

رنگ: سفید دودھیا

عنصر: آبی

جواہر: پکھراج، موتی، زمرد، عقیق

بہترین شریک حیات: عقرب، حوت

ناموافق ساتھی: حمل، جدی، میزان

بیماریاں: پھیپھڑوں اور سانس کی تکلیف، معدہ، گردوں اور پیشاب کی تکالیف

دن: پیر **عدد:** ۲ 22 June to 23 July **حروف:** ح، ہ

اہم نکات 2019ء آپکے لیے ایک ملا جلا سال ہے ستارہ مشتری چھٹے رہتے ہوئے جہاں آپکی صحت اور جاب پر مثبت اثرات مرتب کررہا ہے وہی آپکی مخالفتیں بھی بڑھ جائیں گی دوسرا بڑا ستارہ زحل ساتویں موجود رہتے ہوئے شراکتی ازدواجی تعلقات کو بہتر بنا رہا ہے دوسری طرف طالع میں راہو کی موجودگی اور زحل راہو مقابلہ آپکو مسائل سے بھی دوچار رکھے گی امسال پانچویں بیت الاولاد کا حاکم مریخ وسط مئی تا آغاز جولائی ہبوط میں رہتے ہوئے آپکو اولاد اور کیریر روزگار کے مسائل سے دوچار کرسکتا ہے۔ دیگر سیارگان میں عطارد، زہرہ اور شمس وقمر آپ پر درج ذیل اثرات مرتب کررہے ہیں۔

شخصی وقار یوں تو شخصی وقار ہر انسان کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے مگر برج سرطان والے اس حوالے سے کچھ زیادہ ہی حساس طبع واقع ہوتے ہیں کیونکہ انکا ذاتی ستارہ قمر ہر ماہ عروج وزوال کا شکار رہتا ہے آپکو بالخصوص قمر در عقرب پر خاص نظر رکھنی چاہیے اور اس دورانیہ میں قمر سے منسوب صدقات بالضرور ادا کرنے چاہیں امسال ہونے والے دو قمری گرہن بالترتیب 21 جنوری اور 17 جولائی آپکے عزت وقار میں کمی کا باعث بن سکتے ہیں محتاط رہیں اسکے علاوہ16 مئی تا2 جولائی طالع میں مریخ کی ہبوطی کیفیت آپکے مزاج میں چڑچڑا پن بڑھا دے گی آپکو خود پر کنٹرول رکھنا ہوگا آپکی پریشانیوں کی وجہ آپکی منگنی، بچے یا پرسنل افیئرز کے علاوہ آپکے والد، ساس یا کاروباری معاملات ہوسکتے ہیں 21 جولائی کو شمس کے طالع میں آجانے سے آپکا کھویا ہوا وقار بحال ہوسکے گا آپکی خود اعتمادی اور عزت وتوقیر میں اضافہ ہوگا ان شاءاللہ۔

مالی پوزیشن گزشتہ سال خانہ مال کے راہو سے متاثر ہونے کی وجہ سے سرطان افراد کافی مشکل کا شکار رہے ہیں امسال صورتحال انشاءاللہ گزشتہ کی نسبت بہتر رہے گی یکم جنوری تا20 مارچ مالی پوزیشن کچھ بہتر نہ ہوگی آمدن اور اخراجات میں توازن برقرار رکھیں اضافی اخراجات سے گریز کریں 21 مارچ تا 20 مئی مالی پوزیشن انشاءاللہ بہتر رہے گی آپکے لیے سیونگ بھی ممکن ہوگی 21 مئی تا2 جولائی کا دورانیہ سال کا مشکل ترین وقت ثابت ہوگا محتاط رہیں کاروباری لین دین مشکل ہوجائے گا دوسری طرف آپکو بچوں اور سوشل لائف کے حوالے سے اضافی اخراجات کا بھی سامنا کرنا پڑسکتا ہے 3 جولائی تا23 اگست کا دورانیہ گزشتہ مسائل کو تیزی سے حل کرنے میں مددگار ہوگا خانہ مال کا حاکم طالع میں اوج یافتہ اور بعدازاں خانہ مال میں حالت ترفع موجودگی آپکے مالی مسائل میں کمی کا باعث ہوگی معاشی پوزیشن مستحکم ہورہی ہے۔ 23 ستمبر تا23 اکتوبر کا دورانیہ آپکے لیے مالی مشکلات سے بھرپور ہوسکتا ہے بہتر ہوگا اس حوالے سے قبل از وقت منصوبہ بندی کرلیں سال کا باقی دورانیہ ان شاءاللہ بہتر گزرے گا۔

عزیزواقارب، ابتدائی تعلیم، نزدیکی سفر ان تمام امور کا تعلق آپکے زائچے کے تیسرے گھر بیت الاقرباء یا بیت السفر سے ہے امسال آغاز میں ہی 10 فروری تا17 اپریل آپکو عزیز واقارب کے ساتھ تعلقات بنائے رکھنے میں مشکلات پیش آسکتی ہیں سفر کا پروگرام ملتوی ہوسکتا ہے 17 اپریل تا6 مئی کا دورانیہ حالات قدرے موافق رہیں گے 7 تا21 مئی کو کہ عزیز واقارب کی طرف سے آپکے خلاف بہت سے اقدامات کیے جائیں گے مگر ان شاءاللہ انہیں مایوسی کا سامنا رہے گا

ان ایام میں سفر سے گریز کرنا بہتر ہوگا 21 مئی تا 14 ستمبر کا دورانیہ سال کا سب سے بہترین وقت ہوگا عزیز و اقارب بالخصوص بہن بھائیوں سے تعلقات میں بہتری آئے گی قریبی سفروں کا پروگرام بن سکتا ہے آپ خاصے مطمئن نظر آ رہے ہیں 14 ستمبر تا 13 اکتوبر بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب کیساتھ تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں بلا تصدیق کسی بھی بات پر یقین نہ کریں افواہوں کا بازار گرم رہے گا 13 اکتوبر تا 9 دسمبر گزشتہ کشیدگی پر قابو پانے میں مدد ملے گی حالات بہتر ہیں مگر 9 تا 31 دسمبر آپکو ایکبار پھر تحمل اور بردباری سے گزارنا ہوگا ابتدائی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو 10 فروری تا 17 اپریل، 6 تا 21 مئی 14 ستمبر تا 13 اکتوبر 9 تا 31 دسمبر مشکلات پیش آسکتی ہیں آپکے لیے بہتر ہوگا آپ یا آپکے والدین روزانہ ایک تسبیح سورۃ طٰہٰ آیت 25 تا 28 تلاوت کریں ان شاءاللہ مشکلات سے محفوظ رہیں گے

گھر، خاندان، پراپرٹی اس سال آغاز سال تا 26 مارچ آپکو محتاط روش اختیار کرنا ہوگی پراپرٹی کے لین دین یا گھر کی تبدیلی سے گریز کریں والدہ کی طرف سے پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے 27 مارچ تا 20 اپریل کا دورانیہ سال کا سب سے بہترین دورانیہ ہے خاندان کے افراد سے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں پراپرٹی کی خرید و فروخت، گھر کی تبدیلی یا تزئین و آرائش کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ 21 اپریل تا 15 مئی کا دورانیہ موافق نہ ہوگا کچھ افراد کو کاروباری یا کیریئر کے حوالے سے جگہ کی تبدیلی کا سامنا ہو سکتا ہے 16 مئی تا 21 اگست کا دورانیہ انشاءاللہ بہتر گذرے گا حسب خواہش رہائش یا کاروباری حوالے سے پراپرٹی کا حصول ممکن ہوگا خواہشمند افراد کے لیے بہتر اور کھلے گھر کا حصول ممکن ہوگا خانگی معاملات میں بھی بہتری آئے گی 21 اگست تا 14 ستمبر ایسے کسی بھی اقدامات سے قطعی گریز کریں ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے بعض افراد کو خواہش کے برخلاف مجبوراً جگہ کی تبدیلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے 14 ستمبر تا 18 اکتوبر گو کہ آپکو معاملات سنبھالنے کا موقع ملے گا مگر یہ عارضی بہتری ہے 19 اکتوبر تا 31 دسمبر کا دورانیہ آپکے لیے قطعی موافق نہ ہوگا آپکو بے حد محتاط رہنا ہوگا۔

اولاد، انعامی بانڈ، منگنی بچوں کے حوالے سے گزشتہ سال آپکے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھا گو کہ اس سال حالات گذشتہ کی نسبت بہتر ہونگے مگر آپکو اچھے برے دونوں طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یکم جنوری تا 14 فروری، 2 جولائی تا 14 اکتوبر، 19 نومبر تا آخر سال یہ وہ دورانیہ ہیں جب آپکو بچوں کے حوالے سے خوشخبری مل سکتی ہے خواہشمند افراد کی منگنی طے پانے کے قوی امکانات ہیں درج بالا ایام انعامی سکیموں میں شرکت کیلئے بھی موزوں ہونگے جبکہ باقی کا عرصہ بچوں سے منسوب معاملات اور منگنی یا نسبت طے کرنے کے حوالے سے قطعی مناسب نہ ہوگا بالخصوص 14 فروری تا 2 جولائی کا دورانیہ کسی طور مناسب نہ ہوگا اس دوران کی کئی منگنیاں ختم ہو سکتی ہیں حاملہ خواتین کو بھی ان ایام میں خاص احتیاط کی ضرورت ہوگی۔

صحت، ملازمت، ملازمین آپکے بیت الصحت کا حاکم ستارہ مشتری آغاز سال تا 2 دسمبر اپنے ہی گھر میں رہتے ہوئے آپکی ملازمت اور صحت دونوں پر سعد اثرات مرتب کر رہا ہے اس سال انشاءاللہ آپکو حسب خواہش بہترین جاب مل جائے گی البتہ 10 اپریل تا 11 اگست مشتری کی رجعت آپکے لیے کچھ پریشان صورتحال کا بھی باعث بن سکتی ہے آپکو پٹھوں کے کھچاؤ، نظام ہضم اور کولہوں کی درد پریشان کر سکتی ہے مشتری کی رجعت کے دورانیہ میں آپکو اپنے ملازمین کی جانب سے بھی پریشانی اٹھانی پڑ سکتی ہے 2 تا 26 نومبر آپکے خانگی حالات آپکی صحت کی خرابی کا باعث بن سکتے ہیں خاندان کے کسی بھی افراد کی مداخلت سے آپکی جاب جا سکتی ہے بعد از 2 دسمبر اپنی صحت اور جاب دونوں کا خاص خیال رکھیں اب ہوا بالکل مخالف رخ پر ہوگی جاب کسی صورت مت چھوڑیں۔

شادی، ازدواجی زندگی، شراکت داری اس سال یوں تو آپکو شادی کے کئی ایک مواقع میسر آئیں گے کیونکہ آپکے بیت الزوج کا حاکم ستارہ زحل میں ساتویں موجود ہے اور تمام سال یہیں قیام کرے گا مگر آغاز سال تا 20 جنوری ساتویں شمس کی موجودگی میں شادی قطعی مناسب نہ ہوگی 30 اپریل تا 18 ستمبر زحل کی رجعت آپکی شادی میں رکاوٹ پیدا کر دے گی اور نہ ہی اس دوران ایسی تقریبات کا انعقاد مناسب ہوگا اس دوران کی کئی شادیاں بعد ازاں ختم ہونے یا ناخوشگوار صورتحال سے دوچار کر سکتی ہیں پہلے سے شادی شدہ اور شراکت داری میں کام کرنے والے افراد کو بھی یہ عرصہ محتاط روی اور تحمل سے گذارنا ہوگا زحل کی رجعت آپکے مابین اختلافات پیدا کر سکتی ہے وہ افراد جو شراکت داری میں کام کرنے کے خواہشمند ہیں انھیں اس دوران مایوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے باقی سال انشاءاللہ موافق رہے گا۔

وراثت، مشترکہ مالی معاملات، قرضہ وہ سرطان افراد جو گذشتہ کئی سال سے وراثتی معاملات میں پھنسے ہوئے تھے اس سال انشاءاللہ انکے مسائل حل ہونے کے قوی امکانات موجود ہیں آپکو صرف 20 جنوری تا 19 فروری، 30 اپریل تا 18 ستمبر قدرے مشکلات کا سامنا رہے گا اسی طرح شراکت داری میں کام کرنے والے افراد کو بھی مشترکہ مالی معاملات میں بھی اس دوران خسارے یا مالی معاملات میں التوا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہ افراد جو کسی بھی حوالے سے اس سال مقروض ہیں انھیں قدرے مشکل صورتحال کا سامنا رہے گا آپکو قرض خواہ کی طرف سے شدید تنقید اور دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

روحانیت، بیرون ملک سفر، حج و زیارات، اعلیٰ تعلیم 2019 ان حوالہ جات کی نسبت سے آپکو خداوند متعال کا خاص تحفہ ہے

آپکے ان معاملات سے منسوبہ ستارہ مشتری 13 سال بعد اپنے ہی گھر آنے سے آپکی روحانیت کا سفر شروع کروا رہا ہے آپکے لیے بیرون ملک سفر حج و زیارات اور اعلیٰ تعلیم کے دروازے کھل چکے ہیں آپ مذہبی امور کیجانب دل و دماغ سے راغب ہو رہے ہیں خواہشمند افراد کو حج و زیارات کی سعادت نصیب ہوگی (ان شاء اللہ) البتہ 10 اپریل تا 11 اگست آپکے معاملات میں رکاوٹ یا سست روی آجائے گی اس تمام صورتحال سے قطع نظر اگر آپ کو اپنے متعلقہ معاملات میں رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو تو ہوشیار رہیں چھٹے مشتری کی موجودگی آپکو بندش کا بھی شکار کر سکتی ہے ایسی صورت میں مشتری سے منسوبہ روحانی تدارک کر لیں

معشیت، کیریر روزگار، ترقی، تنزلی گذشتہ سال آپکو کیریر روزگار کے حوالے سے مئی تا نومبر مشکل صورت حال کا سامنا رہا ہے گو کہ امسال بھی حالات پوری طرح موافق نہ ہونگے مگر ملی جلی صورت حال رہے گی امسال آپکو کیریر روزگار کے حوالے سے 14 فروری تا 31 مارچ بالعموم اور 16 مئی تا 2 جولائی بالخصوص اسکے بعد 4 اکتوبر تا 19 نومبر کے دورانیہ میں انتہائی محتاط روش اختیار کرنی ہوگی اس دوران روزگار کی تبدیلی یا کسی بھی بڑے یا اہم فیصلے سے گریز کریں ملازم پیشہ افراد کو تنزلی سے واسطہ پڑ سکتا ہے جبکہ یکم جنوری تا 13 فروری، 3 جولائی تا 4 اکتوبر، 19 نومبر تا 31 دسمبر یہ سال کے بہترین دورانیے ہونگے ان ایام میں آپ بلا خوف و خطر بڑے فیصلے کر سکتے ہیں قدرت کی طرف سے آپکو ترقی کے مواقع میسر آئیں گے بالخصوص 2 جولائی تا 18 اگست آپکے کیریر روزگار و ترقی کیلئے خاصہ اہم اور مناسب وقت ہوگا۔

دوست احباب، خواہشات، کاروباری فوائد آپکی خواہشات کی تکمیل اور کاروباری معاملات کی تکمیل کے حوالے سے یہ ایک ملا جلا سال ہے آغاز سال میں 7 جنوری تا 27 مارچ اور پھر 20 اپریل تا 15 مئی، 21 اگست تا 14 ستمبر اور 18 اکتوبر تا 26 نومبر کا عرصہ آپکی خواہشات کی تکمیل میں رکاوٹ ہوگا ان ایام میں دوستوں سے اختلافات بھی پیدا ہو سکتے ہیں محتاط رہیں کاروباری حوالے سے یہ ایام بہتر نہ ہونگے آپکے کاموں میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے جبکہ 27 مارچ تا 20 اپریل کا دورانیہ بالخصوص اور 15 مئی تا 21 اگست 14 تا 7 اکتوبر بالعموم آپکے لیے موافق ہونگے آپکی خوشحالی میں اضافہ ہو رہا ہے دوستوں کا بھرپور تعاون میسر رہے گا اس دوران کاروباری حوالے سے قسمت آپکا بھرپور ساتھ دے رہی ہے۔

بیرون ملک قیام، امیگریشن، خفیہ سازشیں امسال اس حوالے سے آپکو از حد محتاط روش اختیار کرنا ہوگی آپ پر لازم ہوگا کہ کسی بھی قسم کی جعلی دستاویزات کے استعمال سے گریز کریں 10 فروری تا 17 اپریل کا عرصہ قطعی موافق نہ ہوگا آپکو واپسی کی راہ دیکھنا پڑ سکتی ہے امیگریشن اپلائی یا اپیل وغیرہ سے گریز کریں 17 اپریل تا 6 مئی چند دن درمیان میں قدرے موافق ہونگے اسکے بعد 6 مئی تا 5 جون ایکبار پھر حالات موافق نہ ہونگے کیسز خارج کیئے جانے کے قوی امکانات موجود ہیں 29 اگست تا 14 ستمبر حالات پوری طرح آپکے موافق ہونگے گھر اور جگہ کی تبدیلی یا امیگریشن اپلائی کرنے کے لیے یہ سال کا سب سے بہترین دورانیہ ہے 15 ستمبر تا 13 اکتوبر قدرے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ چند دن احتیاط سے گذار لیں 13 اکتوبر تا 9 دسمبر کا دورانیہ بھی انشاءاللہ آپکے حق میں بہتر ہوگا مگر دسمبر کے مہینہ آپکے کیے خاصہ مشکل ثابت ہو سکتا ہے امیگریشن اپلائی کرنے سے گریز کریں سابقہ کیسز بھی آپکے خلاف جا رہے ہیں۔

شمسی و قمری گرہن امسال ہونے والے شمسی و قمری گرہن آپکی شخصیت اور ہائی پوزیشن کے ساتھ ساتھ آپکے شراکتی اور ازدواجی تعلقات کو بھی بری طرح متاثر کر سکتے ہیں امسال تین گرہن آپکے بیت الزوج میں لگنے سے آپکے مابین علیحدگی کی نوبت آسکتی ہے آپکی طے شدہ شادی بھی ختم ہونے کا اندیشہ ہو گا گرہن کے ایام میں نماز کسوف و خسوف اور صدقات کی ادائیگی کو یقینی بنا کر اپنے پروردگار کی امان حاصل کر سکتے ہیں۔

صدقہ تمام سال ہر جمعرات حسب توفیق کچھ بڑا گوشت اور ہلدی کسی مستحق کو دیں یا جانوروں کو ڈال دیں اور 16 مئی تا 21 جولائی ہر منگل دال مسور یا مرغی کی کلیجی کسی مستحق کو دیں یا جانوروں کو ڈال دیں۔ **ورد خاص** روزانہ بعد از فجر 9 مرتبہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس تلاوت کریں بمعہ اول آخر 9-9 مرتبہ درود پاک۔

اہم نکات 2019ء برج اسد والوں کے لیے کئی ایک حوالے سے ایک اہم سال ہے ستارہ زحل جو گزشتہ سال سے چھٹے موجود ہے امسال بھی یہیں قیام کرتے ہوئے اچھے برے دونوں طرح کے اثرات مرتب کر رہا ہے مشتری پانچویں اپنے گھر موجود رہتے ہوئے بچوں، منگنی اور انعامی سکیموں کے امور پر مثبت اثرات مرتب کر رہا ہے خانگی امور پراپرٹی، اعلیٰ تعلیم، بیرون ملک سفر سے منسوبہ ستارہ مریخ امسال ہبوط میں جانے سے مشکلات پیش آسکتی ہیں۔ راہو گذشتہ سال سے بارہویں میں آچکا ہے اور آپکو لاشعوری طور پر متاثر کر رہا ہے اکثر اسد افراد بے خوابی کا شکار رہیں گے۔

برج: اسد **LEO** **سیارہ:** شمس

رنگ: ______ گولڈن، نارنجی
عنصر: ______ آتشی
جواہر: ______ ہیرا، ایمبیا
بہترین شریک حیات: ______ حمل، قوس، ثور
ناموافق سائنس: ______ عقرب، دلو

بیماریاں: ہائی بلڈ پریشر، ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف، دل کی تکلیف

دن: اتوار **عدد:** 1 24 July to 23 Aug **حروف:** م، ٹ

شخصی وقار آپ ایک امن پسند اور ملنسار شخصیت کے حامل فرد ہیں اور ایک بادشاہ کی طرح سب سے زیادہ خیال اپنی عزت و توقیر کا رکھتے ہیں امسال یکم جنوری تا 19 فروری آپکا ستارہ حضیض اور وبال جیسی کیفیت میں ہونے سے آپکو مشکل صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے 16 مئی تا 6 جولائی عزیز و اقارب کے ساتھ کشیدگی بڑھنے سے آپکا شخصی وقار متاثر ہو سکتا ہے 21 جون تا 23 جولائی گو کہ آپکی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے مگر آپکے خلاف خفیہ سازشیں بھی عروج پر ہونگی 24 جولائی تا 23 اگست آپکا ستارہ اپنے ہی گھر قیام پذیر رہے گا آپکی خود اعتمادی اور وقار میں اضافہ ہوگا 23 ستمبر تا 23 اکتوبر ایکبار پھر عزیز و اقارب سے تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں اپنی سماجی سرگرمیوں کو محدود کریں اور گفتگو میں احتیاط سے کام لیں سال کا باقی عرصہ ان شا اللہ بہتر گذرے گا۔

مالی پوزیشن مالی پوزیشن کے حوالہ سے یہ ایک ملا جلا سال ہے آپکو قانون قدرت کے تحت کشائش اور بندش دونوں طرح کی صورتحال کا سامنا رہے گا 10 فروری تا 17 اپریل، 6 تا 21 مئی 14 ستمبر تا 3 اکتوبر 9 تا 29 دسمبر کا عرصہ آپکے لیے مشکل ثابت ہوگا بالخصوص فروری تا اپریل آپکو خاص احتیاط سے کام لینا ہوگا بہتر ہوگا آپ ان ایام کو مدنظر رکھتے ہوئے قبل از وقت پیش بندی کر لیں آپکے مال سے منسوب ستارہ ایک تیز رفتار ستارہ ہے اور چند ہی دن میں صورتحال کو بدل کر رکھ دیتا ہے خاص احتیاط کریں 17 اپریل تا 5 مئی، 21 مئی تا 5 جون، 29 اگست تا 13 ستمبر، 3 اکتوبر تا 8 دسمبر سال کے وہ دورانیے ہیں جب پروردگار کے فضل سے آپکے مالی مسائل کا حل ممکن ہوگا اور آپکی مالی پوزیشن مستحکم ہو سکے گی

عزیز و اقارب، ابتدائی تعلیم، نزدیکی سفر امسال آپکو اپنے سماجی تعلقات بالخصوص بہن بھائیوں سے بہت ہی احتیاط سے نبھانے ہونگے آغاز سال سے ہی 7 جنوری تا 27 مارچ، 20 اپریل تا 5 مئی، 21 اگست تا 14 ستمبر 8 اکتوبر تا 2 نومبر آپکے تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں احتیاط کریں ان ایام میں اسد بچوں کو تعلیمی حوالہ سے مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا ہو سکتا ہے اسد افراد کو چاہیے ان ایام میں سفر سے گریز کریں بامر مجبوری صدقہ دے کر کر سکتے ہیں ان مشکل ایام میں روزانہ ایک تسبیح یا عزیزُ کا ورد کریں اور ہر جمعہ کم از کم 600 گرام چینی بطور صدقہ درختوں میں ڈالیں

گھر، خاندان، پراپرٹی گذشتہ سال خانگی اور پراپرٹی سے متعلقہ معاملات نے آپکو خاصہ پریشان رکھا گو کہ امسال حالات قدرے بہتر ہونگے مگر سال کا کچھ دورانیہ ایسا بھی ہوگا جب گھر کا ماحول انتہائی خراب ہو سکتا ہے ان ایام میں گھر کی تبدیلی یا خرید و فروخت سے گریز کرنا بہتر ہوگا اور خاندان کے افراد بالخصوص والدہ سے قطعی طور پر اختلافات سے گریز کریں 14 فروری تا 2 جولائی، 4 اکتوبر تا 19 نومبر یہ سال کا وہ دورانیے ہیں جب آپکو احتیاط کرنا ہوگا باقی دورانیہ میں گھر کی تبدیلی اور پراپرٹی کی خرید و فروخت جیسے کام مناسب رہیں گے۔

اولاد، منگنی، انعامی جیسا کہ اولین سطور میں بتایا جا چکا ہے آپکے بیت الاولاد کا حاکم ستارہ مشتری زائچے کے پانچویں دسمبر تک قیام پذیر رہتے ہوئے آپکی منگنی کی راہ ہموار کر رہا ہے مشتری کی سعادت سے انشاءاللہ ان بچوں کی نسبت بھی طے پا جائے گی جن کی بات تا حال کسی بھی وجہ سے طے نہیں پا سکی 10 اپریل تا 11 اگست مشتری کی رجعت کے دوران آپکی بات بنتے بنتے بگڑ یا ختم ہو سکتی ہے اس دوران احتیاط سے کام لیں بے اولاد اسد افراد کو بھی انشاءاللہ امسال اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے رجعت کے ایام میں آپکے بڑے بچوں سے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں اسد افراد کا اس سال کوئی بڑا انعام نکلنے کے قوی امکانات موجود ہیں مگر قسمت آزمائی کے لیے درست وقت کا انتخاب از حد ضروری ہوگا۔

صحت، ملازمت، ملازمین آپکی صحت اور ملازمت سے متعلقہ ستارہ زحل گذشتہ سال سے آپکے زائچے کے چھٹے گھر قیام پذیر ہے اور امسال بھی یہی قیام پذیر رہتے ہوئے آپکے لیے بہتر اور پائیدار ملازمت کا حصول ممکن بنائے گا مگر یکم تا 20 جنوری شمس کے حالت حضیض میں چھٹے قیام سے اور 30 اپریل تا 18 ستمبر زحل کی رجعت کیوجہ سے آپکو قدرے مشکلات پیش آ سکتی ہیں ان ایام میں ملازمت کی تبدیلی اور چھوڑنے سے گریز کریں یہی دورانیہ آپکی صحت کیلئے بھی مناسب نہ ہوگا الغرضی سے گریز کریں زحل کے چھٹے موجودگی کیوجہ سے امسال آپکا واسطہ مکر سے بھی پڑ سکتا ہے محتاط رہیں اسکے علاوہ اسی دورانیہ میں آپکے ملازمین کی جانب سے بھی آپکی پریشانیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔

شادی، ازدواجی زندگی، شراکت داری گذشتہ سال بیت الزوج میں مریخ کی موجودگی اور رجعت نے آپکے تعلقات کو متاثر کیا ہے مگر امسال حالات کافی بہتر رہیں گے سوائے کچھ عرصہ کے 20 جنوری تا 19 فروری ساتویں شمس کی بحالت وبال موجودگی سے آپکے تعلقات کشیدگی کا شکار ہو سکتے ہیں محتاط رہیں ورنہ مابین علیحدگی ہو سکتی ہے شراکت داری اور شادی کے خواہشمند افراد کو امسال کئی ایک مواقع میسر آئیں گے (بالخصوص دوسری شادی کے خواہشمند افراد کو) 30 اپریل کو زحل کی رجعت میں چلے جانے سے معاملات زیر التوا ہو سکتے ہیں آپکی شادی ملتوی ہو سکتی ہے یہ صورتحال 18 ستمبر تک برقرار رہے گی۔ اور آپکے شراکتی اور ازدواجی تعلقات بھی متاثر ہونگے اس صورتحال سے بچاؤ کے لیے زحل سے منسوب صدقات ادا کریں سال کا باقی عرصہ انشاءاللہ بہتر گزرے گا

وراثت ,مشترکہ مالی معاملات ,قرضہ گو کہ امسال آپکے وراثتی معاملات سے متعلقہ ستارہ بہترین پوزیشن میں رہتے ہوئے آپکے متعلقہ معاملات میں بہتری کے اسباب پیدا کرتا رہے گا مگر دیگر سیارگان بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں 10 فروری تا 17 اپریل آٹھویں عطارد کا ہبوط اور رجعت آپکے بنے بنائے کام بگاڑ سکتا ہے کیسز کے فیصلے آپکے خلاف آسکتے ہیں اس دوران قرض خواہ بھی آپکو پریشان کرتے رہیں گے مشترکہ مالی معاملات میں خسارہ کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے دوسری طرف 28 مارچ کو مشتری بھی رجعت میں چلا جائے گا اور 11 اگست تک رجعت میں رہے گا گو کہ 17 اپریل کے بعد حالات قدرِ بہتر ہوجائیں گے مگر مشتری کی رجعت آپکو متاثر کرتی رہے گی آپکے معاملات خواہ مخواہ طویل ہوتے جائیں گے 11 اگست کے بعد حالات انشاءاللہ بہتر ہونگے اب آپکے وراثتی معاملات حل ہوسکیں گے قرض کے خواہشمند افراد کے لیے قرض کا حصول ممکن ہوگا

روحانیت ,بیرون ملک سفر ,حج وزیارات ,اعلیٰ تعلیم ان امور کے حوالے سے یہ ایک ملا جلا سال ہے یکم تا 14 فروری، 2 جولائی تا 4 اگست، 19 نومبر تا آخر سال آپکے بیرون ملک سفر ویزہ اپلائی، اعلیٰ تعلیمی مدارج کے حصول اور روحانی اور دینی معاملات کے حوالے سے سال کے بہترین دورانیے ہیں جبکہ 15 فروری 31 مئی بالعموم اور 16 مئی تا 2 جولائی بالخصوص اور اسکے بعد 14 اکتوبر تا 19 نومبر حالات قطعی موافق نہ ہونگے ان ایام میں سفر یا ویزہ اپلائی کرنے سے گریز کریں وگرنہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے افراد کو بھی مشکلات پیش آسکتی ہیں حتیٰ کہ آپکا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو سکتا ہے اپنے روحانی معاملات میں جذباتیت اور جلد بازی سے گریز کریں مشکل ایام میں پروردگار سے ربط اور بھی ضروری ہوجاتا ہے

معشیت ,کیریر روزگار ,ترقی ,تنزلی امسال کیریر روزگار اور ترقی کے حوالہ سے حالات نہایت سازگار ہونگے مشتری پانچویں نظر سے طالع کو دیکھتے ہوئے آپ پر سعد اثرات مرتب کر رہا ہے جس سے آپکی خوداعتمادی میں از حد اضافہ ہوگا اور آپ اپنی شخصیت میں مقناطیسی کشش محسوس کریں گے جو آپکی ترقی اور روزگار میں بہتری کا باعث ہوگی البتہ قانون قدرت کے مطابق ہر دن کے ساتھ رات بھی پیوستہ ہے امسال 7 جنوری تا 27 مارچ، 20 اپریل تا 15 مئی، 21 اگست تا 14 ستمبر 18 اکتوبر تا 26 نومبر کیریئر کا حاکم ستارہ زہرہ بہتر حالت میں نہ ہوگا ان ایام کو نوٹ فرمالیں اور ان ایام میں کیریئر روزگار کے حوالہ سے کسی بھی بڑے یا اہم فیصلے سے گریز کریں ملازم پیشہ افراد کو تنزلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بتائے گئے عرصے کے علاوہ تمام سال انشاءاللہ موافق رہے گا

دوست احباب ,خواہشات ,کاروباری فوائد آپکے بیت الامید کا حاکم عطارد ایک تیز رفتار ستارہ ہونے کیوجہ سے بڑی تیزی سے حالات میں تبدیلیاں پیدا کرتا رہتا ہے امسال بھی عطارد 4 مثبت اور 4 منفی حالتوں سے گذرے گا اور جب جب بہتر حالات میں آئے گا بحکم خدا بڑی تیزی سے آپکی خواہشات کی تکمیل میں معاون ہوتا ہے کاروباری معاملات تیزی سے تکمیل کے مراحل طے کرتے ہیں جبکہ یہ منفی حالت کا شکار ہوتا ہے تو اتنی ہی تیزی سے متعلقہ معاملات کو بگاڑنا شروع کردیتا ہے امسال 10 فروری تا 17 اپریل 6 تا 21 مئی 14 ستمبر تا 13 اکتوبر 9 تا 29 دسمبر کا دورانیہ موافق نہ ہوگا آپ پر لازم ہوگا کہ ان ایام میں اپنی خواہشات کی تکمیل میں جلد بازی نہ کریں دوست احباب سے بحث وتکرار سوائے نقصان کے کچھ نہ دے گی آپکے کاروباری معاملات میں رکاوٹ پیدا ہوجائے گی یہ دورانیہ محتاط روی سے گذاریں

بیرون ملک قیام ,امیگریشن ,خفیہ سازشیں گذشتہ سال نومبر میں راہو آپکے زائچے کے بارہویں گھر کو متاثر کر رہا ہے اور سارا سال کرتا رہے گا گو کہ امسال آپکے خلاف ہونے والی خفیہ سازشوں کا کامیاب ہونا ممکن نہ ہوگا مگر اسکے ساتھ ساتھ راہو کے اثرات آپکے بیرون ملک قیام کو بھی مشکل بنا دیں گے اگر آپ کسی بھی وجہ سے غیر قانونی مقیم ہیں تو آپکو قید وبند جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے امسال 21 جون تا 23 جولائی کے علاوہ کوئی بھی وقت امیگریشن کے لیے اپلائی کرنے کیلئے موافق نہ ہوگا اسکے علاوہ 21 جنوری تا 17 جولائی کے گرہن بھی آپکے بیرون ملک قیام کو مزید مشکل بنا دینگے اس حوالے سے یہ سال قطعی طور پر موافق نظر نہیں آتا راہو کے درج بالا اثرات میرے گذشتہ کئی سالوں کا ذاتی مشاہدہ ہیں واللہ عالم الصواب

شمسی وقمری گرہن امسال 3 شمسی اور 2 قمری گرہن لگ رہے ہیں جن میں سے 3 گرہن آپکے بیت الصحت میں لگ رہے ہیں اسطرح امسال ان گرہنوں کے اثرات سے آپکی صحت اور ملازمت دونوں شاید خطرات سے دوچار رہیں گے قمری گرہن آپکے بیرون ملک قیام اور امیگریشن سے منسوب معاملات کو بھی متاثر کر رہے ہیں آپکو واپسی کی راہ دیکھنا پڑ سکتی ہے اور تمام شمسی گرہن آپکی عزت توقیر کو متاثر کرسکتے ہیں آپکی ذات الزامات کی زد میں آسکتی ہے انکے اثرات سے بچاؤ کا موثر ترین طریقہ بروقت صدقہ اور نماز کسوف وخسوف کی ادائیگی سے ممکن ہوگا گرہن کی تواریخ کو جنتری میں سے نوٹ فرمالیں پروردگار آپ سبکو اپنی حفظ وامان میں رکھے **صدقہ** ہر ہفتہ کو 800 گرام کالے ماش یا کسی بھی کالی چیز کا صدقہ کسی مستحق کو دیں یا قبرستان میں ڈال دیں

ورد خاص روزانہ ایک تسبیح ورد کریں بمعہ اول وآخر 9-9 مرتبہ درود پاک۔ فسیکفیھم اللہ وھو السمیع العلیم رب انی مغلوب وانتصر

برج: سنبلہ **VIRGO** **سیارہ:** عطارد

رنگ: ______ گہرا زرد، پیلا

عنصر: ______ خاکی

جواہر: ______ گومیدک، زرد عقیق، فیروزہ

بہترین شریک حیات: ______ جدی، ثور

ناموافق ساتھی: ______ قوس، حوت، جوزا

بیماریاں: معدہ، جگر، آنتوں کی بیماریاں، السر، گیس کی تکلیف

دن: بدھ **عدد:** ۵ 24 Aug to 23 Sep **حروف:** پ، خ

اہم نکات سنبلہ افراد کے لیے 2019 گزشتہ کی نسبت بہتر رہے گا (ان شاء اللہ) نظام فلکی کے دونوں بڑے سیارگان مشتری اور زحل اسسال آپکے معاملات پر خاصے اہم اور مثبت اثرات مرتب کر رہے ہیں مگر رجعت کے ایام میں آپکو کچھ مشکلات میں بھی دو چار کر سکتے ہیں تیسرے آٹھویں کے حاکم مریخ کا ہبوط آپکے ساتھی تعلقات بالخصوص بہن بھائیوں سے اور وراثتی، شراکتی مالی معاملات کو متاثر کر رہا ہے اسسال ہونے والے شمسی و قمری گرہن بھی آپکے زائچے کے اہم مقامات پر لگنے سے آپکو شدید متاثر کر رہے ہیں دیگر سیارگان میں شمس و قمر عطارد اور زہرہ اسسال آپ پر درج ذیل اثرات مرتب کر رہے ہیں۔

شخصی وقار شخصی وقار کے حوالہ سے 2019 آپکے لیے ایک بہترین سال ہے مشتری کی چوتھے موجودگی خاندان میں آپکی عزت و توقیر میں اضافہ کے باعث ہوگی مگر آپ پر لازم ہوگا کہ آپ بھی دوسروں کو اتنا ہی احترام دیں جتنی آپ ان سے توقع رکھتے ہیں 10 فروری تا 17 اپریل عطارد ہبوط میں ہونے سے آپ خود پر قنوطیت طاری ہوتی محسوس کریں گے بوجہ ڈپریشن آپکی شخصیت متاثر ہو رہی ہے گفتگو میں محتاط روی اختیار کریں۔ 6 تا 21 مئی، 14 ستمبر تا 3 اکتوبر، 9 تا 29 دسمبر کے دورانیہ بوجہ عطارد اور 21 اگست تا 14 ستمبر طالع میں زہرہ کے ہبوط کی وجہ سے آپکی عزت و توقیر داؤ پر ہوگی اس حوالہ سے ہر بدھ 500 گرام مونگ ثابت کا صدقہ دیں اور جلد بازی میں فیصلوں اور گفتگو سے گریز کریں۔

مالی پوزیشن اسسال آپکی مالی پوزیشن اُتار چڑھاؤ کا شکار رہے گی تنگی و راحت دونوں طرح کے حالات کا سامنا رہے گا 27 مارچ تا 20 اپریل، 9 جون تا 21 اگست، 14 ستمبر تا 8 اکتوبر سال کے وہ دورانیے ہیں جب آپکی مالی پوزیشن مستحکم رہے گی (انشاء اللہ) مگر سال کے کچھ دورانیے ایسے بھی آئیں گے جب آپ مالی تنگی کا شکار رہ سکتے ہیں اگر قبل از وقت کچھ بچت کر لی جائے تو آپ ان مشکل ایام سے بآسانی گزر سکتے ہیں 7 جنوری تا 27 مارچ، 20 اپریل تا 15 اگست، 22 اگست تا 14 ستمبر، 8 اکتوبر تا 9 نومبر یہ سال کے وہ دورانیے ہیں جب آپکو مشکلات پیش آسکتی ہیں امید کرتا ہوں آپ محتاط روش اختیار کریں گے۔

عزیز و اقارب، ابتدائی تعلیم، نزدیکی سفر گزشتہ سال بعد از مئی آپکو اس حوالہ سے خاصہ مشکل صورتحال کا سامنا رہا ہے آپکے تعلقات خاصے کشیدہ رہے ہیں اسسال یکم جنوری تا 14 فروری، 2 جولائی تا 14 اکتوبر، 19 نومبر تا 3 جنوری 2020 تک حالات انشاء اللہ بہتر رہیں گے عزیز و اقارب سے تعلقات بہتر رہیں گے اس دوران آپکو اپنی سوشل اور ضروریات زندگی کے حوالے سے قریبی سفروں سے واسطہ رہے گا جبکہ دوسری طرف 14 فروری تا 31 مئی بالعموم اور 16 مئی تا 2 جولائی کا عرصہ آپکے لیے کافی مشکل ثابت ہوگا اس دوران اپنے تعلقات بنائے رکھنا مشکل ہو جائے گا اسکے بعد 14 اکتوبر تا 19 نومبر کا دورانیہ بھی بہتر نظر نہیں آرہا سنبلہ بچوں کو اس تمام دورانیہ میں تعلیمی مدارج کو عبور کرنے میں مشکل پیش آسکتی ہے ان ایام میں سفروں سے گریز کرنا بہتر ہوگا ورنہ خدانخواستہ کسی حادثہ کا اندیشہ رہے گا

گھر، خاندان، پراپرٹی سعد اکبر ستارہ مشتری چوتھے بیت الارض میں موجود رہتے ہوئے آپکو اپنی سعادتوں سے نواز رہا ہے اپنے گھر کے حوالہ سے آپکی دیرینہ خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ گھر کی تبدیلی تزئین و آرائش کے حوالہ سے یہ ایک آئیڈیل سال ہے انویسٹمنٹ کے حوالہ سے بھی پراپرٹی کی خرید و فروخت منافع بخش رہے گی 10 اپریل تا 11 اگست مشتری کی رجعت کی وجہ سے آپکے معاملات میں قدرے رکاوٹ آجانے کی اس دورانیہ میں اگر متعلقہ امور جاری رکھنا چاہیں تو مشتری سے متعلق روحانی تدراک اختیار کر کے کر سکتے ہیں دسمبر سے حالات موافق نہ ہونگے اب آپکو از حد محتاط رہنا ہوگا ورنہ نقصان کا اندیشہ رہے گا۔

اولاد، انعامی بانڈ، منگنی خوش قسمتی سے مشتری کی طرح پانچویں کا حاکم زحل بھی پانچویں میں ہی تمام سال قیام کرتے ہوئے آپکو بچوں کی جانب سے آسودہ کر دے گا بے اولاد سنبلہ افراد کو بھی اسسال اولاد کے حوالہ سے خوشخبری مل سکتی ہے اگر پھر بھی آپکو خوشخبری نہ ملے تو پھر اپنا انفرادی زائچہ ضرور بنوا کر دیکھیں۔ منگنی کے خواہشمند خواتین و حضرات کی بات طے پا جانے کے قوی امکانات موجود ہیں البتہ 31 اپریل تا 18 ستمبر کا دورانیہ موافق نہ ہوگا اس دوران آپکی بات طے پانے کے امکانات انتہائی کم ہونگے بلکہ آپکی پہلے سے طے شدہ بات بھی خطرے میں ہوگی اسی طرح یکم تا 20 جنوری کا دورانیہ بھی بہتر نہ ہوگا انعامی سکیموں کے شائق افراد کیلئے 21 جنوری تا 29 اپریل اور 19 ستمبر تا 31 دسمبر کا دورانیہ قسمت آزمائی کیلئے بہتر ہوگا آپکا کوئی بڑا انعام نکل سکتا ہے۔

صحت، ملازمت، ملازمین گزشتہ سال چھٹے مریخ کی موجودگی اور رجعت نے آپکی صحت کو خاصہ متاثر کیا ہے اسسال گو کہ حالات گزشتہ کی نسبت بہت بہتر ہونگے مگر پھر بھی سال کے کچھ دورانیے احتیاط کے متقاضی ہونگے 20 جنوری تا 19 فروری شمس کا چھٹے وبال آپکی صحت جاب دونوں کے لیے خطرناک ہو

ہو گا محتاط رہیں۔ 30 اپریل تا 18 ستمبر زحل کی رجعت بھی احتیاط کی متقاضی ہو گی اس دوران جاب، ملازمت چھوڑنے کی غلطی ہرگز نہ کریں ورنہ دوبارہ ملنا مشکل ہو گی یہی وہ دورانیہ ہیں جب آپکو اپنے ملازموں کیجانب سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے عین ممکن ہے کہ وہ بلا نوٹس جاب چھوڑ جائیں محتاط رہیں۔ صحت کے حوالے سے آپکو پٹھوں، جوڑوں، دانتوں کے درد السر اور مرگی جیسے موذی امراض کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

شادی، ازدواجی زندگی، شراکت داری آپکی شادی سے متعلقہ ستارہ گذشتہ سال سے بہترین پوزیشن میں آچکا ہے اور آخر نومبر تک یہیں قیام کرتے ہوئے آپکی شادی نکاح کی راہ ہموار کر رہا ہے امسال آپکے شراکتی ازدواجی تعلقات بہترین نظر آرہے ہیں آپکو نئی اور موثر شراکت داری کی آفر مل سکتی ہے 10 فروری تا 17 اپریل ساتویں عطارد کا ہبوط آپکے مابین غلط فہمیوں کو ہوا دے رہا ہے ایک دوسرے سے گفتگو میں احتیاط کریں افواہوں پر اعتبار نہ کریں ورنہ حالات زیادہ خراب ہو سکتے ہیں 10 اپریل تا 11 اگست مشتری کی رجعت سے آپکے تعلقات میں قدرے کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے اسی طرح آپکی شادی بھی التوا کا شکار ہو سکتی ہے ان ایام میں مشتری سے متعلقہ صدقات دیں اور وظائف پر توجہ دیں۔

وراثت، مشترکہ مالی معاملات، قرضہ اس حوالے سے آپکو ملے جلے حالات کا سامنا رہے گا آغاز سال میں 14 فروری تا 2 جولائی، 14 اکتوبر تا 19 نومبر کا عرصہ آپکو خاصے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وراثتی معاملات کے فیصلے آپکے خلاف ہو سکتے ہیں مشترکہ کاروبار کرنے والے افراد کو مالی خسارہ کرنا پڑ سکتا ہے قرض خواہ آپکے ڈپریشن میں اضافہ کا باعث بن سکتے ہیں جبکہ دوسری طرف آپکے پروردگار نے آپکے لیے آسودگی کے اسباب بھی رکھے ہیں یکم جنوری تا 13 فروری، 2 جولائی تا 13 اکتوبر، 19 نومبر تا آخر سال انشاءاللہ حالات آپکے موافق رہیں گے اب آپکی خواہشات کی تکمیل ممکن ہو گی۔

روحانیت، بیرون ملک سفر، حج و زیارات، اعلیٰ تعلیم امسال آپکو بیرون ملک سفر کے کئی ایک مواقع میسر آئیں گے اس حوالے سے 27 مارچ تا 20 اپریل، 15 مئی تا 21 اگست، 14 ستمبر تا 8 اکتوبر بہترین اوقات ہیں آپکی حج و زیارات سے متعلقہ خواہشات کی تکمیل ہو سکتی ہے اعلیٰ تعلیمی مدارج طے کرنے والے سنبلہ افراد کو بھی انشاءاللہ کامیابی ملے گی آپکی توجہ روحانی علوم کیجانب بڑھ رہی ہے جبکہ 7 جنوری تا 27 مارچ، 20 اپریل تا 15 مئی، 21 اگست تا 14 ستمبر، 8 اکتوبر تا 26 نومبر آپکو ویزہ وغیرہ اپلائی کرنے سے گریز کرنا ہوگا آپکے بیرون ملک سفر میں رکاوٹ آرہی ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے افراد کو بھی مشکلات کا سامنا رہے گا۔

معیشت، کیریر روزگار، ترقی، تنزلی آپکے کیریر روزگار سے متعلقہ ستارہ عطارد چونکہ ایک تیز رفتار ستارہ ہے اس لیے آپکی مالی پوزیشن، کیریر روزگار تیزی سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہو گی پروردگار نے آپکو خاص علمی و عقلی صلاحیتوں سے نوازا ہے انکا بھرپور استعمال کیا کریں امسال 10 فروری تا 17 اپریل خاص طور پر کسی بڑے فیصلے سے گریز کریں اسکے علاوہ 6 تا 21 مئی، 14 ستمبر تا 3 اکتوبر، 9 تا 29 دسمبر کے دورانیے بھی آپسے احتیاط کے متقاضی ہونگے کسی بھی کاروباری زبانی یا تحریری معاہدے یا چیک وغیرہ لکھنے سے گریز کرنا بہتر ہوگا اس دوران کیے گئے معاہدے بعد ازاں آپکے لیے مشکلات کا باعث ہونگے دوسری طرف 17 اپریل تا 6 مئی، 21 مئی تا 14 ستمبر، 3 اکتوبر تا 8 دسمبر کا دورانیہ وہ اوقات ہیں جب حالات آپکے انتہائی موافق ہونگے کاروباری ترقی و تبادلے کیلئے یہ اوقات موزوں ہونگے آپ نئے کاروباری منصوبوں پر عمل پیرا رہیں گے (ان شاءاللہ)

دوست احباب، خواہشات، کاروباری فوائد آپکے زائچہ کا گیارہواں حصہ جو کہ آپکی خواہشات اور دوست احباب سے متعلق ہے اسکا حاکم ستارہ قمر ہر ماہ شرف و ہبوط، اوج و وبال جیسی کیفیات سے گذرتے ہوئے تیزی سے معاملات میں تغیر پیدا کرتا رہتا ہے اگر آپ ہر ماہ قمر در عقرب میں قمر سے منسوب صدقات دینا معمول بنالیں تو اپنی خوشحالی کی تنسیخ سے بچ سکتے ہیں اسکے علاوہ امسال ہونے والے قمری گرہن جو کہ 21 جنوری اور 17 جولائی کو لگ رہے ہیں ان ایام میں نماز آیات اور گرہن سے متعلقہ صدقات ضرور ادا کریں باقی تمام سال ان شاءاللہ موافق ہوگا۔

بیرون ملک قیام، امیگریشن، خفیہ سازشیں امسال امیگریشن اپلائی کرنے کے خواہشمند افراد کیلئے 21 مارچ تا 20 اپریل، 21 جون تا 23 اگست، 22 نومبر تا 22 دسمبر کا عرصہ موافق ہوگا پہلے سے مقیم افراد کو بہتر رہائش میسر آسکتی ہے اگر آپنے اپیل وغیرہ دائر کر رکھی ہے تو اس دوران انکا فیصلہ بھی آپکے حق میں آسکتا ہے جبکہ آغاز سال تا 20 مارچ، 20 مئی تا 21 جون، 23 ستمبر تا 23 اکتوبر کا عرصہ آپکے موافق نہ ہوگا امیگریشن اپلائی کرنے سے گریز کریں آپکو جگہ کی تبدیلی یا واپس وطن آنا پڑ سکتا ہے محتاط رہیں اول الذکر دورانیہ میں آپکو محتاط بھی رہنا ہوگا اس دورانیہ میں آپکو خفیہ سازشوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مگر آخر الذکر دورانیہ میں ان شاءاللہ آپکے دشمن ذلیل و خوار ہونگے مگر احتیاط از حد لازم ہوگی۔

شمسی و قمری گرہن امسال تین گرہن شمسی اور دو قمری لگ رہے ہیں شمسی گرہن بالترتیب 6 جنوری، 3 جولائی اور 26 دسمبر کو لگ رہے ہیں ہیں

گرہن جہاں آپکے بچوں، منگنی خواہشات اور دوستوں سے تعلقات جیسے امور کو متاثر کر رہے ہیں وہیں قدرت کی مہربانی سے آپکے خفیہ دشمنوں پر بھی بھاری پڑیں گے امسال دو قمری گرہن بالترتیب 21 جنوری اور 17 جولائی کو لگ رہے ہیں انکے اثرات کا ذکر پہلے ہی کیا جا چکا ہے انکے منفی اثرات سے بچاؤ کیلئے صدقات اور نماز آیات کی بروقت ادائیگی کریں اور اللہ کی امان پائیں پروردگار آپ سب کو اپنی خاص امان میں رکھے (آمین)

وردِ خاص روزانہ بعد از فجر ایک تسبیح ورد کریں۔ (فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۖ وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ) (سورہ یوسف آیت 64)

صدقہ ہر منگل 900 گرام دال مسور یا مرغی کی کلیجی کسی مستحق کو دیں یا جانوروں کو ڈال دیں

برج: میزان **LIBRA** **سیارہ: زہرہ**

رنگ: نیلا، زردی مائل سبز، نارنجی
عنصر: ہوا
جواہر: ہیرا، اوپل
بہترین شریک حیات: دلو، جوزا
ناموافق ساتھی: جدی، حمل
بیماریاں: نزلہ زکام، سر درد، گردوں اور آنکھوں کی بیماریاں

دن: جمعہ **عدد:** 6 24 Sep to 23 Oct **حروف:** ر، ت، ط

اہم نکات 2019، آپکے لیے بہت ساری مثبت و منفی تبدیلیوں کا سال ہے گزشتہ سال چوتھے زحل اور پانچویں مریخ کی رجعت نے آپکو اچھا خاصہ متاثر کیا ہے اور حالات امسال بھی ملے جلے رہیں گے امسال مریخ کا کیریئر روزگار کے گھر ہبوط آپکی مالی پوزیشن کیلئے انتہائی نقصان دہ ہوگا زحل کی چوتھے موجودگی پراپرٹی کے حصول اور لین دین میں معاون ہوگی تیسرے چھٹے کا حاکم مشتری تیسرے موجود رہتے ہوئے آپکی سماجی مصروفیات کو بڑھا دے گا مشتری کی نویں نظر آپکی خواہشات کی تکمیل میں معاون ہوگی دیگر سیارگان امسال سیر افلاک کے دوران آپ پر درج ذیل اثرات مرتب کر رہے ہیں۔

شخصی وقار گزشتہ سال چوتھے زحل کی رجعت اور مریخ کی موجودگی اور رجعت نے خاندان میں آپکی عزت و توقیر کو خاصہ متاثر کیا ہے امسال بھی زحل چوتھے ہی قیام پذیر رہے گا اور 30 اپریل تا 18 ستمبر رجعت میں بھی رہے گا خانگی معاملات ایکبار پھر اختلافات کی نذر ہو سکتے ہیں خاندان کے باقی افراد سے بنائے رکھنا مشکل ہوگا۔ آپکا ذاتی ستارہ زہرہ ایک سال میں 4 منفی اور 4 مثبت کیفیات سے گزرتا ہے اور جب جب مثبت ہوتا ہے تب تب آپکی عزت و توقیر میں اضافے کا باعث بنتا ہے اور جب منفی ہوتا ہے تو آپکی عزت و توقیر بھی داؤ پر ہوتی ہے امسال 7 جنوری تا 27 مارچ، 20 اپریل تا 15 مئی، 21 اگست تا 14 ستمبر بالخصوص آپکا وقار داؤ پر ہوگا اس دوران گفتگو میں بہت محتاط رہیں جلد بازی میں کسی بھی فیصلے سے گریز کریں اسکے بعد 8 اکتوبر تا 26 نومبر کا دورانیہ بھی موافق نہ ہوگا محتاط رہیں بتائے گئے عرصے کے علاوہ تمام سال موافق ہوگا (ان شاء اللہ)

مالی پوزیشن جیسا کہ گزشتہ سطور میں بتایا جا چکا ہے امسال آپکو اپنے مالی معاملات کو بہت محتاط روی سے چلانا ہوگا یکم جنوری تا 14 فروری حالات موافق نظر آ رہے ہیں 15 فروری تا 31 مارچ بالعموم اور 16 مئی تا 2 جولائی آپکو بالخصوص محتاط رہنا ہوگا اب پیسوں کا حصول مشکل ہوگا آپکو کاروباری خسارہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے 2 جولائی کے بعد 4 اکتوبر تک حالات بہتری کی جانب مائل رہیں گے آپکی مالی پوزیشن مستحکم ہو رہی ہے 4 اکتوبر تا 19 نومبر مالی فیصلوں میں جلد بازی سے گریز کریں بالخصوص قرض کے لین دین میں بہت محتاط رہیں 19 نومبر تا آخر سال خانہ مال کا حاکم مریخ خانہ مال میں ہی موجود رہتے ہوئے آپکی مالی پوزیشن کو مستحکم کرتا رہے گا آپکو بڑھنے پھولنے کا بھرپور موقع ملے گا۔

عزیز و اقارب، ابتدائی تعلیم، نزدیکی سفر سعد اکبر ستارہ مشتری گزشتہ سال سے آپکے بیت الاقرباء میں قیام کرتے ہوئے آپکو اپنی سعادتوں سے نواز رہا ہے میزان بچوں کیلئے امسال بہترین مدارس اور تعلیم کا حصول ممکن ہوگا۔ عزیز و اقارب بالخصوص بہن بھائیوں کیساتھ تعلقات میں بہتری آ رہی ہے اسی طرح آپکو امسال سعادتوں سے بھرپور کئی ایک سفر بھی ملیں گے۔ 10 اپریل تا 11 اگست یہ چار ماہ مشتری رجعت میں رہنے سے آپکے تعلقات میں قدرے کھچاؤ و تناؤ کی کیفیت رہے گی اس دوران آپکو محتاط روش اختیار کرنا ہوگی یہ عرصہ صبر و تحمل سے گزار لیں اسکے بعد 9 تا 29 دسمبر آپکے مابین غلط فہمیوں کی بنا پر حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں محتاط رہیں۔

گھر، خاندان، پراپرٹی زائچہ کے چوتھے زحل کی موجودگی خواہشمند افراد کیلئے بہتر گھر یا پلاٹ وغیرہ کے حصول کو ممکن بنا رہی ہے یہ موقع آپکو قدرت کی طرف سے عطا ہوا ہے ستارہ زحل جو کہ علم نجوم کی روح ہے زمین سے ہی متعلق ہے اسکی سعادت آپکے لیے بہتر پراپرٹی کے حصول کو ممکن بنا رہی ہے خواہ وہ رہائش کی غرض سے ہو یا انویسٹمنٹ کے نقطہ نظر سے ہو۔ خانگی معاملات میں بھی (انشاء اللہ) بہتری آ رہی ہے البتہ 30 اپریل تا 18 ستمبر زحل کی رجعت آپکے معاملات کو التوا کا شکار کر سکتی ہے مایوس ہونے کی بجائے زحل سے متعلقہ صدقات دینا اپنا معمول بنا لیں (ان شاء اللہ) مشکلات سے بچے رہیں گے۔

اولاد، انعامی بانڈ، منگنی 2018ء ان حوالہ جات کے حوالہ سے میزان والوں کے لیے خاصہ مشکل ثابت ہوا ہے امسال انشاءاللہ حالات گذشتہ کی نسبت کافی بہتر رہیں گے آغاز سال میں 20 جنوری تا 19 فروری پانچویں شمس کا وبال آپکو بچوں کے حوالہ سے پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے آپکی منگنی خطرے میں ہوگی اس دوران نئے معاہدوں سے بھی گریز کریں۔ میزان بے اولاد افراد کو (ان شاءاللہ) اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے یوں تو ان حوالہ جات کی نسبت سے سارا سال ہی موافق نظر آرہا ہے مگر 10 اپریل تا 18 ستمبر زحل کی رجعت کی وجہ سے آپکو بچوں کیجانب سے مشکلات پیش آسکتی ہیں حاملہ خواتین کو بچوں کی افزائش کے حوالے سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے۔ منگنی نسبت کے حوالے سے بھی یہ دورانیہ محتاط روش کا متقاضی ہوگا تعین ممکن ہے کہ بات تو چلے مگر کچھ بھی طے نہ ہونے پائے سال کا باقی دورانیہ انشاءاللہ بہتر رہے گا۔

صحت، ملازمت، ملازمین اس حوالے سے جنوری تو بہتر گذرے گا مگر 10 فروری تا 17 اپریل چھٹے عطارد کی ہبوطی کیفیت اور رجعت آپکی صحت اور ملازمت دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوسکتی ہے ان ایام میں اگر صحت خراب ہو تو سب سے پہلے روحانی تدراک پر توجہ دیں آپکی صحت بوجہ سحر خراب ہوسکتی ہے ملازم پیشہ افراد کے لیے خاص ہدایت ہے اس دوران ملازمت کی تبدیلی یا چھوڑنے سے قطعی گریز کرنا ہوگا مگر بعد ازاں پچھتاوا کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے 27 مارچ تا 20 اپریل گو کہ عین اسی جگہ زہرہ کا شرف آپکو تبدیلی پر اکسائے گا مگر احتیاط لازم ہوگی 10 اپریل تا 11 اگست چھٹے کے حاکم مشتری کی رجعت بھی آپکے مسائل میں اضافہ کا باعث ہوگی صحت کا خیال رکھیں گو کہ آپ اپنی ملازمت سے مطمئن نہیں مگر چھوڑنے کی غلطی ہرگز نہ کریں۔

شادی، ازدواجی زندگی، شراکت داری اس سال آپکو اپنے شراکتی، ازدواجی معاملات کو بہت محتاط روی سے چلانا ہوگا یکم جنوری تا 13 فروری حالات بہتر رہیں گے مگر 14 فروری تا 31 مارچ بالعموم جبکہ 16 مئی تا 2 جولائی حالات آپکے قطعی موافق نہ ہونگے آپکو ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا ہوگا اختلافات سے ہر ممکن گریز کریں وگرنہ مابین علیحدگی ہوسکتی ہے 3 جولائی تا 4 اکتوبر کے دورانیہ میں حالات قدرے موافق ہونگے آپکو معاملات سنبھالنے میں مدد ملے گی یہ دورانیہ شادی کے لیے ایک بہترین وقت ہوگا مگر ایام عزا کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا شراکت داری کے خواہشمند افراد کو نئی اور بہتر شراکت داری کی آفر مل سکتی ہے 4 اکتوبر تا 19 نومبر کا دورانیہ بھی موافق نظر نہیں آرہا افواہوں اور غلط فہمیوں سے خود کو محفوظ رکھیں بغیر تصدیق اور جلد بازی میں کسی بھی بات پر یقین نہ کریں، آپکی طے شدہ شادی بھی ختم ہوسکتی ہے از حد محتاط رہیں سال کا باقی دورانیہ ان شاءاللہ موافق رہے گا آپکے لیے نئے مواقع پیدا ہورہے ہیں۔

وراثت، مشترکہ مالی معاملات، قرضہ 7 جنوری تا 31 مارچ حالات آپکے قابو سے باہر ہونگے مشترکہ مفادات کے حوالے سے آپکو مالی خسارہ کا سامنا ہوسکتا ہے یہاں تک کہ آپ مقروض بھی ہوسکتے ہیں یکم تا 20 اپریل حالات بہتر رہیں گے گو کہ یہ دورانیہ بہت کم ہے مگر حالات بھی اتنی ہی تیزی سے بہتر ہونگے آپکے لیے وراثت کا حصول بھی ممکن ہوگا اس کے بعد 15 مئی تا 21 اگست آپکے لیے سال کا سب سے بہترین وقت ہے قرضے کی ادائیگی اور وصولی دونوں ممکن ہونگی اسکے بعد 14 ستمبر تا 8 اکتوبر کا دورانیہ بھی موافق ہوگا جبکہ 20 اپریل تا 14 مئی، 21 اگست تا 14 ستمبر، 8 اکتوبر تا 26 نومبر کا دورانیہ قطعی موافق نہ ہوگا ان ایام میں آپکو اپنے معاملات میں سست روی اور محتاط روی اختیار کرنا ہوگی آپکے وراثتی معاملات تعطل کا شکار ہوسکتے ہیں

روحانیت، بیرون ملک سفر، حج و زیارات، اعلیٰ تعلیم : امسال خواہشمند افراد کو حج و زیارات کی سعادت حاصل ہوسکتی ہے۔ اسی طرح میزان افراد کو روحانی مدارج طے کرنے کے بھی کئی ایک مواقع میسر آئیں گے مگر قانون خداوندی کے تحت کچھ عرصہ غیر موافق بھی ہوگا 10 فروری تا 17 اپریل بالخصوص اور 6 تا 21 مئی، 14 ستمبر تا 3 اکتوبر، 9 تا 29 دسمبر کے دورانیے بالعموم موافق نہ ہونگے ان ایام میں آپکے سفروں میں رکاوٹ آسکتی ہے ویزہ وغیرہ اپلائی کرنے سے گریز کریں وگرنہ مسترد ہونے کے امکانات زیادہ ہونگے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے میزان افراد کو بھی مشکل صورتحال سے واسطہ رہے گا روحانیت کی سوجھ بوجھ یا اس حوالہ سے علم حاصل کرنے کے شائق افراد کو اس دوران بلا اجازت یا سیاق و سباق سمجھے بغیر کوئی عمل شروع نہیں کرنا چاہیے سال کا باقی دورانیہ انشاءاللہ آپکے موافق ہوگا اور اسی عرصے میں ویزہ وغیرہ بھی اپلائی کرنا بہتر ہوگا۔

معشیت، کیریر روزگار، ترقی، تنزلی گو کہ یہ سال گذشتہ سال کی نسبت قدرے بہتر ہوگا مگر پھر بھی احتیاط کا دامن قطعی نہ چھوڑیں جیسا کہ گذشتہ سال آپکو بتا چکا ہوں کہ آپ پر لازم ہے کہ اگر آپ کاروباری لحاظ سے خود کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ہر قمر در عقرب اور قمری گرہنوں میں صدقہ ضرور ادا کیا کریں تاکہ محفوظ رہیں اسی طرح ہر ماہ ہونے والا اشرف قمر آپکے لیے کاروباری ترقی کے نئے راستے کھول دیتا ہے یہ آپ پر پروردگار کا خاص کرم ہے امسال 16 مئی تا 2 جولائی آپکو از حد محتاط رہنا ہوگا کیریر روزگار کے گھر مریخ کا ہبوط آپکی معیشت کو تباہ کر سکتا ہے ملازم پیشہ افراد کو اپنے مالک یا سینئر کیجانب سے

شدید تنقید کا سامنا رہے گا آپکا تنزلی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے مگر اسی دوران شمس کے کیریئر کے گھر اوج یافتہ آجانے سے امداد بھی حاصل ہو جائے گی شمس یہاں 23 جولائی تک قیام پذیر رہنے سے آپکو معاملات سنبھالنے اور سدھارنے کا موقع مل جائے گا یا ایک بہتر وقت ہے (قمری گرہنوں کی تواریخ زائچہ کے آخر میں مل جائیں گی)

دوست احباب, خواہشات, کاروباری فوائد سال کے ابتداء میں یکم جنوری تا 21 مارچ حالات قدرے موافق نہ ہونگے اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھیں دوست احباب سے منسوبہ خواہشات پایہ تکمیل تک پہنچنا مشکل ہوگا اسکے بعد 20 اپریل تا 21 جون، 23 ستمبر تا 23 اکتوبر کے دورانیہ بھی موافق نہ ہونگے آپکو محتاط روش اختیار کرنا ہوگی جبکہ 21 مارچ تا 20 اپریل، 21 جون تا 23 اگست، 22 نومبر تا 22 دسمبر کے دورانیے آپکے لیے موافق حالات لے کر آ رہے ہیں آپکے گذشتہ کاروباری معاملات کے ثمرات آپکو مل سکیں گے اور دوستوں کے تعاون سے آپکی خواہشات کی تکمیل ممکن ہوگی اس دورانیہ کو منصوبہ بندی کے تحت اور بھی مفید بنایا جا سکتا ہے اس لیے قبل از وقت منصوبہ بندی کر لینا بہتر ہوگا۔

بیرون ملک قیام, امیگریشن, خفیہ سازشیں امیگریشن کے خواہشمند افراد اور بیرون ملک مقیم افراد کو امسال اچھے برے دونوں طرح کے حالات کا سامنا رہے گا آپکے لیے امیگریشن کے حوالے سے درست وقت کا انتخاب از حد ضروری ہوگا امسال 10 فروری تا 17 اپریل، 6 تا 21 مئی، 14 ستمبر تا 3 اکتوبر، 9 تا 29 دسمبر کا دورانیہ آپکے لیے موافق نہ ہوگا ان ایام میں امیگریشن اپلائی کرنے یا اپیل وغیرہ میں جانے سے گریز کریں جو احباب پہلے ہی اپلائی کر چکے ہیں ان کو بھی واپسی کی راہ دیکھنا پڑ سکتی ہے پہلے سے مقیم افراد کو جگہ کی تبدیلی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اس حوالہ سے 17 اپریل تا 6 مئی، 21 مئی تا 14 ستمبر، 3 اکتوبر تا 9 دسمبر کا دورانیہ گھر کی تبدیلی یا امیگریشن اپلائی کرنے کے لیے موافق ہوگا مگر محتاط رہیں یہی وہ ایام ہیں جب آپکے خلاف خفیہ سازشیں عروج پر ہونگی۔

شمسی و قمری گرہن امسال ہونے والا 6 جنوری کا شمسی گرہن اور 17 جولائی کا قمری گرہن، 26 دسمبر کا شمسی گرہن زائچہ کے اہم ترین مقام چوتھے گھر لگ رہا ہے آپکو خانگی اور پراپرٹی سے واسطہ مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے ان ایام میں گھر کی تبدیلی / خرید و فروخت اور کاروباری اہم فیصلوں سے گریز کریں 21 جنوری اور 3 جولائی کے گرہن آپکے تعلقات کشیدہ کر سکتے ہیں آپکی خوش بختی کی تسخیر ہو سکتی ہے کاروباری تبدیلیوں اور کیریئر روزگار کے حوالہ سے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے محتاط رہیں اور صدقات اور منسوبہ نماز آیات کی ادائیگی کو یقینی بنائیں تاکہ پروردگار کی امان میں رہیں۔ خیر اندیش: شیخ زوار رضا جاوا

ورد خاص روزانہ بعد از فجر ایک تسبیح سورۃ آل عمران آیت 26 تلاوت کریں **صدقہ** ہر منگل 900 گرام دال مسور یا مرغی کی کلیجی کسی مستحق کو دیں یا جانوروں کو ڈال دیں

اہم نکات 2019 کی سب سے اہم بات مشتری کی آغاز دسمبر تک خانہ مال میں موجودگی ہوگی مشتری 13 سال بعد اس پوزیشن میں آتا ہے بیت الاقربا اور بیت الارض کا حاکم زحل بھی امسال آپکے معاملات میں خاصہ اہم کردار ادا کر رہا ہے آپکا اپنا ستارہ مریخ امسال ہبوط میں جانے سے آپکی عزت و توقیر، صحت، ملازمت اور بیرون ملک سفر دونوں خطرے میں ہونگے دیگر سیارگان میں شمس اور قمر، عطارد اور زہرہ امسال شرف، ہبوط جیسے مدارج کو طے کرتے ہوئے آپ پر درج اثرات مرتب کر رہے ہیں امسال لگنے والے پانچ گرہن آپکے زائچہ کے اہم ترین معاملات کو متاثر کر سکتے ہیں ان پر خاص نظر رکھیں۔

برج: عقرب SCORPIO ستارہ: مریخ

رنگ: ______ نیلا، سرخ
عنصر: ______ آبی
جواہر: ______ مگر ریڈ عقیق، موتی
بہترین شریک حیات: ______ حوت، سرطان
ناموافق ساتھی: ______ دلو، ثور، اسد
بیماریاں: سر، حلق، ناک کی بیماریاں، ہچکی، نزلہ، معدہ

دن: منگل **عدد:** 9 24 Oct to 22 NOv **حروف:** ن، ق، ش، خ

شخصی وقار گذشتہ سال ستارہ مریخ کی برج دلو میں بحالت تخفیف موجودگی اور رجعت نے آپکی توقیر کو خاصہ متاثر کیا ہے امسال بھی آپکو ہر قدم احتیاط سے رکھنا ہوگا آپکے طالع کا حاکم ستارہ مریخ 14 فروری تک گو کہ بہتر حالت میں ہوگا مگر آپکو کچھ ظاہری مخالفتوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا 14 فروری تا 31 مارچ آپکو محتاط رہنا ہوگا آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں اپنی اس ذہنی کیفیت کو دوسروں پر ظاہر ہونے سے بچائیں وگرنہ آپکا وقار مجروح ہو سکتا ہے 16 مئی تا 2 جولائی کا دورانیہ آپکے لیے سال کا مشکل ترین وقت ثابت ہو سکتا ہے آپکو لوگوں کی طرف سے الزامات اور سخت سست سننے کو مل سکتا ہے سسرالی عزیزوں سے تعلقات بنائے رکھنا خاصہ مشکل ہوگا 3 جولائی سے حالات میں مثبت تبدیلی آ رہی ہے آپکی خود اعتمادی میں اضافہ ہو رہا ہے آپ مسائل کو سنبھالنے میں مصروف ہیں یہ سلسلہ 23 اگست تک چلے گا 14 اکتوبر تا 19 نومبر جہاں آپکا ستارہ وبال میں ہوگا وہیں آپکے خفیہ دشمن پر قابو پانے میں بھی معاون ہوگا 19 نومبر تا آخر سال (ان شاء اللہ) بہتر گذرے گا۔

مالی پوزیشن سعد اکبر ستارہ مشتری گذشتہ سال آپکے خانہ مال میں آ چکا ہے اور آخر نومبر تک یہیں قیام پذیر رہتے ہوئے آپکی مالی پوزیشن کو مستحکم کر رہا ہے قدرت کی طرف سے اپنی مالی پوزیشن کو مستحکم کرنے کا یہ بہترین موقع ہے آپکو اس صورتحال کو بہترین منصوبہ بندی سے سنبھالنا چاہیے۔

11 اپریل تا 11 اگست ستارہ مشتری رجعت میں رہنے سے جہاں روپے پیسے کی آمد قدرے سست ہو جائے گی وہیں آپکے اخراجات میں تیزی آ جائے گی محتاط رہیں ورنہ آپکی مالی پوزیشن متاثر ہو سکتی ہے 2 تا 26 نومبر خانہ مال میں زہرہ کا تخسیف دشمنوں کی جانب سے آپکو مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کی نشاندہی کر رہا ہے ان پر نظر رکھیں دسمبر کا مہینہ انتہائی مشکل ثابت ہو سکتا ہے

عزیز و اقارب، ابتدائی تعلیم، نزدیکی سفر آپکے بیت الاقربا کا حاکم زحل گذشتہ سال کی طرح اسسال بھی آپکے بیت الاقرباء میں ہی قیام پذیر ہے کہ زحل کی اپنے ہی گھر موجودگی عزیز و اقارب سے تعلقات بہتر بنا رہی ہے مگر یکم تا 20 جنوری پہلے شمس کے تیسرے تخسیف اور پھر چوتھے 19 فروری تک وہاں عزیز و اقارب اور خاندان کے افراد کے ساتھ تعلقات کشیدہ کر سکتا ہے 30 اپریل کو زحل رجعت میں چلے جانے سے آپکو سفروں میں رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے عقرب بچوں کو بھی تعلیمی میدان میں رکاوٹوں کا سامنا رہے گا آپکو بہن بھائیوں سے تعلقات بنائے رکھنا مشکل ہو جائے گا مگر تحمل سے کام لیں اب اپنی سماجی سرگرمیوں کو محدود کرنا بہتر ہوگا یہ سلسلہ 18 ستمبر تک چلے گا سال کا باقی دورانیہ (ان شاء اللہ) بہتر گزرے گا آپکے تعلقات تیزی سے بحال ہو رہے ہیں۔

گھر، خاندان، پراپرٹی سال کا آغاز گو کہ بہتر ہو رہا ہے مگر 20 جنوری تا 19 فروری شمس کے چوتھے وہاں سے خاندان کے افراد سے کشدگی پیدا ہو سکتی ہے آپکو ناگہانی طور پر جگہ کی تبدیلی سے واسطہ پڑ سکتا ہے جبکہ دوسری طرف 30 اپریل تا 18 ستمبر زحل کی رجعت کی وجہ سے آپکے خانگی معاملات کشیدگی کا شکار ہو سکتے ہیں اس دورانیہ میں گھر کی تبدیلی یا پراپرٹی کے لین دین سے گریز کریں ورنہ نقصان کا اندیشہ رہے گا 18 ستمبر کے بعد حالات (ان شاء اللہ) موافق رہیں گے اب پراپرٹی کا لین دین آپکے لیے فائدہ مند ہوگا۔

اولاد، انعامی بانڈ، منگنی ان حوالہ جات میں 2019ء آپکے لیے ایک ملا جلا سال ثابت ہوگا آپکے پانچویں کا حاکم مشتری بہترین پوزیشن میں رہتے ہوئے جہاں آپکو بفضل تعالیٰ اولاد کی خوشخبری سے نواز رہا ہے وہیں 10 فروری تا 17 اپریل پانچویں عطارد کا ہبوط آپکے اور بچوں کے مابین غلط فہمیوں کو بڑھا دے گا بچوں کی غلط گفتگو اور فیصلے آپکی پریشانیوں میں اضافہ کا باعث ہونگے اس دوران آپکی منگنی بھی خطرے میں ہوگی کوئی بات طے پانے کے ویسے ہی امکانات کم ہیں پھر بھی اس دوران بات طے کرنے سے گریز کریں دوسری طرف 27 مارچ کو زہرہ پانچویں شرفیاب حالت میں آ جانے سے حالات قدرے بہتر نظر آئیں گے مگر محتاط رہیں 10 اپریل تا 11 اگست مشتری کی رجعت کیوجہ سے معاملات پوری طرح آپکے کنٹرول میں نہ ہونگے مگر بعد از 11 اگست حالات انشاء اللہ انتہائی موافق ہونگے آپکی منگنی طے پا جانے کے قوی امکانات موجود ہیں بچوں سے جاری کشیدگی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا انعامی سکیموں کے شائق افراد کیلئے پہلے چار ماہ موافق نہ ہونگے اور دسمبر بھی موافق نہ ہوگا باقی عرصہ میں آپکا کوئی بڑا انعام لگ سکتا ہے۔

صحت، ملازمت، ملازمین آپکی صحت اور ملازمت کے حوالے سے یہ سال کچھ بہتر نظر نہیں آ رہا آپکو اس حوالے سے خاص احتیاط کی ضرورت ہوگی یکم تا 14 فروری حالات بہتر رہیں گے آپکے لیے حسب خواہش بہتر جاب کا حصول ممکن ہوگا 14 فروری تا 31 مارچ مریخ کے وبال میں چلے جانے سے آپکی صحت متاثر ہونا شروع ہو جائے گی آپکو سر درد اور گلے کی تکلیفات کا سامنا ہو سکتا ہے 20 اپریل تا 15 مئی آپکی صحت کی خرابی آپکو ہسپتال کی راہ دکھا سکتی ہے 16 مئی تا 2 جولائی آپکو از حد محتاط رہنا ہوگا کسی بھی قسم کے لڑائی جھگڑے اور تیز دھار آلے یا آتشی ہتھیار سے دور رہیں ورنہ شدید نقصان کا اندیشہ رہے گا اسی دوران آپکو خدانخواستہ سرجری کروانا پڑ سکتی ہے اس دورانیہ میں جاب چھوڑنے کی غلطی ہرگز نہ کریں 2 جولائی تا 14 اکتوبر حالات میں تیزی سے بہتری آئے گی آپکی صحت بہتر ہو رہی ہے اب جاب کی تبدیلی ممکن ہوگی 15 اکتوبر تا 19 نومبر ایکبار پھر صحت کے مسائل سر اٹھا رہے ہیں سال کا باقی عرصہ ان شاء اللہ بہتر گزرے گا۔

شادی، ازدواجی زندگی، شراکت داری اسسال اس حوالہ سے آپکے حالات میں بہت تیزی سے تبدیلیاں رونما ہونگی آپکو بہت محتاط روش اختیار کرنا ہوگی آپکو 7 جنوری تا 27 مارچ، 20 اپریل تا 15 مئی، 21 اگست تا 14 ستمبر، 8 اکتوبر تا 26 نومبر خاصے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپکی طے شدہ شادی بھی اس دوران منسوخ ہو سکتی ہے آپکی ازدواجی اور شراکتی زندگی بھی اس عرصہ میں مخدوش حالات کا شکار رہیں گی اگر آپنے احتیاط سے کام نہ لیا تو نوبت علیحدگی تک جا سکتی ہے بالخصوص اگست اور ستمبر والا دورانیہ خاصہ مشکل ہوگا سال کے باقی دورانیے (ان شاء اللہ) موافق رہیں گے اس دورانیے میں آپکی شادی طے پانے کے قوی امکانات موجود ہیں پہلے سے شادی شدہ افراد کے حالات بھی بہتر رہیں گے خواہشمند افراد کو شراکت داری کی آفر مل سکتی ہے۔

وراثت، مشترکہ مالی معاملات، قرضہ اس حوالے سے سال کا کچھ دورانیہ موافق نہ ہوگا 10 فروری تا 17 اپریل، 6 تا 21 مئی، 14 ستمبر تا 13 اکتوبر، 9 تا 29 دسمبر یہ سال کے وہ دورانیے ہیں جب آپکو وراثتی معاملات میں رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بالخصوص وہ افراد محتاط رہیں جو کہ فارکیس

یا اسٹاک ایکسچینج جیسے معاملات میں کام کرتے ہیں ان ایام میں کسی بھی قسم کے قرضے کے لین دین سے گریز کریں دوسری طرف 17 اپریل تا 6 مئی، 21 مئی تا 5 جون، 29 اگست تا 14 ستمبر، 13 اکتوبر تا 9 دسمبر سال کے وہ دورانیے ہیں جب آپکو اپنے واتی معاملات سنبھالنے کا موقع ملے گا اس دوران عدالتی فیصلے آپکے حق میں آسکتے ہیں مشترکہ مالی معاملات میں منافع کا حصول ممکن ہوگا اور حسب خواہش قرضہ کا حصول بھی ممکن ہوگا۔

روحانیت، بیرون ملک سفر، حج وزیارات، اعلیٰ تعلیم پروردگار کے کرم سے عقرب افراد کو امسال بیرون ملک سفر وزیارات کے کئی ایک مواقع میسر آئیں گے حج کے خواہشمند افراد کو بھی سعادت نصیب ہوسکتی ہے آپکے اعلیٰ تعلیمی مدراج بھی ترقی کیجانب گامزن ہیں مگر آپ پر لازم ہوگا کہ ویزہ وغیرہ اپلائی کرتے وقت یا سفر کی تواریخ طے کرتے وقت قمر در عقرب کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں وگرنہ رکاوٹ پیش آسکتی ہے اسکے علاوہ 16 مئی تا 2 جولائی کے دورانیہ کو نوٹ فرمالیں اسی دوران ویزہ اپلائی یا سفر سے گریز کرنا ہوگا آپکے بنے بنائے پروگرام بھی ملتوی ہوسکتے ہیں آپکا تعلیمی سلسلہ منقطع ہوسکتا ہے جبکہ 21 جون تا 23 جولائی شمس کا اوج آپکے معاملات میں بہتری کا باعث ہوگا اسی طرح آپ اس بہتر وقت سے 2 تا 23 جولائی فائدہ حاصل کرسکیں گے اسکے علاوہ قمری گرہن کی تواریخ کو بھی جنتری سے نوٹ فرمالیں یہ گرہن بھی آپکے معاملات کو تعطل کا شکار کرسکتے ہیں۔

معشیت، کیریر روزگار، ترقی، تنزلی گذشتہ سال ناہید راہو کی موجودگی نے آپکے کیریر روزگار کو اچھا خاصہ متاثر کیا ہے مگر امسال انشاء اللہ حالات گذشتہ کی نسبت بہتر رہیں گے آپکی معیشت سے متعلقہ ستارہ شمس امسال 21 مارچ تا 20 اپریل، 21 جون تا 23 اگست، 22 نومبر تا 22 دسمبر بہتر پوزیشن میں رہتے ہوئے آپکی ترقی کی راہیں ہموار کررہا ہے آپکو کیریر روزگار کے حوالے سے بہتر مواقع میسر رہیں گے پروردگار کے کرم سے آپکے لیے نئے مواقع پیدا ہورہے ہیں بالخصوص 21 مارچ تا 20 اپریل کا دورانیہ انتہائی موافق ہوگا مگر اسکے ساتھ ساتھ سال کا کچھ عرصہ ایسا بھی ہوگا جو کہ موافق نہ ہوگا یکم جنوری تا 20 مارچ، 20 مئی تا 20 جون، 23 ستمبر تا 23 اکتوبر آپکو از حد محتاط رہنا ہوگا وگرنہ آپکو ترقی کی بجائے تنزلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

دوست احباب، خواہشات، کاروباری فوائد اس حوالے سے آپکو ملے جلے حالات کا سامنا رہے گا آپ اپنی خواہشات کی تکمیل میں جہاں جلد باز ہیں وہیں مستقل مزاج بھی ہیں اور اعتدال پسندی ہی بہتر نتائج کی حامل ہوتی ہے امسال 10 فروری تا 17 اپریل، 6 تا 21 مئی، 14 ستمبر تا 3 اکتوبر، 9 تا 29 دسمبر حالات موافق نہ ہونگے اب آپکی خواہشات کی تکمیل ممکن نہ ہوگی اس حوالہ سے دوستوں سے بحث وتکرار سے گریز کریں آپکے کاروباری معاملات کے نتائج حسب توقع نہ آنے سے پریشانی میں اضافہ ہوسکتا ہے باقی تمام سال انشاءاللہ موافق رہے گا اور آپکی خواہشات کی تکمیل ممکن ہوگی۔

بیرون ملک قیام، امیگریشن، خفیہ سازشیں امیگریشن کے نتائج اور اپلائی کرنے کے لیے 7 جنوری تا 27 مارچ، 20 اپریل تا 15 مئی، 21 اگست تا 26 نومبر کا دورانیہ موافق نہ ہوگا اپنے کیسز اپلائی کرنے سے گریز کریں اگر یہ امر مجبوری کرنا پڑے تو پہلے کوئی روحانی تدراک ضرور کرلیں اس دورانیہ میں پہلے سے مقیم افراد کا قیام بھی مشکل ہوجائے گا آپکو واپس آنا پڑ سکتا ہے جبکہ بتائے گئے عرصے کے علاوہ تمام سال موافق ہوگا پہلے سے مقیم افراد کو بہتر گھر یا جگہ مل سکتی ہے مگر محتاط رہیں یہی وہ دورانیے ہیں جب آپکے خلاف خفیہ سازشیں بھی عروج پر ہونگی۔

شمسی وقمری گرہن امسال 5 گرہن لگ رہے ہیں یہ گرہن آپکے سسرالی عزیزوں، بیرون ملک سفر ویزہ روحانی امور اور کیریر روزگار کے علاوہ آپکے سماجی تعلقات جیسے اہم ترین امور کو متاثر کررہے ہیں گرہن کی تواریخ جنتری کے صفحہ نمبر (67) سے نوٹ کرلیں اور ان ایام میں اپنے معاملات کو احتیاط اور تدبر سے حل کریں صدقہ اور نماز کسوف خسوف کی بروقت ادائیگی آپکو انکے اثرات سے بچاؤ میں مددگار ہوگی اُمید کرتا ہوں آپ ان امور پر توجہ دیں گے۔

صدقہ روزانہ ایک تسبیح ورد کریں آیت 180/181/182 بمعہ اول وآخر 11/11 مرتبہ درود پاک

وردخاص ہر جمعرات کم از کم 300 گرام یا 3 پاؤ بڑا گوشت کسی مستحق کو دیں یا جانوروں کو ڈال دیں

روحانی علاج
دافع جادو اور استخارہ کے لیے رجوع فرمائیں۔
علامہ سید افضل عباس نقوی (فاضل قم)
03214917305
0324-4492812

ادارہ خیر العمل برائے مرحومین اسلام پورہ لاہور
اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اجتماعی مجلس عزا میں شرکت کے لیے رابطہ کریں
مبارز نقوی
0322-3841554

الحمد فیبرکس
لیڈیز کپڑے کی تمام ورائٹی بارعائت دستیاب ہے۔
نزد ذوالفقار بک ڈپو اسلام پورہ لاہور
محمد علی
0302-4406438

نادعلی نگینہ سنٹر
[illegible]
ادارہ سے اصلی قیمتی پتھر ... کے تمام نگینے دستیاب ہیں
اپنے نام سے منسوب نگینہ کیلیے رابطہ کریں
امامیہ جنتری کا مرکز
سید مظہر زیدی 0300-3225586

برج: قوس SAGITARIUS سیارہ: مشتری

رنگ: سفید، زرد
عنصر: آتش
جواہر: فیروزہ، زرد پکھراج
بہترین شریک حیات: حمل، اسد
ناموافق ساتھی: ثور، جوزا، سنبلہ

بیماریاں: عرق النساء، سوء ہضمی، پٹھوں، ہاتھ کی انگلیاں

دن: جمعرات **عدد:** ۳ 23 Nov to 22 Dec **حروف:** ل

اہم نکات 2019 تمام برج والوں میں سب سے زیادہ آپکے لیے فائدہ مند ہوگا آپکا اپنا ستارہ سعد اکبر مشتری دسمبر تک طالع میں موجود رہتے ہوئے آپکی عزت و توقیر میں اضافہ کر رہا ہے مشتری کی پانچویں نویں نظر آپکی خوشبختی میں اضافہ، اولاد، منگنی، تعلیم، بیرون ملک سفر کے ساتھ ساتھ آپکے روحانی مدارج میں بہتری کا باعث بنے گی۔ آپ ساڑھ ستی کے تیسرے اور آخری ڈھائی سالہ دور سے گزر رہے ہیں مگر خانہ مال میں زحل کی اپنے گھر موجودگی مالی استحکام کی آئینہ دار ہے اس سعد ترین وقت سے صرف وہ افراد فائدہ اٹھا سکیں گے جنکے زائچہ پیدائش میں زحل اچھی حالت میں ہوگا اسسال پانچویں بارہویں کا حاکم مریخ ہبوط میں آجانے سے آپکی منگنی اور امیگریشن کے علاوہ بچوں سے واسطہ کچھ مسائل کا سامنا کروا سکتا ہے اسسال آپکے زائچے کا آٹھواں گھر راہو سے متاثر ہو رہا ہے جو کہ آپکو شدید ذہنی دباؤ کا شکار کر سکتا ہے میری ذاتی تحقیق و تجربہ کے مطابق راہو کی آٹھویں موجودگی آپکے لیے از حد خطرناک ہو سکتی ہے اسکو ہر صورت مد نظر رکھیں۔

شخصی وقار مشتری کی طالع میں موجودگی آپکی عزت و توقیر میں اضافہ کر رہی ہے مگر 7 جنوری تا 4 فروری زہرہ طالع میں بحالت تخفیف آجانے سے دشمنوں کیجانب سے آپکے عزت و وقار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے 10 اپریل تا 11 اگست مشتری کی رجعت کی وجہ سے آپکے مزاج میں چڑچڑاپن نمایاں ہو جانے کا خود پر کنٹرول رکھیں نومبر اور دسمبر بھی سیارگان کی پوزیشن کیوجہ سے موافق نہ ہوگا محتاط رہیں۔

مالی پوزیشن یوں تو زحل کی خانہ مال میں موجودگی آپکی مالی پوزیشن میں انتہائی بہتری کا باعث ہے مگر دیگر سیارگان میں یکم جنوری تا 20 جنوری خانہ مال میں شمس کا تخفیف آپکی مالی پوزیشن کو متاثر کر سکتا ہے بیرون ملک سفر کے حوالے سے یا کسی خاص فرد کو قرضہ کے لین دین سے گریز کریں اسکے بعد آپکی مالی پوزیشن مستحکم ہو رہی ہے 30 اپریل تا 18 ستمبر زحل کی رجعت کیوجہ سے روپے پیسے کی آمد سست روی کا شکار ہو سکتی ہے لین دین کے حوالے سے وعدہ وعید سے گریز کریں بعد از 18 ستمبر انشاءاللہ حالات بھرپور طریقے سے موافق ہونگے

عزیز و اقارب، ابتدائی تعلیم، نزدیکی سفر سال کا آغاز بہتر انداز میں ہو رہا ہے آپ سماجی تقریبات میں بھرپور شرکت کر رہے ہیں نزدیکی سفروں کے کئی ایک مواقع میسر رہیں گے 20 جنوری تا 19 فروری آپکے سفروں میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے سسرالی عزیز و اقارب سے تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں محتاط رہیں قوس بچوں کیلئے یہ ماہ بہت اہم ہوگا کیونکہ اکثر بچوں کے امتحانات شروع ہو چکے ہیں 30 اپریل تا 18 ستمبر بوجہ رجعت زحل آپکو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایک بار پھر آپکے سفری معاملات التوا، رکاوٹ کا شکار ہو سکتے ہیں عزیز و اقارب بالخصوص بہن بھائیوں سے تعلقات بنائے رکھنے کی کوشش کریں رجعت کے ایام ختم ہونے کے بعد حالات ان شاءاللہ آخر سال تک موافق رہیں گے آپکو گذشتہ بگڑے ہوئے معاملات کو سنبھالنے کا موقع ملے گا۔

اولاد، انعامی بانڈ، منگنی گو کہ حالات گذشتہ سال سے کافی بہتر ہیں اور آپکی منگنی طے پا جانے کے قوی امکانات موجود ہیں مگر تمام سال حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے یکم جنوری تا 14 فروری، 2 جولائی تا 14 اکتوبر اور 19 نومبر تا آخر سال حالات موافق ہونگے مگر اس دورانیہ میں ایام عزا کو بالضرور ملحوظ خاطر رکھیں اس دورانیہ میں آپکی منگنی طے پا جانے کے قوی امکانات موجود ہیں انعامی بانڈ اور لاٹری میں حصہ لینے والے افراد کیلئے بھی یہی دورانیہ موافق ہوگا خواہشمند قوس خواتین و حضرات کو اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے جبکہ 14 فروری تا 31 مارچ بالعموم اور 16 مئی تا 2 جولائی کا دورانیہ بالخصوص آپکو محتاط رہنا ہوگا آپکو بچوں کی طرف سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے حاملہ خواتین کے لیے یہ عرصہ قطعی موافق نہ ہوگا آپ پر لازم ہوگا کہ ہر طرح سے احتیاط کریں اس دوران آپکی منگنیاں بھی خطرے میں ہونگیں اسکے بعد 14 اکتوبر تا 19 نومبر کا دورانیہ بھی بہتر نہ ہوگا آپکے بچوں کے شرارتی ازدواجی معاملات آپکی پریشانیوں میں اضافہ کا باعث ہونگے

گھر، خاندان، پراپرٹی آپکے بیت الارض کا حاکم بھی سعد اکبر مشتری ہی ہے اسسال آپکے لیے بہتر پراپرٹی کا حصول ممکن ہوگا مگر اسسال 10 فروری تا 17 اپریل چوتھے عطارد کی ہبوطی کیفیت آپکو محتاط روش کا اشارہ کر رہی ہے ان ایام میں پراپرٹی کے لین دین میں دھوکہ دہی کا اندیشہ رہے گا خاندان کے افراد کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں بغیر تصدیق کسی بھی بات پر یقین نہ کریں اور خود بھی گفتگو میں احتیاط کریں آپکو اچانک گھر کی تبدیلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوسری طرف 27 مارچ کو زہرہ کے عین اسی مقام پر شرفی حالت میں آجانے سے حالات میں قدرے بہتری آئے گی جو کہ 20 اپریل تک جاری رہے گی۔ 10 اپریل کو مشتری رجعت میں چلے جانے سے آپکے معاملات میں التوا جیسی صورتحال کا آغاز ہو جائے گا یہ صورتحال 11 اگست تک جاری رہے گی آپکے خانگی معاملات خراب

ہو رہے ہیں ان پر توجہ دیں پراپرٹی کا کام کرنے والے افراد کا کاروبار سست روی کا شکار ہو جائے گا بعد از اگست تا آغاز دسمبر حالات موافق رہیں گے مگر دسمبر قطعی موافق نہ ہوگا

صحت، ملازمت، ملازمین اسسال آپکی صحت اور ملازمت دونوں کے حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں آپکو 7 جنوری تا 27 مارچ، 20 اپریل تا 15 مئی، 21 اگست تا 14 ستمبر، 8 اکتوبر تا 2 نومبر کا دورانیہ آپکو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا اس دوران ملازمت چھوڑنے کی غلطی نہ کریں ورنہ بعد میں پچھتاوا ہوگا اس دوران آپکو اپنے ملازمین کیجانب سے بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے 27 مارچ تا 20 اپریل ملازمت کی تبدیلی کے حوالہ سے سال کا سب سے بہترین وقت ہے خواہشمند افراد کیلئے بہتر جاب کا حصول ممکن ہوگا اسکے علاوہ 15 مئی تا 21 اگست، 14 ستمبر تا 8 اکتوبر بھی آپکے لیے موافق ہوگا جاب اور صحت سے متعلقہ مسائل کا حل ممکن ہوگا

شادی، ازدواجی زندگی، شراکت داری اس حوالہ سے اسسال آپکو ملے جلے حالات کا سامنا رہے گا آغاز سال میں 10 فروری تا 17 اپریل کا دورانیہ آپکے لیے خاصہ مشکل ثابت ہوگا محتاط رہیں آپکی شادی اور شراکت داری دونوں ٹوٹنے کا اندیشہ ہے آپکی ازدواجی زندگی بھی شدید خطرات کا شکار ہوگی یہ سال کا مشکل ترین وقت ہے اسکے بعد 6 تا 21 مئی، 14 ستمبر تا 3 اکتوبر، 9 تا 29 دسمبر کا دورانیہ بھی موافق نہ ہوگا آپکو محتاط روش اختیار کرنی ہوگی 17 اپریل تا 6 مئی، 21 مئی تا 14 ستمبر، 3 اکتوبر تا 9 دسمبر یہ وہ دورانیہ ہیں جب آپکے تعلقات میں بہتری آئے گی آپکو نئی شراکت داری کی آفر مل سکتی ہے یہی وہ دورانیہ ہے جب آپکی شادی نکاح کے لیے ماحول سازگار رہوگا۔

وراثت، مشترکہ مالی معاملات، قرضہ وراثتی اور مشترکہ مالی حوالہ سے یوں تو حالات کافی بہتر نظر آرہے ہیں آپکے رکے ہوئے وراثتی معاملات حل ہوسکیں گے مشترکہ مالی معاملات یعنی شراکت داری یا کسی بھی طرح کی مشترکہ انویسٹمنٹ میں پرافٹ کے واضح امکانات موجود ہیں مگر ستارہ زحل کی دوسری بیٹھ کر مقابلے کی نظر اور 16 مئی تا 2 جولائی مریخ کی زائچہ میں آٹھویں ہوٹی کیفیت آپکو شدید مالی نقصان سے دوچار کرسکتی ہے اس دوران اپنے معاملات پر خاص توجہ دیں اور اپنی سرگرمیوں کو محدود کرلیں اسسال ہونے والے 2 قمری گرہن بالترتیب 21 جنوری اور 17 جولائی کو لگ رہے ہیں یہ گرہن بھی آپکے معاملات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ ایام بھی صدقہ اور احتیاط کے طالب ہونگے

روحانیت، بیرون ملک سفر، حج و زیارات، اعلیٰ تعلیم گذشتہ سال آپکے سفر راہو کے اثرات کیوجہ سے متاثر ہوئے ہیں اسسال گو کہ راہو کہ اثرات آپکو متاثر نہیں کررہے مگر پھر بھی آپکو محتاط روش اختیار کرنا ہوگی یکم جنوری تا 20 مارچ حالات موافق نہ ہونگے ویزہ وغیرہ اپلائی کرنے سے گریز کریں اسکے بعد 20 مئی تا 21 جون، 23 ستمبر تا 23 اکتوبر کے دورانیے بھی بیرون ملک سفر، ویزہ اپلائی اور اعلیٰ تعلیم کے حوالہ سے موافق نہ ہونگے اس دوران اپلائی کئے گئے ویزہ مسترد ہوسکتے ہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے افراد اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے روحانی تدراک کرسکتے ہیں 21 مارچ تا 20 اپریل کا دورانیہ آپکے بیرون ملک سفر اور ویزہ وغیرہ اپلائی کرنے کے لیے بہترین اوقات ہیں اگر بہ امر مجبوری اول الذکر دورانیہ میں سفر اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ویزہ وغیرہ ابھی اپلائی کرلیں اسکے بعد 21 جولائی تا 23 اگست، 22 نومبر تا 22 دسمبر کے دورانیے بھی موافق ہونگے ورد وظائف کے شائق افراد اور اعلیٰ تعلیمی مدارج طے کرنے والے افراد کو اس دوران حالات انتہائی موافق ملیں گے۔

معیشت، کیریئر، روزگار، ترقی، تنزلی آپکے کیریئر کا حاکم ستارہ عطارد 10 فروری تا 17 اپریل کیریئر کے گھر کے بالکل مقابل ہوٹی کیفیت میں ہوگا اس دوران کسی بھی اہم فیصلہ یا لین دین سے گریز کریں ملازم پیشہ افراد کو تنزلی کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے 17 اپریل تا 6 مئی حالات بہتر رہیں گے آپکو سنبھلنے کا موقع ملے گا 6 تا 21 مئی حالات موافق نہ ہونگے کیریئر روزگار کے حوالہ سے آپکی خواہشات کی تکمیل مشکل ہوگی جاب چھوڑنے کی غلطی ہرگز نہ کریں 21 مئی تا 5 جون بالعموم اور 29 اگست تا 14 ستمبر کا دورانیہ انتہائی موافق نظر آرہا ہے آپکو بڑھنے پھولنے کا موقع ملے گا آپ نئے کاروباری منصوبوں پر گامزن ہیں 14 ستمبر تا 3 اکتوبر کا دورانیہ باوجود کوشش کے موافق نہ ہوسکے گا کیریئر روزگار کے حوالہ سے دوستوں سے وابسطہ توقعات پوری ہونا مشکل ہوگا 3 اکتوبر تا 9 دسمبر کیریئر کا حاکم زائچہ کے بارہویں اوج میں ہوگا اب آپکو نئے منصوبہ جات اور کیریئر روزگار کے اہم فیصلوں میں بہت محتاط رہنا ہوگا یہ آپکے خلاف کوئی خفیہ سازش بھی ہوسکتی ہے یہ وقت صرف بیرون ملک مقیم قوس افراد کیلئے موافق ہوگا 9 تا 29 دسمبر کا دورانیہ محتاط روش کا متقاضی ہے احتیاط کریں کاروباری تبدیلی یا اہم فیصلوں سے گریز کریں آپ سے غلط فیصلے سرزد ہوسکتے ہیں۔

دوست احباب، خواہشات، کاروباری فوائد آپکو اچھے برے دونوں طرح کے حالات کا سامنا رہے گا اسسال 7 جنوری تا 27 مارچ، 20 اپریل تا 15 مئی، 21 اگست تا 14 ستمبر، 8 اکتوبر تا 26 نومبر کے دوران دوست احباب سے تعلقات کشیدہ ہوسکتے ہیں یہ وقت آپکی خواہشات کی تکمیل میں رکاوٹ ہوگا تحمل سے کام لیں آپکے کاروباری معاملات کے نتائج خلاف توقع نکل سکتے ہیں جبکہ 27 مارچ تا 20 اپریل کا دورانیہ سال کا سب سے بہترین دورانیہ

آپکی خواہشات کی تکمیل ممکن ہوگی اسکے علاوہ 15 مئی تا 21 اگست اور 14 ستمبر تا 18 اکتوبر کے دورانیے بھی انشاءاللہ موفق ہونگے آپکے دوست آپکی خواہشات کی تکمیل میں معاون ہونگے

بیرون ملک قیام، امیگریشن، خفیہ سازشیں اس حوالہ سے آپکو موافق غیر موافق دونوں طرح کے حالات کا سامنا رہے گا امسال یکم جنوری تا 14 فروری، 2 جولائی تا 4 اکتوبر، 19 نومبر تا آخر سال کے دوران امیگریشن اپلائی کرنے اور پہلے سے مقیم افراد کیلئے اپنے قیام کو مزید مستحکم کرنے میں موافق ہونگے مگر یہی وہ دورانیے ہیں جب آپکے خلاف خفیہ سازشیں عروج پر ہونگی اور 14 فروری تا 2 جولائی، 4 اکتوبر تا 19 نومبر کے دورانیے قطعی موافق نہ ہونگے اس دوران امیگریشن یا پہلے سے اپلائی شدہ کیسز کی اپیل کرنے سے بھی گریز کریں اس دوران پہلے سے مقیم افراد کیلئے بھی حالات موافق نہ ہونگے آپکو واپس آنا پڑ سکتا ہے۔

شمسی وقمری گرہن امسال لگنے والے 3 شمسی اور 2 قمری گرہن جو کہ بالترتیب جنوری جولائی اور دسمبر میں لگ رہے ہیں یہ آپکے معاملات کو انتہائی متاثر کر سکتے ہیں آپکے خانہ مال میں لگنے سے آپکی مالی پوزیشن غیر مستحکم ہو سکتی ہے آپکو کسی بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے 3 جولائی کا شمسی گرہن عین آٹھویں گھر لگنے سے شراکتی، مالی اور وراثتی معاملات کے علاوہ آپکی صحت بھی شدید خطرات کی زد میں ہوگی اس پر خاص توجہ دیں شمسی گرہن کے ایام میں ویزہ اپلائی یا کسی بھی حوالہ سے طویل سفر سے گریز کریں۔ بروقت صدقہ اور نماز کسوف خسوف کی ادائیگی آپکو بہت سے مسائل سے بچا سکتی ہے پروردگار عالم بحق محمدؐ وآل محمدؐ آپ سب کو اپنی حفظ وامان میں رکھے آمین

صدقہ روزانہ بعد از نماز پنجگانہ 9 مرتبہ یا بعد از فجر وعشاء 45 مرتبہ دعائے رجعت سیارگان ورد کریں بمع اول وآخر 9-9 مرتبہ درود پاک۔ یہ دعا زائچوں کے آغاز میں موجود ہے جنتری سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔

ورد خاص ہر ہفتہ 800 گرام کالے ماش کسی مستحق کو دیں یا قبرستان میں ڈال دیں۔

برج: جدی CAPRICORN سیارہ: زحل

رنگ: ____ سرخ، بھورا، خاکی
دھات: ____ خاکی
جواھر: ____ سفید رنگ سلیمانی، یاقوت
بہترین شریک حیات: ____ ثور، سنبلہ
ناموافق ساتھی: ____ حمل، سرطان، میزان

بیماریاں: دانتوں کی بیماریاں، اعصابی [illegible]

دن: ہفتہ عدد: ۸ 23 Dec to 20 Jan حروف: ج، خ، گ

اہم نکات جدی افراد ساڑھ ستی کے دوسرے اور اہم ترین دور سے گذر رہے ہیں اب آپکو ہر قدم احتیاط سے رکھنا ہوگا زحل جو کہ طالع میں موجود ہے مگر ہمیں مشتری کی بارہویں موجودگی کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا آپکے خفیہ دشمن امسال انتہائی مضبوط ہونگے طالع میں زحل کی رجعت آپکی عزت وتوقیر کو انتہائی متاثر کر سکتی ہے اس پر ستم امسال 3 گرہن آپکے طالع یعنی برج جدی میں لگنے سے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں چوتھے گیارہویں کا حاکم مریخ وسط مئی تا آغاز جولائی ساتویں ہبوط پذیر ہونے سے آپکے خانگی ازدواجی تعلقات انتہائی مخدوش حالات میں ہونگے یہ ہبوط آپکی خوش بختی کی تنسیخ کا باعث بن سکتا ہے

شخصی وقار جیسا کہ گذشتہ سطور میں لکھا جا چکا ہے یہ سال آپکے شخصی وقار کے لیے انتہائی غیر موافق حالات لے کر آ رہا ہے طالع میں یکم تا 20 جنوری شمس کا تسخیف آپکو ذہنی دباؤ کا شکار کر سکتا ہے وراثتی، شراکتی، مالی معاملات آپکی پریشانی میں اضافہ کا باعث ہونگے 30 اپریل تا 18 ستمبر طالع میں زحل کی رجعت آپکے شخصی وقار کو بڑی طرح مجروح کر سکتی ہے آپکے مالی مسائل آپکی شہرت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں دوسری طرف بارہویں مشتری کی مضبوط پوزیشن آپکے خفیہ دشمنوں کو مضبوط کر رہی ہے آپکو تمام سال مشکل صورتحال کا سامنا رہے گا۔

عزیز واقارب، ابتدائی تعلیم، نزدیکی سفر آغاز سال تا 10 فروری حالات آپکی موافقت میں نظر آ رہے ہیں مگر 10 فروری تا 17 اپریل کا دورانیہ آپکے لیے قطعی موافق نہ ہوگا عزیز واقارب کے ساتھ شدید اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں انکے بارے میں کسی بھی سنی سنائی بات پر یقین نہ کریں اس دوران نزدیکی سفروں میں اپنے کاغذات اور سامان کا خاص خیال رکھیں جدی بچوں کو تعلیمی مدارج طے کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا ہوگا آپکا سب سے بڑا مسئلہ ارتکازی کی ہوگا دوسری طرف 10 اپریل کو بیت الاقرباء کا حاکم ستارہ مشتری رجعت میں چلے جانے سے اور 11 اگست تک رجعت میں رہنے سے حالات آپکے موافق نہ ہونگے آپکو اپنی سماجی سرگرمیاں کو محدود کرنا ہوگا ورنہ مابین تعلقات منقطع ہو سکتے ہیں سال کے آخری چار ماہ انشاءاللہ موافق ہونگے آپکو معاملات سنبھالنے کا موقع ملے گا۔

گھر، خاندان، پراپرٹی ساڑھ ستی کے اس اہم اور مشکل دور میں آپکے خانگی معاملات آپکے لئے خاص اہمیت کے حامل ہونگے اکثر جدی افراد اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے پراپرٹی کی سیل پر مجبور ہونگے یکم جنوری تا 14 فروری، 2 جولائی تا 4 اکتوبر، 19 نومبر تا آخر سال حالات بہتر رہیں گے اس دوران آپکے لیے پراپرٹی کا لین دین کرنا بہتر ہوگا گھر کی تبدیلی اور خانگی معاملات میں بہتری آئے گی مگر 14 فروری تا 31 مارچ بالعموم اور 16 مئی تا 2 جولائی بالخصوص آپکے لیے حالات موافق نہ ہونگے اب گھر کی تبدیلی یا پراپرٹی کا لین دین نقصان کا باعث ہوگا اولاد اور خاندان کیجانب سے مشکلات پیش آ سکتی ہیں محتاط رہیں اور ہر ممکن

اختلافات سے گریز کریں 14 اکتوبر تا 19 نومبر کا دورانیہ بھی موافق نہ ہوگا آپکے کاروباری معاملات آپکے خانگی ماحول میں خرابی کا باعث بن سکتے ہیں۔

اولاد انعامی بانڈ منگنی اولاد اور منگنی وغیرہ کے حوالہ سے امسال آپکو ملے جلے حالات کا سامنا رہے گا امسال 7 جنوری تا 31 مارچ، 20 اپریل تا 15 مئی، 21 اگست تا 14 ستمبر، 8 اکتوبر تا 26 نومبر حالات آپکے موافقت میں نہ ہونگے یہ وقت منگنی یا نسبت وغیرہ طے کرنے کیلئے قطعی مناسب نہ ہوگا آپکی طے شدہ منگنیاں بھی خطرے میں ہونگی آپکو بچوں کی طرف سے بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپکی دیگر پریشانیاں اپنی جگہ مگر بچوں پر خاص توجہ دیں یکم تا 20 اپریل، 15 مئی تا 21 اگست، 14 ستمبر تا 8 اکتوبر حالات آپکی موافقت میں ہونگے اب آپکی بات طے پا جانے کے قوی امکانات ہونگے اس دوران پیغام وغیرہ بھجوانا بہتر نتائج کا حامل ہوگا یہی وہ دورانیہ ہے جب انعامی سکیموں کے شائق افراد کا کوئی بڑا انعام نکل سکتا ہے بے اولاد خواہشمند افراد کو اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے (انشاءاللہ)

صحت، ملازمت، ملازمین ساڑھ ستی کے اس بحرانی دور میں سب سے ضروری دو چیزیں ہیں ایک آپکی صحت اور دوسرا اگر آپ ملازم پیشہ ہیں تو آپکی ملازمت کیونکہ اس سے آپکی مالی پوزیشن وابستہ ہے زحل کے اثرات آپکے معاملات میں رکاوٹ اور بندش کا باعث ہیں اب اگر ملازمت گئی تو مشکل سے ملے گی 10 فروری تا 17 اپریل کسی بھی صورت اپنی ملازمت چھوڑنے یا تبدیل کرنے سے گریز کریں اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں اسکے بعد 6 تا 21 مئی، 14 ستمبر تا 3 اکتوبر، 9 تا 29 دسمبر کے دورانیے بھی احتیاط کے متقاضی ہونگے ان ایام میں اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں ملازمت چھوڑنے کی غلطی ہرگز نہ کریں سال کے باقی دورانیہ انشاءاللہ موافق ہونگے آپکی صحت بہتر رہے گی

شادی، ازدواجی زندگی، شراکت داری گذشتہ سال کے آخر سے آپکا بیت الزوج راہو کے اثرات سے متاثر ہو رہا ہے اور تمام سال ہوتا رہے گا آپکے ازدواجی شراکتی تعلقات آپکے لیے کسی امتحان سے کم نہ ہونگے، 6 جنوری، 17 جولائی اور 26 دسمبر کے گرہن بھی بیت الزوج میں لگنے سے آپکی پریشانیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے دوسری طرف 16 مئی تا 2 جولائی بھی اسی جگہ مریخ کا ہبوط آپکے تعلقات کو بے حد کشیدہ کر سکتا ہے اگر آپنے احتیاط اور تحمل و بردباری سے کام نہ لیا تو آپکے مابین علیحدگی ہو سکتی ہے یہ سال شادی جیسی تقریبات کے لیے موافق نظر نہیں آرہا آپکو راہو کے اثرات کی وجہ سے محتاط رہنا ہوگا اس دوران کی گئی شادیاں بہتر نتائج کی حامل نہ ہونگی یعنی آپکو ایک ناخوشگوار شادی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

وراثت، مشترکہ مالی معاملات، قرضہ امسال انشاءاللہ حالات گذشتہ سے بہتر رہیں گے مگر حالات تمام سال موافق نہ ہونگے آغاز سال تا 20 مارچ، 20 مئی تا 21 جون، 23 ستمبر تا 23 اکتوبر حالات موافق نہ ہونگے آپکو قرضہ خواہوں کیجانب سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وراثتی معاملات کھٹائی میں پڑ سکتے ہیں مشترکہ طور پر مالی معاملات میں نقصان کا اندیشہ رہے گا محتاط رہیں جبکہ 21 مارچ تا 20 اپریل سال کا سب سے بہترین وقت ہے اسکے بعد 21 جولائی تا 23 اگست 22 نومبر تا 22 دسمبر کے دورانیے بھی انشاءاللہ بہتر رہیں گے آپکے وراثتی مسائل ان دورانیوں میں حل ہو سکیں گے اور مشترکہ انوسٹمنٹ کے فوائد بھی مل سکیں گے۔

روحانیت، بیرون ملک سفر، حج و زیارات، اعلیٰ تعلیم امسال آپکو بیرون ملک سفر زیارات اور اعلیٰ تعلیم کے حصول اور اس حوالہ سے بیرون ملک سفر کے کئی ایک مواقع ملیں گے امسال آپکو حسب خواہش کی سعادت نصیب ہو سکتی ہے لیکن 10 فروری تا 17 اپریل، 6 تا 21 مئی، 14 ستمبر تا 3 اکتوبر، 9 دسمبر تا 29 دسمبر آپکو رکاوٹوں کا سامنا رہے گا اس دوران کئے گئے سفر فوائد سے محروم ہونگے ان ایام میں ویزہ وغیرہ اپلائی کرنے سے گریز کریں جیسا کہ گذشتہ سطور میں لکھا جا چکا ہے آپ ساڑھ ستی سے گذر رہے ہیں میرے ذاتی تجربہ کے مطابق یہ وقت آپکو دینی دنیاوی معاملات میں خود کو کھنگالنے اور دنیا کی بے ثباتی سکھانے آتا ہے اب اگر آپ اپنے پروردگار پر توکل رکھیں گے اور مایوسی سے بچتے ہوئے اپنے پروردگار سے لو لگائے رکھیں گے تو یقین کرلیں یہ سال آپکی روحانی ترقی کا سال ہے آپکی کایا پلٹ سکتی ہے پروردگار آپ پر اپنا فضل و کرم رکھے

معیشت، کیریئر روزگار، ترقی، تنزلی امسال 7 جنوری تا 27 مارچ، 20 اپریل تا 15 مئی، 21 اگست تا 14 ستمبر، 8 اکتوبر تا 26 نومبر آپکو اپنے کیریئر پر خاص توجہ دینا ہوگی آپکی معیشت تنزلی کیجانب مائل رہے گی کیریئر روزگار کے حوالہ سے کسی بھی اہم یا بڑے فیصلے سے گریز کریں کیونکہ آپکی مالی پوزیشن مستحکم نہیں ہے مگر ان ایام میں کاروبار کی تبدیلی بہتر نہ ہوگی امسال 27 مارچ تا 20 اپریل، 15 مئی تا 21 اگست 14 ستمبر تا 8 اکتوبر آپکو کیریئر روزگار کے حوالہ سے حالات موافق ملیں گے آپکے لیے کاروباری ترقی اور تبدیلی ممکن ہوگی ملازم پیشہ افراد کو حسب مقصود ترقی مل سکے گی ان ایام سے بھرپور فائدہ اٹھائیں

دوست احباب، خواہشات، کاروباری فوائد فروری دوست احباب سے تعلقات بہتر رہیں گے آپکی خواہشات کی تکمیل ممکن ہوگی 14 فروری تا 2 جولائی آپکو از حد احتیاط سے رہنا ہوگا اب آپکی خواہشات کی تکمیل مشکل ہوگی آپکے کاروباری معاملات کے نتائج آپکی توقع کے خلاف نکل سکتے ہیں دوسری

طرف یکم جنوری تا 14 فروری، 2 جولائی تا 4 اکتوبر اور 9 نومبر تا 31 دسمبر کا دورانیہ آپکی خواہشات کی تکمیل میں معاون ہوگا دوستوں سے واسطہ توقعات پوری ہوں سکیں گی آپکے کاروباری اقدامات کا بہتر ثمر آپکو مل سکے گا الغرض یہ دورانیہ ہر لحاظ سے انشاءاللہ بہتر رہے گا۔

بیرون ملک قیام ،امیگریشن ،خفیہ سازشیں زائچے کے بارہویں مشتری کی موجودگی آپکے بیرون ملک قیام کو مستحکم کر رہی ہے امیگریشن اپلائی کرنے کے لئے یہ ایک آئیڈیل سال ہے صرف 10 اپریل تا 11 اگست آپکو مسائل کا سامنا بوجہ رجعت مشتری ہو سکتا ہے آپکے کیسز التوا کا شکار ہو سکتے ہیں پہلے سے بیرون ملک مقیم افراد کے لیے اچھے اور بہتر گھر کا حصول ممکن ہو گا مگر محتاط رہیں مشتری جب جب آپکے زائچہ میں مظبوط ہو گا آپکے خلاف خفیہ سازشیں زور پکڑ لیں گی امسال اپنے خفیہ دشمنوں پر خاص نظر رکھیں

مالی پوزیشن خانہ مال کا حاکم ستارہ زحل اپنے ہی گھر قیام کرتے مالی پوزیشن میں قدرے بہتری کا باعث بن رہا ہے سال کا آغاز اچھا ہے مگر 20 جنوری تا 19 فروری خانہ مال میں شمس کا وبال آپکی مالی پوزیشن کو خراب کر سکتا ہے یکم تا 27 مارچ کیریر کے حاکم زہرہ کی خانہ مال میں حالت طرح موجودگی آپکے ذریعہ آمدن کو متاثر کر سکتی ہے اس دوران کسی بھی نئے یا اہم فیصلے/تبدیلی سے گریز کریں 27 مارچ تا 30 اپریل آپکو حالات موافق ملیں گے 30 اپریل تا 18 ستمبر زحل کی رجعت سے روپیہ پیسہ کی آمد سست روی کا شکار ہو سکتی ہے اب آپکو آمدن سے زائد یا فضول اخراجات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے 18 ستمبر کے بعد حالات انشاءاللہ موافق رہیں گے آپکی مالی پوزیشن مستحکم ہو رہی ہے

شمسی وقمری گرہن امسال کل پانچ گرہن لگ رہے ہیں جن میں 3 شمسی گرہن اور 2 قمری گرہن ہیں ہر قمری گرہن آپکی عزت وتوقیر کیساتھ ساتھ آپکے شراکتی ازدواجی تعلقات کو بھی خراب کر رہا ہے جبکہ شمسی گرہن اسکے ساتھ ساتھ آپکو کسی بڑے حادثہ یا نقصان کا شکار کر سکتے ہیں گرہن کی تواریخ کو جنتری کے صفحہ نمبر 67 سے نوٹ فرمالیں اور گرہن سے متعلقہ دیگر ہدایات بھی وہیں سے دیکھ لیں **ورد خاص** روزانہ بعد از نماز فجر سورہ اعراف کی آیت 89 ورد کریں (170) مرتبہ بمعہ اول وآخر 17-17 مرتبہ درود پاک **صدقہ** ہر ہفتہ 800 گرام کالے ماش کسی مستحق کو دیں یا جانوروں کو ڈال دیں۔

برج: دلو AQUARIUS سیارہ: یورینس

رنگ: ____ خاکی، بھورا، نیلا
عنصر: ____ ہوا
جواہر: ____ نیلم، حدید، عقیق سیاہ
بہترین شریک حیات: ____ جوزا، میزان
ناموافق ساتھی: ____ ثور، اسد، عقرب
بیماریاں: آنکھوں کی بیماریاں، دوران خون، قلب، دمہ

دن: ہفتہ عدد: ۸ 21 Jan to 19 Fer حروف: س، ش، ص، ث

اہم نکات آپ گزشتہ سال سے ساڑھ ستی کے مشکل اور قدرے سخت دور میں داخل ہو چکے ہیں یہ آپکی ساڑھ ستی کا پہلا ڈھائی سالہ دور ہے جو کہ مارچ 2020 میں ختم ہوگا اسکے بعد آپکی ساڑھ ستی مزید 5 سال چلے گی 2019ء آپکے لیے ایک اہم سال ہے ایک طرف آپکا اپنا ستارہ زحل زائچے کے بارہویں گھر منفی موجود ہے (کوئی بھی ستارہ جو کہ خواہ آپکا اپنا ہی کیوں نہ ہو اگر زائچے کے بارہویں آجائے تو وہ منفی اثرات مرتب کر رہا ہوتا ہے) دوسری طرف خانہ مال کا حاکم مشتری گیارہویں اپنے ہی گھر آخر نومبر تک موجود رہتے ہیں آپکی خواہشات کی تکمیل میں معاون ہے اور آپکی مالی پوزیشن کو مستحکم کر رہا ہے امسال آپکے کیریر روزگار اور بیت الاقرباء کا حاکم مریخ ہبوط میں جانے سے آپکے لیے خاصی مشکل صورتحال پیدا ہو سکتی ہیں امسال ہونے والے شمسی وقمری گرہن آپکے زائچے کے اہم ترین مقامات کو متاثر کر رہے ہیں ان پر توجہ دینا ضروری ہوگا۔

شخصی وقار آغاز سال میں 20 جنوری تا 19 فروری ساتویں کا حاکم شمس طالع میں وبال زدہ ہونے سے آپکی عزت وتوقیر داؤ پر ہوگی سسرال یا زوجہ/شوہر یا شراکت داری طرف سے آپ پر الزامات لگ سکتے ہیں محتاط رہیں اسکے بعد حالات میں بہتری آنے گی 30 اپریل تا 11 اگست آپکا ستارہ رجعت میں جانے سے پبلک میں آپکے امیج کو نقصان پہنچ سکتا ہے اپنے فیصلوں میں مشاورت ضرور کریں۔ اسی دورانیہ میں 16 مئی تا 2 جولائی بیت الاقرباء کا حاکم ہبوط میں ہونے سے آپکے تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں محتاط رہیں ورنہ آپکے تعلقات زبان زد عام ہونے سے آپکا وقار متاثر ہو سکتا ہے سال کا باقی دورانیہ انشاءاللہ بہتر گزرے گا

مالی پوزیشن امسال آپکے مالی حالات ملے جلے رہنے کا امکان ہے حالانکہ آپکے خانہ مال کا حاکم مشتری گیارہویں رہتے ہوئے آپکی خوشحالی میں اضافہ کرتا رہے گا مگر 10 فروری تا 17 اپریل خانہ مال میں عطارد کی ہبوطی کیفیت آپکے اخراجات میں تیزی لے آنے گی ان ایام میں لین دین کے حوالے سے وعدہ وعید یا چیک وغیرہ لکھ کے دینے سے گریز کریں 10 اپریل تا 11 اگست مشتری کی رجعت بھی آپکے مالی مسائل میں اضافہ کا باعث ہوگی بعد از 11 اگست مالی پوزیشن مستحکم ہو سکے گی مگر آپکے لیے مشورہ یہ ہے کہ اخراجات میں اعتدال سے کام لیں اور اگر ممکن ہو تو کچھ بچت ضرور کریں کیونکہ دسمبر سے حالات قطعی آپکے مخالف ہونگے۔

عزیز واقارب ،ابتدائی تعلیم ،نزدیکی سفر سال کی ابتداء بہتر ہو رہی ہے 14 فروری تک آپکے تعلقات بہتر رہیں گے اولاد بچوں کو تعلیمی حوالے

سے بہتر ماحول مل سکے گا مگر 15 فروری تا 2 جولائی آپکے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو سکتے ہیں بہن بھائیوں اور قریبی عزیزوں سے تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں دلو بچوں کو تعلیم کے حوالے سے مشکلات پیش آ سکتی ہیں آپ بتائے گئے عرصہ میں تعلیم پر خاص توجہ دیں ان ایام میں سفروں سے از حد گریز کریں بامر مجبوری صدقہ دے کر سفر کریں 3 جولائی سے حالات بہتری کی جانب گامزن ہو جائیں گے آپکو اپنے تعلقات از سر نو بحال کرنے کا موقع مل جائے گا یہ سلسلہ 4 اکتوبر تک چلے گا اسکے بعد 19 نومبر تک کا دورانیہ احتیاط کا متقاضی ہوگا اب سسرالی عزیزوں سے بھی تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں 19 نومبر تا 31 دسمبر حالات انشاءاللہ موافق رہیں گے دلو بچوں کے لیے یہ بہترین وقت ہوگا تعلیمی حوالے سے آپکو بہتر ماحول مل سکے گا اب آپ بے خطر سفر اختیار کر سکتے ہیں۔

گھر، خاندان، پراپرٹی امسال آپکے خاندانی گھریلو تعلقات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں 7 جنوری تا 27 مارچ، 20 اپریل تا 15 مئی، 21 اگست تا 14 ستمبر، 8 اکتوبر تا 26 نومبر آپکو گھریلو معاملات پر خاص توجہ دینا ہوگی ان ایام میں گھر کی تبدیلی یا پراپرٹی کی خرید و فروخت سے گریز کریں ورنہ مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں 27 مارچ تا 20 اپریل، 15 مئی تا 21 اگست، 14 ستمبر تا 8 اکتوبر، 14 ستمبر تا 8 اکتوبر کا عرصہ پراپرٹی کی خرید و فروخت کیلئے بہتر ہوگا آپکو خانگی معاملات کو سدھارنے کا موقع ملے گا گھر کی تبدیلی اور خرید و فروخت کیلئے یہ وقت انتہائی موزوں ہوگا آپ گھر کی مرمت اور تزئین و آرائش کروا سکتے ہیں

اولاد، انعامی بانڈ، منگنی آپکے بیت الاولاد کا حاکم ستارہ عطارد ایک تیز رفتار ستارہ ہونے کی وجہ سے آپکے معاملات میں تیزی سے تغیر لاتا ہے امسال بے اولاد دلو افراد کو خوشخبری مل سکتی ہے آپکی منگنی طے پا جانے کے بھی قوی امکانات موجود ہیں امسال 17 اپریل تا 6 مئی، 29 اگست تا 14 ستمبر، 3 اکتوبر تا 9 دسمبر آپکی بات طے پا سکے گی بچوں کے حوالے سے آپ خاصے مطمئن نظر آ رہے ہیں انعامی سکیموں کے شائق افراد کیلئے یہ دورانیہ قسمت آزمائی کیلئے موافق ہوگا جبکہ 10 فروری تا 17 اپریل، 6 تا 21 مئی، 14 ستمبر تا 3 اکتوبر، 9 تا 29 دسمبر آپکو بچوں کے معاملات پر خاص توجہ دینا ہوگی بچوں سے منسوبہ مسائل آپکی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے اس دوران منگنی وغیرہ کے پیغام بھیجنے سے گریز کریں آپکی طے شدہ منگنی بھی اختلافات کی نذر ہو سکتی ہے

صحت، ملازمت، ملازمین یوں تو امسال آپکی صحت زیادہ تر بہتر رہے گی مگر امسال ہونے والے 2 قمری گرہن جو کہ بالترتیب 21 جنوری اور 17 جولائی کو لگ رہے ہیں آپکی صحت کو متاثر کر سکتے ہیں اسکے علاوہ ہر ماہ ہونے والے قمر در عقرب کو صدقہ دینا اپنا معمول بنا کر آپ خود کو محفوظ کر سکتے ہیں امسال 16 مئی تا 2 جولائی آپکے بیت الصحت میں مریخ کی ہوطاری موجودگی آپکی صحت کو داؤ پر لگا سکتی ہے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں ورنہ آپکو سرجری کروانی پڑ سکتی ہے 21 جون کو شمس بھی یہیں آ جانے سے حالات میں بہتری متوقع ہے 2 جولائی کے بعد آپ تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں مریخ کے منفی دور میں غلطی سے بھی جاب مت چھوڑیں اور 2 جولائی کے بعد جاب کی تبدیلی ممکن بھی ہوگی اور بہتر بھی باقی تمام سال انشاءاللہ موافق رہے گا

شادی، ازدواجی زندگی، شراکت داری گزشتہ سال دلو افراد کے شراکتی اور ازدواجی تعلقات راہو کے اثرات کی وجہ سے بے حد متاثر ہوئے ہیں امسال انشاءاللہ حالات قدرے بہتر رہیں گے یکم جنوری تا 19 فروری، 20 مئی تا 21 جون، 23 ستمبر تا 23 اکتوبر حالات ایکبار پھر آپکے موافق نہ ہونگے آپکو از حد احتیاط سے کام لینا ہوگا ورنہ آپکے مابین علیحدگی ہو سکتی ہے اس دوران کیے گئے نکاح اور شراکت داریاں پائیدار نہ ہونگی جبکہ 21 مارچ تا 20 اپریل، 21 جون تا 23 اگست، 22 نومبر تا 22 دسمبر کے دورانیے انشاءاللہ انتہائی موافق ہونگے آپکی ازدواجی زندگی خوشیوں سے معمور رہے گی آپکو نئی شراکت داریوں کے مواقع ملیں گے اس دوران کیے گئے شراکتی ازدواجی معاہدے انشاءاللہ پائیدار ہونگے۔

وراثت، مشترکہ مالی معاملات، قرضہ امسال مشترکہ مالی معاملات میں سال کی ابتداء کچھ بہتر نہ ہوگی 10 فروری تا 17 اپریل بالخصوص آپکو بہت محتاط رہنا ہوگا اسکے بعد 6 تا 21 مئی، 14 ستمبر تا 3 اکتوبر، 9 تا 29 دسمبر کے دوران بھی حالات آپکے موافق نہ ہونگے مشترکہ مالی معاملات میں آپکو خسارہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وراثتی معاملات بھی تعطل کا شکار ہو سکتے ہیں اگر آپ مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں تو انکے نتائج آپکے خلاف آ سکتے ہیں جبکہ 17 اپریل تا 6 مئی، 21 مئی تا 14 ستمبر اور 3 اکتوبر تا 9 دسمبر کے دوران آپکے وراثتی معاملات حل ہو سکیں گے لون وغیرہ اپلائی کرنے کیلئے یہ ایک بہتر وقت ہے مشترکہ معاملات میں مالی فوائد کا حصول ممکن ہوگا

روحانیت، بیرون ملک سفر، حج و زیارات، اعلیٰ تعلیم امسال ویزہ وغیرہ اپلائی کرنے سفر اور اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے 27 مارچ تا 20 اپریل، 15 مئی تا 21 اگست، 14 ستمبر تا 8 اکتوبر کے دورانیے موافق ہونگے آپکے اعلیٰ تعلیمی مدارج کی راہ ہموار ہو رہی ہے آپ روحانی سفر کر سکیں گے امسال دلو افراد کو حج و زیارات کی سعادت حاصل ہو سکتی ہے بتائے گئے عرصہ کے علاوہ ویزہ وغیرہ اپلائی کرنے سے گریز کریں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے یا مقابلے کا امتحان دینے والے دلو افراد کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپکی محنت داؤ پر ہوگی آپکو از حد محتاط رہنا ہوگا اس دوران مذہبی امور میں گفتگو احتیاط سے کریں

معیشت ، کیریئر روزگار ، ترقی ، تنزلی سالِ رواں کے اس سخت اور مخدوش دور میں آپکو کیریئر روزگار کے حوالے سے ہر قدم احتیاط سے رکھنا ہوگا جن احباب نے تا حال اپنا کوئی روحانی سد باب نہیں کروایا بہتر ہے امسال پہلی فرصت میں کروالیں امسال یکم جنوری تا 14 فروری کیریئر روزگار کا حاکم بہتر پوزیشن میں رہتے ہوئے آپکو روزگار کے بہتر مواقع فراہم کر رہا ہے مگر 14 فروری تا 31 مارچ بالعموم اور 16 مئی تا 2 جولائی بالخصوص آپکو محتاط رہنا ہوگا ملازم پیشہ افراد کے لیے یہ دور خاص طور پر خاصہ مشکل ثابت ہوگا ملازمت کی تبدیلی یا چھوڑنے سے قطعی گریز کریں یہ وقت کیریئر روزگار کے حوالے سے کسی بھی اہم اور نئی پیش رفت کیلئے موزوں نہ ہوگا آپکو ترقی کی بجائے تنزلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے 3 جولائی تا 18 اگست حالات قدرے بہتر رہیں گے آپ شراکت داری کے ذریعے اپنے کاروبار کو سنبھالنے میں کوشاں ہیں 18 اگست تا 14 اکتوبر آپکو شراکت داری کے بہتر نتائج مل سکیں گے 14 اکتوبر تا 19 نومبر کا دورانیہ ایکبار پھر آپکا امتحانی دور ثابت ہو سکتا ہے اس دوران کاروباری حوالہ سے بیرون ملک سرمایہ کاری یا سفر فائدہ مند ہوگا 19 نومبر تا 31 دسمبر کیریئر کا حاکم مریخ اپنے ہی گھر قیام کرتے ہوئے آپکو ترقی کی راہ پر گامزن کردے گا یہ سال کا سب سے بہتر اور اہم وقت ہے اس دورانیہ سے بھرپور فائدہ اٹھائیں

دوست احباب ، خواہشات ، کاروباری فوائد آپکے بیت الامید کا حاکم مشتری آغاز دسمبر تک یہیں قیام کرتے ہوئے دوست احباب کے ساتھ تعلقات بہتر بنا رہا ہے یہ سال اس حوالہ سے آپ کیلئے ایک نعمت سے کم نہیں ہے دوستوں سے بھرپور فائدہ مل سکے گا آپکی خوش بختی عروج پر ہوگی 10 اپریل تا 11 اگست مشتری کے رجعت میں رہنے سے دوستوں سے وابستہ توقعات پوری ہونا مشکل ہوگا اس دورانیہ میں اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھیں وگرنہ مایوسی ہو سکتی ہے 2 تا 26 نومبر گیارہویں زہرہ کا تحسیس اور 9 تا 29 دسمبر عطارد کا وبال آپکو قدرے متاثر کر سکتا ہے اس وقت کے لیے پہلے سے ہی منصوبہ بندی کر لینا بہتر ہوگا

بیرون ملک قیام ، امیگریشن ، خفیہ سازشیں آپکے زائچے کے بارہویں زحل کی موجودگی تمام سال خفیہ دشمنوں کو آپکے خلاف دشمنی پر اکساتی رہے گی آپکو محتاط رہنا ہوگا جہاں آپکو اس مشکل صورتحال کا سامنا رہے گا وہیں زحل کی یہ پوزیشن آپکی امیگریشن کی راہ بھی ہموار کر رہی ہے پہلے سے مقیم افراد کیلئے اپنے اور بہتر گھر کا حصول ممکن ہوگا البتہ یکم تا 20 جنوری شمس کا بارہویں تحسیس آپکے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے بالخصوص وہ افراد جن کے کیسز اپیل میں چل رہے ہیں انکے لیے یہ دورانیہ مشکل ثابت ہو سکتا ہے اسکے علاوہ 30 اپریل تا 18 ستمبر زحل کی رجعت کیوجہ سے آپکے معاملات رک سکتے ہیں یا زیر التوا ہو سکتے ہیں اس دوران امیگریشن وغیرہ اپلائی کرنے سے قبل زحل سے منسوب روحانی تدارک ضرور کرلیں تاکہ مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑے گا

شمسی وقمری گرہن امسال تین گرہن 6 جنوری ، 17 جولائی اور 26 دسمبر کو آپکے زائچے کے بارہویں لگیں گے یہ گرہن بالخصوص آپکے بیرون ملک قیام کو متاثر کر رہے ہیں بیرون ملک ملازم افراد کو واپسی کی راہ دیکھنی پڑ سکتی ہے اپنی جاب کی حفاظت کریں دیگر دو گرہن 21 جنوری اور 3 جولائی کا گرہن آپکی صحت اور جاب کو متاثر کر رہا ہے امسال ہونے والے تمام قمری گرہن آپکی صحت اور ملازمت کو اور شمسی گرہن شراکتی ازدواجی تعلقات کو متاثر کر رہے ہیں ان مسائل سے بچنے کیلئے بروقت صدقہ اور نماز کسوف خسوف ضرور ادا کریں پروردگار آپ سب کو اپنی خاص امان میں رکھے آمین

ورد خاص روزانہ بعد از نماز پنجگانہ 9 مرتبہ دعائے دوست سیارگان ورد کریں بمع اول و آخر 9-9 مرتبہ درود پاک

صدقہ ہر ہفتہ 800 گرام کالے ماش کسی مستحق کو دیں یا قبرستان میں ڈال دیں کوئی بھی صدقہ ہرگز راستے میں نہ ڈالیں

قارئین امامیہ جنتری کے لیے تحفہ

ہر جائز کام کے لیے میرے بزرگوں کا عطا کردہ عمل پیش ہے نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد کر سکتے ہیں۔ اول و آخر 7-7 مرتبہ درود شریف ایک مرتبہ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اور 300 مرتبہ یَا حَیُّ یَا قَیُّومُ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ پڑھیں۔ یہ عمل 21 روز متواتر کرنا ہے ان شاء اللہ کام ہو جائے گا۔ جو حضرات عمل نہ کر سکیں وہ ہم سے ایک نقش مناسب ہدیہ کے عوض طلب کریں یا فون پر رابطہ کریں۔

امجد حسین قادری۔ 0301-6046652

حیدری میرج بیورو اینڈ استخارہ

فی سبیل اللہ سادات ، غیر سادات ، فقہ جعفریہ ، فرسٹ اینڈ سیکنڈ میرج ، اندرون و بیرون ملک رشتوں کے بندھن کے لیے صرف سچائی کی بنیاد پر سرپرست رابطہ کریں۔ قرآن مقدس کی نورانی آیات سے اور فرامین چہاردہ معصومین علیہم السلام کے ذریعہ مشکلات کے روحانی حل اور جائز شرعی مقاصد کے لیے رابطہ کریں۔ نیو شکریال اسلام آباد ہاؤس نمبر 9 سٹریٹ 1

سید شوکت حسین نقوی
0346-5355507, 0320-5355507

برج: حوت **PISCES** **ستارہ:** مشتری

رنگ: ______ سبز، جامنی، خاکی

عنصر: ______ آبی

جواہر: ______ زمرد، یاقوت

بہترین شریک حیات: ______ سرطان، عقرب

ناموافق ساتھی: ______ جوزا، سنبلہ، قوس

بیماریاں: اعصابی تھکن، درد شانہ، مرگی، جلدی بیماریاں

دن: جمعرات **عدد:** 3، 7 20 Feb to 20 Mar **حروف:** د، چ

اہم نکات 2019 حوت افراد کیلئے تبدیلیوں کا سال ہے سال کی سب سے اہم بات سعد اکبر ستارہ مشتری کی آپکے کیریئر کے گھر موجود رہتے ہوئے حکم خدا آپکی شخصیت اور کیریئر روزگار کو چار چاند لگا رہا ہے گیارہویں بیت الامید میں ستارہ زحل کی موجودگی آپکی خواہشات کی تکمیل میں معاون ہوگی خانہ مال میں شمس کا شرف اور خانہ مال کے حاکم مریخ کا امسال ہبوط بھی آپکی زندگی پر اہم اثرات مرتب کر رہے ہیں امسال لگنے والے 5 گرہن آپکے بچوں اور صحت جاب سے متعلقہ معاملات کو بالخصوص متاثر کر سکتے ہیں۔

شخصی وقار آپکا اپنا ستارہ مشتری اپنے ہی برج قوس میں رہتے ہوئے آپکی شخصیت میں نکھار پیدا کر رہا ہے اور آپکی خود اعتمادی میں اضافہ ہو رہا ہے دیگر سیارگان میں عطارد 10 فروری تا 17 اپریل طالع میں ہبوط زدہ رہتے ہوئے آپکی شخصیت کو متاثر کر رہا ہے گفتگو میں محتاط رہیں جلد بازی اور سنی سنائی باتوں پر اعتماد کرنے سے گریز کریں خانگی اور ازدواجی معاملات کو تحمل اور تدبر سے حل کریں ورنہ آپکی شخصیت پر انگلیاں اٹھ سکتی ہیں 10 اپریل تا 11 اگست مشتری کی رجعت کی وجہ سے آپکی خود اعتمادی میں کمی واقع ہو سکتی ہے آپکے معاملات سست روی کا شکار ہو سکتے ہیں اس دورانیے کو مشتری سے منسوب صدقات اور ورد وظائف سے موافق کیا جا سکتا ہے سال کا باقی دورانیہ انشاء اللہ بہتر گذرے گا۔

مالی پوزیشن کو کہ امسال مشتری آپکے کیریئر کے گھر موجود رہتے ہوئے آپکو کاروباری ترقی کی جانب تیزی سے لے جا رہا ہے جس سے آپکی مالی پوزیشن مستحکم ہوگی مگر امسال خانہ مال کے حکم مریخ کی تیزی سے بدلتی صورتحال میں آپکو اپنی مالی پوزیشن کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلے کرنا ہونگے یکم جنوری تا 14 فروری آپکو بہتر ماحول میسر رہے گا مگر 14 فروری تا 2 جولائی آپکے اخراجات میں تیزی آ جائے گی اس دورانیہ کو بالخصوص نوٹ فرمالیں قرض کے لین دین سے گریز کریں محتاط رہیں 2 جولائی تا 14 اکتوبر حالات میں بہتری آنے گی آپکی مالی پوزیشن مستحکم ہو رہی ہے شراکتی وراثتی حوالے سے آپکو بڑی رقم مل سکتی ہے 14 اکتوبر تا 19 نومبر آپکی مالی پوزیشن ایکبار پھر غیر مستحکم ہو سکتی ہے اس دورانیہ میں بالخصوص شراکتی مالی اور وراثتی معاملات کو مؤخر کرنا بہتر ہوگا لائف پارٹنر پر بھی اچانک اضافی اخراجات کرنا پڑ سکتا ہے 19 نومبر تا 31 دسمبر انشاء اللہ حالات ایکبار پھر موافق ہونگے آپکی مالی پوزیشن مستحکم ہو رہی ہے

عزیز و اقارب، ابتدائی تعلیم، نزدیکی سفر امسال اس حوالے سے آپکو تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا امسال 7 جنوری تا 27 مارچ، 20 اپریل تا 15 مئی، 21 اگست تا 14 ستمبر، 8 اکتوبر تا 26 نومبر کے دورانیے آپکے لیے موافق نہ ہونگے آپکو عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات بنائے رکھنے میں دشواری پیش آ سکتی ہے محتاط رہیں اس دورانیے میں حوت بچوں کو بھی تعلیمی میدان عبور کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آپکا سب سے بڑا مسئلہ آپکی توجہ اور ارتکاز ہوگا ان ایام میں نزدیکی سفروں سے گریز کرنا بہتر ہوگا ورنہ آپ مطلوبہ نتائج حاصل نہ کر سکیں گے جبکہ 21 مارچ تا 20 اپریل، 15 مئی تا 21 اگست، 14 ستمبر تا 8 اکتوبر کے درمیان آپکے لیے کئی ایک نزدیکی سفروں کے مواقع ملیں گے یہ وہ دورانیے ہیں جب آپکے سفر آپکے لئے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں اسی دورانیے میں آپکے تعلقات بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب کیساتھ بہتر رہیں گے

گھر، خاندان، پراپرٹی حوت افراد کیلئے گھر خاندان کے افراد خاص اہمیت رکھتے ہیں آپکی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ خاندان کے دیگر افراد سے آپکے تعلقات بنے رہیں مگر قانون قدرت کے مطابق سب کی طرح آپکے معاملات میں بھی اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے امسال آپکے بیت الارض کا حاکم ستارہ عطارد 10 فروری تا 17 اپریل بالخصوص اور 6 تا 21 مئی، 14 ستمبر تا 3 اکتوبر اور 9 تا 29 دسمبر بہتر پوزیشن میں نہ ہوگا اس دوران عزیز و اقارب بالخصوص والدہ اور خاندان کے افراد سے کشیدگی سے گریز کریں یہ وقت گھر کی تبدیلی، مرمت اور پراپرٹی کی خرید و فروخت کے لیے موافق نہ ہوگا محتاط رہیں آپکے ساتھ فراڈ ہو سکتا ہے اسکے علاوہ باقی تمام سال آپکے لیے موافق ہوگا اس دوران گھر کی تبدیلی اور پراپرٹی کی خرید و فروخت فائدہ مند ہوگی۔

اولاد، انعامی بانڈ، منگنی بچوں کے حوالے سے امسال آپکو از حد محتاط رہنا ہوگا آپکا بیت الاولاد تمام سال راہو کے اثرات سے متاثر ہو رہا ہے آپکے بچوں میں ضد کا عنصر بڑھ جائے گا حوت جوڑوں کو امسال حصول اولاد میں رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پریگننسی کو آپکو اپنی امان میں رکھے حوت خواتین کو سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوگی اسکے علاوہ امسال ہونے والے 21 جنوری اور 17 جولائی کے قمری گرہن اور 16 مئی تا 2 جولائی آپکے بیت الاولاد میں مریخ کا ہبوط بچوں کے حوالے سے آپکی مشکلات میں شدید اضافہ کرے گا (بالخصوص حاملہ خواتین کو) آپکو از حد محتاط رہنا ہوگا۔

منگنی یا نسبت وغیرہ طے کرنے کیلئے مریخ کی ہبوطی ایام سے گریز کریں باقی عرصہ انشاءاللہ موافق ہے مگر پھر بھی آپکی نسبت طے نہ ہو پا رہی ہو تو راہو کے اثرات کا سدباب ضرور کریں۔

صحت، ملازمت، ملازمین گذشتہ سال راہو کے اثرات نے آپکو صحت کے مسائل سے دوچار رکھا ہے امسال انشاءاللہ حالات بہتر رہیں گے امسال 21 مارچ تا 20 اپریل، 21 جون تا 23 اگست، 22 نومبر تا 22 دسمبر کے دورانیے آپکی صحت اور ملازمت دونوں کیلئے بہترین ہونگے آپکے لیے بہتر جاب کا حصول ممکن ہوگا اس دوران آپکو ترقی بھی مل سکتی ہے مگر یکم جنوری تا 20 مارچ، 20 مئی تا 21 جون، 23 ستمبر تا 23 اکتوبر آپکی صحت اور ملازمت دونوں مخدوش حالات کا شکار ہو سکتے ہیں اسکے علاوہ اس دورانیہ میں ملازمت چھوڑنے یا تبدیل کرنے سے گریز کریں ورنہ آپکی معاشی پوزیشن غیر مستحکم ہو سکتی ہے یہی وہ دورانیہ ہیں جب آپکو اپنے کولیگز اور ملازمین کی طرف سے بھی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔

شادی، ازدواجی زندگی، شراکت داری آپکی شراکتی ازدواجی زندگی کے حوالے سے سال کا آغاز محتاط روی کا متقاضی ہوگا 10 فروری تا 17 اپریل آپکے بیت الزوج کا حاکم طالع میں ہبوط زدہ ہوگا اگر آپنے خود پر کنٹرول نہ کیا اور تدبر سے کام نہ لیا تو آپکے مابین یقیناً علیحدگی ہو سکتی ہے آپکی طے شدہ شادی بھی ختم ہو سکتی ہے 18 اپریل تا 6 مئی معاملات میں قدرے بہتری آئے گی مگر یہ بہتری بھی عارضی ہے 21 مئی سے آپکے تعلقات میں بہتری آئے گی اب آپکی شادی طے پا جانے کے قوی امکانات موجود ہیں بہتر شراکت داری کی آفر مل سکتی ہے آپکی ازدواجی زندگی میں بھی ٹھہراؤ آ جانے کا یہ سلسلہ انشاءاللہ 14 ستمبر تک چلے گا 14 ستمبر تا 3 اکتوبر ہوا ایکبار پھر آپکے خلاف ہوگی محتاط رہیں 3 اکتوبر تا 9 دسمبر حالات بہتری کی جانب گامزن رہیں گے آپکو سسرالی عزیزوں کی جانب سے شراکت داری کی آفر مل سکتی ہے اسی طرح شادی کیلئے بیرون ملک سے پیغام آ سکتا ہے 9 تا 29 دسمبر کا دورانیہ ایکبار پھر آپسے خاص احتیاط کا متقاضی ہوگا۔

وراثت، مشترکہ مالی معاملات، قرضہ اس حوالے سے امسال آپکو تیزی سے بدلتے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپکے فیصلوں اور اہم اقدامات کے حوالے سے وقت کا انتخاب انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا 7 جنوری تا 27 مارچ، 20 اپریل تا 15 مئی، 21 اگست تا 14 ستمبر، 18 اکتوبر تا 26 نومبر یہ وہ اوقات ہیں جب آپکو وراثتی مالی معاملات کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسی طرح اگر آپ مشترکہ مالی منصوبوں پر کام کر رہے ہیں تو اس دوران آپکو مالی خسارہ کا سامنا رہے گا جو کہ آپکے ذاتی دباؤ میں اضافہ کا باعث ہوگا جبکہ 27 مارچ تا 20 اپریل بالخصوص ایک بہترین وقت ہے آپکے جدی وراثتی مالی معاملات حل ہو سکیں گے مگر فیصلوں میں جلد بازی سے گریز کریں اسکے بعد 15 مئی تا 21 اگست اور 14 ستمبر تا 18 اکتوبر کا دورانیہ بھی موافق رہے گا قرض کے لین دین میں بھی یہ وقت بہتر ہے وہ افراد جو بینک وغیرہ سے لون لینا چاہتے ہیں انھیں کامیابی مل جائے گی

روحانیت، بیرون ملک سفر، حج و زیارات، اعلیٰ تعلیم حوت افراد کو گذشتہ سال اپنے بیرون ملک سفروں میں خاصی رکاوٹ کا سامنا رہا ہے امسال انشاءاللہ حالات گذشتہ کی نسبت کافی بہتر نظر آ رہے ہیں بفضل تعالیٰ آپکی حج و زیارات کی خواہش پوری ہو سکتی ہے یکم جنوری تا 14 فروری، 2 جولائی تا 14 اکتوبر، 19 نومبر تا آخر سال حالات آپکے حق میں نظر آ رہے ہیں آپ با آسانی سفر اختیار کر سکیں گے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے افراد بھی اپنے تعلیمی مدارج احسن طریقے سے طے کر سکیں گے مگر 14 فروری تا 2 جولائی بالخصوص ایسے دورانیے ہونگے جب آپکو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے افراد کو تعلیمی سلسلہ عدم توجہ سے منقطع کرنا پڑ سکتا ہے محتاط رہیں اور اسکا روحانی حل تلاش کریں اسکے بعد 14 اکتوبر تا 19 نومبر کے ایام بھی آپکی فیور میں نظر نہیں آ رہے اس دوران ویزہ وغیرہ اپلائی کرنے سے گریز کرنا بہتر ہوگا

معیشت، کیریر روزگار، ترقی، تنزلی آپکے کیریر روزگار سے متعلقہ ستارہ جو کہ آپکا ذاتی ستارہ بھی ہے امسال آپکے کیریر روزگار کے گھر میں قیام کرتے ہوئے آپکی معیشت کو بحکم خدا انتہائی مستحکم کر رہا ہے مگر 10 فروری تا 17 اپریل طالع میں عطارد کی حتمی پوزیشن کو ضرور مد نظر رکھیں اور ہر قدم مشاورت سے رکھیں تا کہ آگے ڈالا ہوا قدم پیچھے نہ ہٹانا پڑے 10 اپریل تا 11 اگست مشتری کی رجعت کی وجہ سے آپکے منصوبے تعطل کا شکار ہو سکتے ہیں آپکی ترقی کی رفتار رک سکتی ہے اب رکنے کی بجائے آگے بڑھنے کے لیے مشتری سے منسوب روحانی تدارک کریں 2 تا 26 نومبر کیریر کے گھر زہرہ کا حضیض کاروبار میں کسی قریبی عزیز کی خود غرضی یا شراکتی مالی خسارہ کی وجہ سے بہتر نظر نہیں آ رہا 2 دسمبر کو مشتری کے اگلے برج ہبوطی کیفیت میں چلے جانے سے آپ مشتری کی مدد سے محروم ہو جائیں گے اب معاملات آپکی خواہشات کے برعکس ہونگے دوسری طرف 9 تا 29 دسمبر عطارد بھی کیریر کے گھر وبال زدہ رہنے سے آپکو ترقی کی بجائے تنزلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں بلکہ دسمبر میں کیریر روزگار کے حوالے سے کسی اہم تبدیلی کا فیصلہ [illegible] صرف نقصان دے گا۔

دوست احباب، خواہشات، کاروباری فوائد آپکے بیت الامید کا حاکم زحل تمام سال آپکے بیت الامید میں موجود رہے گا اور آپکی خواہشات کی تکمیل میں معاون رہے گا دیگر سیارگان میں شمس یکم تا 20 جنوری گیارہویں شمس کا حضیض آپکی خواہشات کی تکمیل میں رکاوٹ ہوگا اس دوران دوستوں سے اختلافات سے گریز کریں اسکے بعد حالات میں بہتری آئے گی 30 اپریل کو زحل رجعت میں چلا جائے گا اور 18 ستمبر تک رجعت میں رہتے ہوئے آپکے تعلقات کو ایکبار پھر کشیدگی کی جانب دھکیل دے گا اب آپکی خواہشات کی تکمیل مشکل ہو گی آپ ایسا محسوس کریں گے کہ جیسے کسی نے آپکی بندش کر دی ہو 18 ستمبر تا 2 دسمبر کا دورانیہ انتہائی موافق رہے گا گو کہ زحل دسمبر میں بھی یہیں قیام پذیر ہے مگر مشتری کے گیارہویں ہبوط زدہ ہو جانے سے آہستہ آہستہ حالات میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی اس طرح دسمبر ملا جلا رہے گا

بیرون ملک قیام، امیگریشن، خفیہ سازشیں یہ ایک ملا جلا سال ہے یکم تا 20 جنوری حالات بہتر رہیں گے 20 جنوری تا 19 فروری بارہویں شمس کا وبال آپکو دوہری کی راہ دکھا سکتا ہے محتاط رہیں تو کہ یہ تمام سال آپکے خفیہ دشمنوں کو مضبوط کرتا رہے گا مگر اس دوران انشاءاللہ انکے چہرے بھی آپکو نظر آ جائیں گے 30 اپریل تا 18 ستمبر زحل کی رجعت کی وجہ سے آپکے امیگریشن سے متعلقہ معاملات ٹل جائیں گے یہ وقت امیگریشن اپلائی کرنے کے لیے بہتر نہ ہوگا بیرون ملک مقیم افراد کو بھی اس دوران مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سال کا باقی دورانیہ انشاءاللہ موافق رہے گا آپکے لیے بہتر رہائش اور امیگریشن کا حصول ممکن ہوگا۔ **ورد خاص** روزانہ ایک تسبیح سورۃ قمر آیت 45 اور سورۃ یوسف آیت 64 تلاوت کریں بعد اول و آخر 9-9 درود پاک **صدقہ** ہر ہفتہ 800 گرام کالے ماش کی مستحق کو دیں یا قبرستان میں ڈال دیں صدقہ راستے میں ہرگز نہ ڈالیں۔

شیخ زوار رضا جاوا (ماہر فلکیات) B-238 سبزہ زار ملتان روڈ، لاہور
Cell 0300-9477284
042-37496809
0321-9477284 skype Zawar_jawa9 Sheikh zawar raza jawa
Www.enlighteningspirits.com, E-Mail: jawa1215@gmail.com

صدائے کواکب

2018 (یک سالہ زائچے مفصل)

از قلم شیخ زوار رضا جاوا

قارئین کرام کے بھرپور اصرار پر امسال سالانہ زائچے ۲۰۱۷ مفصل ایک کتاب کی صورت میں الگ سے شائع کیے جا رہے ہیں جس میں زندگی کے تقریباً تمام اہم شعبہ جات پر مفصل روشنی ڈالی جائے گی۔ مثلاً شخصیت، مالی پوزیشن، عزیز و اقارب سے تعلقات اندرون ملک سفر، سماجی حیثیت، پراپرٹی، خاندان، سواری، زراعت، اولاد، افیئرز، منگنی، انعامی بانڈ، صحت، سحر جادو، امراض، ملازمت، شادی، پارٹنرشپ، طلاق، وراثت، شراکتی مالی معاملات، خوف آسیب، سسرالی عزیز، بیرون ملک سفر، اعلیٰ تعلیم، حج و زیارات، کیریئر روزگار، کاروبار، دوست احباب، خواہشات کی تکمیل، خوش قسمتی، کاروباری فوائد، خفیہ دشمن، امیگریشن، قرض، قید و بند اور ان جیسے دیگر امور اور مسائل پر روشنی اور ساتھ ساتھ ان کا حل بھی بتایا جا رہا ہے۔ ضرور پڑھیے اور اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجیے گا۔

كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔

گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، پھر تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے (الرحمٰن ۵۸-۵۹)

آپ کے لیے کون سا پتھر موزوں ہے؟

certifies gemologist (نایاب زہرا شیخ)

صرف خواتین رابطہ کریں

انگشتری پہننا سنت نبوی و آئمہ ہے نگینے اپنے سعد و نحس اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اقوال آئمہ اور جدید سائنس دونوں سے پتھروں کے اثرات ثابت ہیں جدید دنیا میں پتھر بطور منرلز استعمال کیے جا رہے ہیں جسے gems therapy اور Crystel Therop کہا جاتا ہے۔ نام اور ولادت کے حساب سے تجویز کیا گیا نگینہ قسمت اور حالات میں بہتری لاتا ہے، ستاروں کی نحوست رفع کرتا ہے بیماری میں طبیب جواہرات صحت کو بہتر کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ پتھر سحر جادو اور آسیب کے اثرات کو روکنے میں بھی مدد دیتے ہیں اپنے لیے بہترین نگینہ تشخیص کروائیں اور اعلیٰ کوالٹی نگینے مناسب قیمت پر حاصل کریں۔

03224407724 call 3pm to 8pm

اپنا زائچہ بنوائیں

اپنی زندگی کے اہم ترین اُمور میں بہترین فیصلہ کرنے یا اپنے مسائل کی تشخیص اور ان کے حل کیلئے آئمہ طاہرین کے پاک و پاکیزہ علم علم جفر و نجوم سے مدد حاصل کیجئے اور جانئے آپ کیلئے کونسا کاروبار یا ملازمت کرنا بہتر ہے۔ آپ کا تعلیمی کیریئر کیسا رہے گا یا کونسا تعلیمی شعبہ بہتر ہے۔ آپ کا لکی نمبر و لکی سٹون کونسا ہے یا کس کام کیلئے کونسا پتھر، پہننا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ شادی سے قبل یہ ضرور دیکھ لیں کہ لڑکے اور لڑکی کے مابین تعلقات کیسے رہیں گے اس طرح آپ شادی کے بعد کی بہت سی قباحتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں شادی کب کرنا بہتر نتائج کا حاصل ہوگا یا شادی میں رکاوٹ کی وجوہات و حل کیا ہیں۔ بیرون ملک میں رکاوٹ اور اسکا سد باب کیا ہے۔ تعلیمی یا کاروباری مقاصد کیلئے کونسا ملک یا شہر بہتر رہے گا۔ نیا کاروبار کب شروع کریں یا کاروبار میں ناکامی کی وجوہات کیا ہیں آپ کی بیماری بوجہ سحر آسیب ہے۔ یا مرض جسمانی اس کے علاوہ زندگی کے تمام اُمور میں بہترین مشاورت معقول زائچہ فیس ادا کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ خواہشمند افراد رجوع کریں۔

لکی باکس LUCKY BOX

شیخ زوار رضا جاوا
0321-9477284 Cell 0300-9477284

اس باکس میں 2019 کے لیے ہر برج استارہ کی مناسبت سے آپکا لکی سٹون، خاص آپکے برج کیلئے لوح مبارک 2019 کی مناسبت سے آپ کا خاص اسم اعظم اور ورد کے طریقہ کیساتھ ساتھ بوقت ورد استعمال کے لیے خصوصی طور پر خوشبو دی جا رہی ہے اپنے معاملات زندگی میں آسانیوں اور مشکلات و مصائب سے بچنے کے لیے اپنا لکی باکس آج ہی بک کروائیں دوسرے شہروں کے رہنے والے بذریعہ کوریئر یا رجسٹرڈ ڈاک منگوا سکتے ہیں (کیش آن ڈلیوری کی سہولت موجود ہے)

میرج بیورو

شیخ زوار رضا جاوا
Cell 0300-9477284
0321-9477284

تمام سادات و غیر سادات مومنین و مومنات کے لیے میرج بیورو کی سہولت موجود ہے یہ سلسلہ محدود مومنین کی خوشنودی کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ رجسٹریشن فیس 1000 روپے ہے اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی کوئی فیس نہیں ہے رجسٹریشن فارم کے لیے خود تشریف لائیں یا بذریعہ ای میل منگوا سکتے ہیں۔

Www.enlighteningspirits.com
E-Mail: jawa1215@gmail.com

فہرست اسلامی کتب 2018-2019

ملنے کا پتہ: افتخار بک ڈپو رجسٹرڈ اسلام پورہ لاہور 042-37223686

نوٹ [illegible]

www.iftikharbookdepot.com, Email: iftikharbookdepot@gmail.com

قرآن مجید مترجم وتفاسیر

قرآن مجید مترجم مولانا فرمان علی، علامہ ذیشان جوادی، مولانا شیخ محسن علی نجفی، علامہ علی نقی، مختلف کاغذ و بائنڈنگ مطبوعہ، چاند کمپنی، مصباح القرآن، ثاقب کمپنی، نیاز کمپنی قرآن مجید معرا و سپارہ سیٹ پاک کمپنی، چاند کمپنی، تاج کمپنی، قدرت اللہ کمپنی۔

تفسیر القرآن (از مولانا ظفر حسن امروہوی 5 جلدیں)	1700/-
تفسیر نمونہ 15 جلد فی جلد 700/- سیٹ	10500/-
تفسیر فصل الخطاب (علامہ علی نقی) 3 جلدیں	2500/-
پیام قرآن (مکارم شیرازی) 10 جلد	5000/-
تفسیر موضوعی (جعفر سبحانی) 12 جلد سیٹ	4500/-
تفسیر نور الثقلین (۹ جلدیں فی جلد)	600/-
میزان الحکمت (ترجمہ مولانا محمد علی فاضل)	5000/-
تفسیر صافی (فیض کاشانی) مکمل 7 جلدیں	4750/-
قرآن کا دائمی منشور (6 جلدیں)	4500/-
تفسیر ابن کثیر (5 جلدیں)	3300/-
تعلیم الرسولؐ (مولانا تطہیر زیدی)	600/-
المیزان (آیت اللہ طباطبائی) 5 جلدیں	4500/-
تفسیر عمدۃ البیان 5 جلدیں	2700/-
تعلیم القرآن (مولانا تطہیر حسن زیدی)	600/-
تفسیر الکوثر (شیخ محسن نجفی) 10 جلدیں	7000/-
قصص القرآن (مولانا ظفر حسن امروہوی)	700/-
مجمع الآیات (مولانا ظفر حسن امروہوی)	550/-
مطالعہ قرآن (علامہ ذیشان جوادی)	600/-
تفہیم القرآن (مولانا مودودی) ۶ جلدیں	3100/-
قصص القرآن (علامہ محمدی اشتہاردی)	600/-
نور القرآن قرآنی تصویروں کے ساتھ 3 جلد فی جلد	1500/-
تفسیر نور (استاد محسن قرائتی)	400/-
ظہور القرآن 4 جید شیعہ علماء کرام کے تراجم	600/-
نور القرآن 4 جید علماء اسلام کے تراجم	600/-
مجمع الفضائل (مناقب شہر آشوب)	950/-
المائدہ (تکمیل دین کی مفصل شاہکار)	500/-
تفسیر نور (6 جلدیں)	4800/-
تفسیر سورہ حجرات (دستغیب)	350/-
قرآن پاک (ترجمہ مولانا تلمیذ حسنین رضوی)	1200/-

سوانح سیرت۔ تواریخ

الفاروق (شبلی نعمانی)	340/-
سیرت رسولؐ 4 جلدیں (مولانا ظفر حسن)	1250/-
عصر ظہور (قیامت کی پیشگوئیاں) (علی کورانی)	450/-
علی کی بیٹی مظلومہ کربلا (سید عالم شاہ کاظمی مرحوم)	450/-
سیرت امیر المومنینؑ (مفتی جعفر حسین)	1000/-
سیرت النبیؐ (7 جلدیں) (شبلی نعمانی)	1800/-
اسوۃ الرسولؐ (فوق بلگرامی) ۳ جلد	2000/-
الصراط السوی فی احوال مہدیؑ	500/-
سیرت مصطفیؐ (ہاشم معروف حسنی)	600/-
سیرت النبیؐ (ابن ہشام)	1200/-
سیرت النبیؐ (آقائے جعفر سبحانی)	600/-
سیرت سید الشہداء (عماد الدین اصفہانی) ۲ جلد	700/-
تذکرۃ الاطہار (شیخ مفیدؒ)	500/-
منتہی الآمال (شیخ عباس قمی) اول	700/-
منتہی الآمال (شیخ عباس قمی) دوئم	700/-
کوکب دری فی فضائل علیؑ (اہل سنت مصنف)	550/-
ارجح المطالب (سید عبداللہ امرتسری)	700/-
علل الشرائع (شیخ صدوقؒ)	800/-
سیرت ائمہ اہل بیتؑ (ہاشم معروف) 2 جلدیں	1200/-
نقوش عصمت (علامہ ذیشان جوادی)	500/-
شہدائے کربلا (علامہ علی نقی)	300/-
مختار آل محمدؐ (نجم الحسن کراروی)	350/-
قصص الانبیاء (جعفر سبحانی)	800/-
علامات ظہور مہدیؑ (طالب جوہری)	500/-
رہنمایان اسلام (علامہ علی نقی)	100/-
علیؑ کی بیٹی (ڈاکٹر قائمی)	800/-
ذکر فاطمہؑ (جسٹس افضل حیدر)	300/-
تاریخ میں سفر (آغا امیر حسین)	2000/-
تاریخ اسلام (علامہ علی نقی)	350/-
انوار امامت تا قیامت (مقدس اردبیلی)	250/-
حسینؑ ابن علیؑ (جسٹس افضل حیدر)	300/-
تاریخ یعقوبی 2 جلدیں	1100/-
تاریخ تشیع (مولانا حسین محمد جعفری)	450/-
تاریخ فقہ جعفری (ہاشم معروف حسنی)	350/-
تاریخ ابن خلدون (۱۴ جلدیں)	5000/-
تاریخ طبری (۷ جلدیں)	4800/-
کربلا کی شیر دل خاتون (عائشہ مصری)	150/-
بحار الانوار (علامہ مجلسیؒ) 12 جلدیں سیرت چہاردہ معصومینؑ مکمل سیٹ	4500/-
جلد اول، دوم (امام حسینؑ)	400/-
جلد سوئم (سیدہ فاطمۃ الزہراؑ)	375/-
جلد چہارم و پنجم (امام باقرؑ، امام رضاؑ)	400/-
جلد ششم (امام زین العابدینؑ)	375/-
جلد ہفتم (امام موسیٰ کاظمؑ)	400/-
جلد ہشتم (امام جعفر صادقؑ)	400/-
جلد نہم (امام تقیؑ، امام نقیؑ، امام حسن عسکریؑ)	400/-
جلد دہم (امام حسنؑ)	400/-
جلد 11 (حالات امام مہدیؑ)	650/-
جلد 12 (حالات امام مہدیؑ)	700/-
دیوان ابوطالبؑ (ترجمہ سید تلمیذ حسنین)	1200/-
زاد حیات (محمد رضا مرچنٹ) (2 جلدیں)	700/-

☆ چند تاریخ (موسیٰ خسروی) (5 جلدیں) 1400/-	☆ کلید عملیات (مولانا برکت علی گوشہ نشین) 225/-	☆ نماز جعفریہ اعلیٰ کاغذ مع رنگین تصاویر 75/-
☆ انتخاب طبری (مولانا صفدر حسین) 500/-	☆ مجربات گوشہ نشین (مولانا برکت علی گوشہ نشین) 60/-	☆ نماز جعفریہ باتصویر عام 60/- پاکٹ نماز 25/-
☆ الصواعق المحرقہ (برق سوزاں) 400/-	☆ زینت العابدین۔ مستحب نمازوں کا مجموعہ 90/-	☆ تحفہ نجات (بڑا سائز گولڈن) 400/- مجموعہ پاکٹ 60/-
☆ تاریخ فرشتہ ۲ جلدیں 1800/-	☆ خصائص القرآن مع فضائل 300/-	☆ حدیث کساء آرٹ پیپر (مع منظوم ترجمہ) 45/-
☆ تاریخ الخلفاء (جلال الدین سیوطی) 460/-	☆ نقش سلیمانی 300/- حرز سلیمانی 300/-	☆ چودہ منتخب سورے 90/- ☆ دعائے جوشن کبیر 90/-
☆ تاریخ ابن کثیر (۹ جلدیں) 5000/-	☆ اقوال علی انسائیکلوپیڈیا (یوسف مثالی) 500/-	☆ وظائف اسماء الحسنیٰ 150/- ☆ دعائے توسل 40/-
☆ تاریخ طبقات ابن سعد (۳ جلدیں) 2900/-	☆ تحفہ پنجتن پاک (الیاس عادل) 800/-	☆ ہدیۃ المتقین (پاکٹ) 80/- زینت جانماز 120/-
☆ ذکر العباس (نجم الحسن کراروی) 350/-	☆ برکات اسم اعظم (ڈاکٹر سخاوت سندرالوی) 450/-	☆ مجموعہ وظائف پاکٹ مع کور 170/- مخزن الوظائف 60/-
☆ تاریخ اسلام (شاہ احمد زین پوری) 650/-	☆ آفتاب جفر (ایم غلام عباس اعوان) 212/-	☆ ذریعۃ النجات (مجرب دعاؤں کا مجموعہ) 60/-
☆ قصص الانبیاء و آئمہ (عزادار نقوی) 350/-	☆ شمس المعارف 680/- جواہر خمسہ 360/-	☆ زیارت چہاردہ معصومینؑ پاکٹ 120/- وظائف نادعلی 30/-
☆ سیرت چہاردہ معصومینؑ (مولانا محمد علی فاضل) 900/-	☆ توضیح المسائل (آقائے سیستانی) 350/-	☆ اسرار نادعلی (عبدالعلی ہروی) 45/- ☆ دعائے عرفہ 85/-
☆ تاریخ اسلام (نجم الحسن کراروی) 600/-	☆ توضیح المسائل (آقائے خامنہ ای) اعلیٰ کاغذ 400/-	☆ دعائے کمیل پاکٹ 30/- جوشن کبیر 90/-
☆ تہذیب زندگی (از مولانا شہنشاہ نقوی) 350/-	☆ توضیح المسائل (آقائے خمینیؒ) 500/-	☆ کمیل، کساء، توسل (آرٹ پیپر) I.P 120/-
☆ **خطبات ۔ احادیث**	☆ توضیح المسائل (آقائے حافظ بشیر مجتہد) 300/-	☆ دعائے کمیل (آرٹ پیپر) 65/- استخارہ سجادیہ 60/-
☆ نہج الفصاحت (خطبات رسول اکرمؐ) 1400/-	☆ مجربات عابد (عابد عسکری) 350/-	☆ زیارت ناحیہ (آرٹ پیپر) I.P 70/- وسیلۃ النجات 45/-
☆ نہج البلاغہ (مفتی جعفر حسین) اعلیٰ کاغذ 1000/-	☆ لعالی مخزونہ 150/- خزینہ عملیات 120/-	☆ دعائے ندبہ (آرٹ پیپر) I.P 100/- زیارت آل یسین 50/-
☆ نہج البلاغہ (ذیشان حیدر جوادی) 750/-	☆ قرآنی عملیات (۲ جلدیں) محمد تقی اصفہانی 450/-	☆ منتخب دعائیں امام زین العابدینؑ (آرٹ پیپر) 90/-
☆ نہج البلاغہ (انگریزی) 600/-	☆ روح العملیات (گلفام علی حسینی) 450/-	☆ دعائے نور پاکٹ مع نادعلی صغیر کبیر (آرٹ پیپر) 50/-
☆ نہج البلاغہ (مفتی جعفر حسین) 600/-, 800/-	☆ شمع شبستان رضا مکمل 7 جلدیں 550/-	☆ مصباح المومنین (مولانا محمد علی فاضل) 475/-
☆ **صحاح ستہ (احادیث)**	☆ ذخیرہ عملیات ترجمہ جامع الدعوات 275/-	☆ وظائف الصالحین (۲ جلدیں) 150/-
☆ صحیح البخاری 2500/-، صحیح مسلم 2600/-	☆ مخزن عملیات ترجمہ مجمع الدعوات 300/-	☆ دعائے کمیل، حدیث کساء، توسل زیارت وارثہ یکجا 90/-
☆ جامع ترمذی 1650/-، سنن ابوداؤد 1900/-	☆ تحفہ مشکل کشاؑ (حل المشکلات حاجت روا) 500/-	☆ مشکل کشا 60/- پاکٹ (آرٹ پیپر) 100/-
☆ سنن ابن ماجہ 1900/-، سنن نسائی 1800/-	☆ **دعاؤں کے مجموعے**	**تصانیف علامہ حسن عسکری نقوی (ایران)**
☆ مشکوٰۃ شریف 1600/-، موطا امام مالک 600/-	☆ مفاتیح الجنان مع ترجمہ (حافظ ریاض نجفی) 500/-	☆ امواج البکا 265/- ☆ مجالس حسینیہ 250/-
☆ **احادیث**	☆ وظائف الابرار عام 250/-، 500/- خاص 800/-	☆ ہادی اور ہدایت 150/- ☆ صراط مستقیم 135/-
☆ مسائل الشریعہ ترجمہ وسائل الشیعہ 20 جلدیں (ترجمہ)	☆ صحیفہ کاملہ (امام زین العابدینؑ) 400/- صحیفہ امام حسنؑ 400/-	☆ شیطان کی پہچان 250/- ☆ امام مقدس امیر المومنینؑ 400/-
☆ مولانا محمد حسین فاضل فی جلد 350/-	☆ صحیفہ امام حسینؑ 400/- صحیفہ امام رضاؑ 400/-	☆ **تصانیف علامہ شیخ صدوقؒ**
☆ تحفۃ الابرار ترجمہ جامع الاخبار مولانا ظفر حسن امروہوی 300/-	☆ صحیفہ زہراؑ 400/- صحیفہ مہدیؑ 400/-	☆ التوحید 500/- ☆ فضائل الشیعہ 100/-
☆ تہذیب الاسلام ترجمہ حلیۃ المتقین (علامہ مجلسی) اعلیٰ کاغذ 750/-	☆ صحیفہ علویہ (حضرت علی علیہ السلام) 450/-	☆ من لا یحضرہ الفقیہ 4 حصے 1200/- کمال الدین 500/-
☆ چہل حدیث (آیۃ اللہ خمینیؒ) 600/-	☆ آئینہ حقوق (ترجمہ حقوق امام زین العابدینؑ) 550/-	☆ معانی الاخبار 500/- ☆ مقتل صدوق 325/-
☆ عروج السعادہ (ترجمہ) معراج السعادہ 600/-	☆ تقویم الاعمال پاکٹ آرٹ پیپر 250/- عام 200/-	☆ خصال 500/- ☆ ثواب الاعمال 450/-
☆ **فقہ وظائف عملیات**	☆ سفینۃ النجات پاکٹ آرٹ پیپر 140/-	☆ امالی شیخ صدوق 2 جلدیں 1000/-
☆ تحفہ نماز جعفریہ (ترجمہ مولانا [illegible]) 300/-	☆ زاد آخرت (آرٹ پیپر) 200/- تحفۃ الدین 170/-	☆ فلسفہ غیبت مہدیؑ 250/- امامت وولایت 200/-
☆ تعقیبات نماز پاکٹ مع حدیث کساء دعائے توسل مع ترجمہ	☆ تسکین روح عام 175/- آرٹ پیپر 300/-	☆ محب اہلبیت کون؟ 100/- ☆ علل الشرائع 800/-
آرٹ پیپر (رنگین طباعت) (مع پلاسٹک کور) 135/-	☆ گوہر یگانہ (امام مہدی کی دعائیں) 450/- آرٹ پیپر 550/-	☆ عیون اخبار رضا (2 جلدیں سیٹ) 1500/-

آیت اللہ خمینی کی تصانیف

☆ انسان کی شناخت 800/- تعلیم و تربیت 700/-
☆ شرح حدیث جنود عقل و جہل 1000/-
☆ امامت اور انسان کامل خمینیؒ کی نظر میں 550/-
☆ عدل الٰہی 300/- آداب الصلوۃ 600/-

کتب مصائب مقتل

☆ مقتل ابی مخنف 550/- مقتل لہوف 200/-
☆ خلاصۃ المصائب 450/- تاریخ حسینی 90/-
☆ غم نامہ کربلا 200/- مقتل صدوقؒ 325/-
☆ مقتل مفید 250/- مقتل مقرم 565/-
☆ مقتل مجلسی (2 جلدیں) 800/-
☆ مقتل دربندی 325/- بحر المصائب 325/-
☆ مقتل آل ابوطالب ترجمہ مقاتل الطالبین 550/-
☆ سوگنامہ آل محمدؐ (2 جلدیں) 1000/-
☆ مدینہ سے شام تک (3 جلدیں) 1100/-
☆ مصائب آل محمدؐ 550/- کربلا بعد کربلا 200/-
☆ امالی شیخ مفید 450/- امالی طوسی (2 جلدیں) 700/-

تصانیف ڈاکٹر علی شریعتی

☆ فاطمہ فاطمہ ہے 300/- مسلمان عورت 60/-
☆ انسان، اسلام اور مغربی مکاتب فکر 100/-
☆ ہنر نجات دہندہ 45/- ہاں دوست ایسا ہی تھا 30/-
☆ مستقبل کی تاریخ 30/- تشیع 500/-
☆ امام سجادؑ کی درسگاہ دعا 200/-
☆ امت و امامت 200/- حسینؑ وارث آدمؑ 120/-
☆ ادیان کی پرکھ 300/- علی شریعتی قید حیات 500/-
☆ کھویا ہوا آدمی 450/- علی ایک دیومالائی سچ 250/-
☆ معیاد با ابراہیم (2 جلدیں) 1000/-
☆ شہسوار عرب کی تیغ لا 300/-

تصانیف علامہ تطہیر زیدی

☆ راہ ہدایت 500/- اوصاف الٰہی 200/-
☆ گلدستہ اخلاق 225/- ارکان انسانیت 200/-
☆ ارکان ضد انسانیت 175/- تعلیم الاخلاق 600/-

محسن نقوی شہید کا کلام

☆ موج ادراک 450/- فرات فکر 500/-
☆ میراث محسن 1200/- حق ایلیا 500/-

کتب حج و زیارات

☆ مناسک حج ([illegible]) 120/- زاد سفر 260/-
☆ صحیفہ حج پاکٹ 120/- ☆ عمرہ مفردہ 75/-
☆ رہبر حج و زائرین 480/- عرفان حج 212/-
☆ ہدیۃ الزائرین 300/- رہنمائے زائرین 480/-
☆ رہنمائے زائر (علی محمد علی دخیل) 500/-
☆ اسرار حج (ترجمہ علامہ جواد نقوی) 500/-
☆ کامل الزیارات (عراق، ایران، شام کی زیارات) 150/-
☆ اللہ کا مہمان 200/- ☆ آل محمدؐ کا مہمان 200/-
☆ مناسک حج (آیت اللہ سیستانی) 200/- منہاج الزائرین 120/-
☆ آئینہ زیارات (مولانا محمد نواز کربلائی) 60/-

مطبوعات پیغام وحدت اسلامی کراچی

☆ گھر کو جنت بنانے کے چودہ نسخے 90/-
☆ اجتہاد و تقلید پر اعتراضات کا تجزیہ 120/-
☆ وصیت نامہ کیسے لکھا جائے 120/-
☆ طول عمر اور وسعت رزق کے سو مجرب نسخے 100/-
☆ کردار سازی اول 60/- ☆ کردار سازی دوئم 60/-
☆ معرفت امام زمانہ 45/- ☆ آئینہ 60/-
☆ بچی اللہ کی رحمت 50/- ☆ ثواب وضو 45/-
☆ امراض روحانی 45/- ☆ دوستی 75/-
☆ دنیا و آخرت کی 100 پریشانیوں کا حل 140/-
بعد میرے مرنے کے کام یہ ہیں کرنے کے 60/-
☆ محبت دین ہے دین محبت ہے 75/- مرض تکبر 80/-
☆ تربیت اولاد کے سنہری اصول 140/- صدقہ 90/-
☆ ترک گناہ کے چالیس طریقے 100/- سامان سفر آخرت 50/-
☆ حرام نگاہ (بدنظری کے نقصانات) 75/-
☆ مرض حب دنیا (علامات اور علاج) 75/-

مطبوعات الحسن بک ڈپو (کراچی)

☆ شمشیر غم مرثیے اول 350/- دوم 400/-
☆ سچی کہانیاں (مرتضیٰ مطہری) 2 جلدیں 270/-
☆ تحفہ مرحومین 210/- اعمال سورہ الانعام 140/-
☆ طب اسلامی اور جدید میڈیکل سائنس 250/-
☆ بیاض تسکین صدائے زہراؑ 110/-
☆ نعیم الاعمال (دعائیں) پاکٹ 250/-
☆ مجموعہ قصائد (عقیدت کے پھول) 250/-

جامع تعلیمات اسلامی کی مطبوعات

☆ مصباح المومنین 475/- ☆ کتب رسولؐ 300/-
☆ اسلام و دین معاشرت 250/- ☆ کتب اسلام 200/-
☆ مختار عاشورہ 120/- ☆ اسلام و دین حکمت 600/-
☆ اسلام و دین معرفت 300/- ☆ حکایات القرآن 300/-
☆ فلسفہ معجزہ 100/- ☆ فلسفہ حجاب 200/-
☆ فلسفہ ولایت 150/- ☆ فلسفہ احکام 200/-
☆ تاریخ عاشورہ 200/- ☆ بنائے کربلا 200/-
☆ انسان کامل 350/- ☆ مقتل مطہر 350/-
☆ بہلول دانا 75/- ☆ حیات پنجتن 500/-
☆ اسلامی قانون سزا 200/- ☆ اسلامی داستانیں 350/-
☆ خمس 400/- ☆ ابوطالب مظلوم تاریخ 150/-
☆ تاریخ فقہ جعفری 300/- ☆ کتب تشیع 150/-
☆ اسلامی عقائد (علامہ مرتضیٰ عسکری) 300/-
☆ سیرت مصطفیٰ (ہاشم معروف حسنی) 600/-
☆ سیرت آئمہ اہلبیت (ہاشم معروف حسنی) 2 جلدیں 1200/-
☆ اخلاقی و روحانی نشوونما (سید مجتبیٰ موسوی) 200/-
☆ تفسیر سورہ حجرات (آیت اللہ دستغیب) 350/-
☆ محرمات اسلام (حجت الاسلام محمد حسینی بہارانچی) 400/-
☆ تصوف و تشیع کا فرق (ہاشم معروف حسنی) 600/-
☆ سیر و سلوک (شہید مرتضیٰ مطہری، طباطبائی) 160/-
☆ علوم القرآن (حجت الاسلام سید ریاض الحکیم) 350/-
☆ علوم حدیث کا تعارف (حجت الاسلام علی نصیری) 300/-
☆ اسلام اور اخلاق 200/- ☆ حیات انسان کے 6 مرحلے 200/-
☆ اسلامی اخلاق 350/- ☆ دین و زندگی 250/-
☆ تفسیر نور (نساء، فرقان، حجرات) محسن قرائتی 400/-
☆ تفسیر نور (مائدہ، توبہ، اسراء، دہر) محسن قرائتی 400/-
☆ قرآن کتاب جاوداں (حجۃ الاسلام محمد علی ایازی) 300/-
☆ قرآن اور معاصر تفسیر (حجۃ الاسلام محمد علی ایازی) 225/-
☆ مناسبات قرآن (حجۃ الاسلام محمد علی ایازی) 400/-
☆ علی اسوۂ وحدت (علامہ جواد شری) 800/-
☆ تعلیم القرآن 150/- تجوید القرآن 150/-
☆ حکایات و روایات 300/- اسلامی مذاہب 250/-
☆ علی مظہر کبریا 400/- عوامل و شرح عوامل 150/-
☆ پاسداران انقلاب (علامہ محمد حسین طباطبائی) 250/-

کاغذ کی گرانی کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ آڈر کے وقت جو کتاب کی قیمت ہوگی وہ چارج ہوگی

☆ علامہ ضمیر اختر نقوی کی تصانیف

☆ عظمت ابوطالبؑ 250/- ☆ تاریخ شیعت 200/-
☆ اسلام پر حضرت علیؑ کے احسانات 250/-
☆ علم زندگی ہے 300/- ☆ شہزادہ علی اصغرؑ 800/-
☆ فہرست مخطوطات کانگریس لائبریری امریکہ 400/-
☆ زیارت ناحیہ مقدسہ 150/-
☆ حضرت عقیلؑ 300/- ☆ اصحاب امیر المومنینؑ 800/-
☆ حضرت میثم تمار 400/-
☆ حیات امام حسینؑ 300/-
☆ دو ہزار صدی کی کہانی 300/-
☆ معصومینؑ کا علم لسانیات 300/-
☆ سیرت معصومینؑ 300/- ☆ اوج ضمیر 300/-
☆ ذوالجناح (انگریزی) 250/-
☆ میر انیس کی شاعری میں رنگوں کا استعمال 300/-
☆ اردو غزل اور کربلا 200/- ☆ ضمیر حیات 1000/-
☆ انیس خطابت 300/- ☆ حضرت حنفیہ 800/-
☆ اصحاب حسینؑ 800/- ☆ تحیہ سادات 300/-
☆ معجزہ اور قرآن 300/- ☆ عظمت صحابہ 200/-
☆ امام اور امامت 200/- ☆ ولایت علیؑ 300/-
☆ حضرت علیؑ میدان جنگ میں 300/-
☆ احسان اور ایمان 200/- ☆ حضرت جعفر طیارؑ 300/-
☆ سیرۃ فاطمۃ الزہراؑ (رنگین) 700/-
☆ شہزادہ قاسمؑ کی مہندی 500/- ☆ حضرت ام البنینؑ 400/-
☆ عظمت امام جعفر صادقؑ 200/- ☆ تاریخ شیعت 200/-
☆ عظمت حضرت زینبؑ 200/- ☆ امام اور امامت (Eng) 200/-
☆ غم امام حسینؑ اور عزاداروں کی شفاعت 200/-
☆ امام حسن علیہ السلام کی فتح 200/-
☆ ذوالجناح 600/- ☆ ظہور امام مہدیؑ 200/-
☆ شہید علمائے حق (حالات زندگی) 200/-
☆ شعرائے اردو اور عشق علیؑ 500/-
☆ معصوموں کا ستارہ شہزادہ علی اصغرؑ 300/-
☆ نوادرات مرثیہ نگاری (2 جلد) 600/-
☆ میر انیس بحیثیت ماہر حیوانات 400/-
☆ شہزادہ قاسمؑ اول 500/- ☆ دوئم 500/-
☆ حضرت شہر بانوؑ 400/- ☆ ذوالفقار 300/-

☆ میر انیس (انگریزی) 500/-
☆ دس دن اور دس راتیں 300/-
☆ حضرت علی اکبرؑ (رنگین آرٹ پیپر) 2000/-
☆ حسینی معاشرہ اور تاریخ انبیاء 300/-
☆ حضرت خدیجۃ الکبریٰؑ 600/-
☆ فدک قانون کی روشنی میں 300/-
☆ حیات حضرت عباسؑ 300/- ☆ محسنین اسلام 300/-
☆ شہزادی زینب کبریٰؑ اور تاریخ شام 200/-
☆ اقوام عالم اور عزاداری حسینؑ 300/-
☆ معراج خطابت 5 حصے 1500/-
☆ قاتلان حسینؑ کا انجام 250/- بت شکن اور بت تراش 300/-
☆ حضرت ام کلثومؑ 600/- ☆ کواکب دریہ 200/-
☆ مجالس محسنہ اول 200/- ☆ دوم 200/-
☆ قرآن کی قسمیں 250/- ☆ دبستان تاریخ 700/-
☆ احساس (علمی، ادبی مضامین) 300/-
☆ اردو مرثیہ پاکستان میں 500/-
☆ خاندان میر انیس کے نامور شعرا 500/-
☆ شاعر اعظم میر انیس 500/- ☆ علیؑ وسیلہ نجات 300/-
☆ معرفت الٰہی اور سیرت معصومینؑ 300/-
☆ علیؑ وارث انبیاء 300/- ☆ انسان اور حیوان 300/-
☆ عورت اور اسلام 300/- ☆ کلام ضمیر 300/-

تصانیف علامہ سید ارتضیٰ عباس نقوی

☆ عونؑ و محمدؑ 400/- ☆ زندگانی شہزادی ام کلثومؑ 400/-
☆ زندگانی سید سجادؑ 1000/- ☆ تاریخ مشہد مقدس 500/-
☆ تاریخ نجف اشرف 550/- ☆ تاریخ کاظمین 250/-
☆ تاریخ کربلا معلیٰ 1000/- ☆ شہزادہ عبدالعظیم 300/-
☆ تلامذۂ انیس و مونس 1000/- ☆ تاریخ ذوالفقار 500/-

☆ تصانیف ابراہیم امینی

☆ آئین تربیت 300/- ☆ خود سازی 300/-
☆ اسلام کی مثالی خاتون 300/-
☆ خاندان کا اخلاق 300/-

علامہ صائم چشتی (اہلسنت کی تصانیف)

☆ ایمان ابوطالبؑ 900/- روضۃ الشہدا 600/-
☆ مشکل کشاء 900/- العجول 380/-
☆ شہید ابن شہید (مکمل) 800/-

محمد علی بک ڈپو کراچی

☆ گھر ایک جنت 500/- ☆ معراج 350/-
☆ جواب حاضر ہے 350/- ☆ مہدی برحق 350/-
☆ بیت الاحزان 350/- ☆ 101 دلچسپ مکالمے 350/-
☆ ظہور امامؑ کی قریب ترین نشانیاں 250/-
☆ کشکول دعقیب اول 250/- ☆ دوم 350/-
☆ درس اخلاق 250/- ☆ مثالی ماں 60/-
☆ ہدیۃ الشیعہ 600/- ☆ تحفۃ المومنین 90/-
☆ انسان ساز واقعات اول 250/-
☆ انسان ساز واقعات دوم 180/- سوئم 180/-
☆ کیفر گناہان کبیرہ اول 150/- ☆ دوم 225/-
☆ قلب سلیم (2 جلدیں) 1200/-
☆ گناہان کبیرہ (2 جلدیں) 1200/-
☆ رہنمائے حقیقت (آیت اللہ جعفر سبحانی) ۲ جلدیں 1000/-
☆ دولہا دلہن ازدواجی مسائل 500/-
☆ بہلول ثانی اور جابر حکمران 350/-
☆ ریاض علی صفدر 2 جلدیں فی جلد 250/-
☆ سبق آموز واقعات 2 جلدیں 450/-
☆ آخرت ساز واقعات 250/-
☆ توبہ اور تاریخی واقعات 250/-
☆ تحفۃ الصائمین 450/- کیا میں اچھا استاد ہوں 100/-
☆ خصائص القرآن (36 سورے) 300/-
☆ باپ کی بیٹے کو نصیحت 250/-
☆ اعمال ماہ رمضان (علامہ ذیشان جوادی) 500/-
☆ اعمال رجب، شعبان، رمضان 180/-
☆ مرنے سے پہلے مرنے کے بعد 120/-
☆ کشکول زیدی (اول، دوئم سوئم) فی جلد 250/-
☆ عبرت انگیز واقعات 350/-
☆ کیا آپ جانتے ہیں 250/-
☆ وظائف اسمائے الحسنیٰ 150/-
☆ تحفہ نجات (گولڈن جلد) 450/-
☆ تحفہ راہ آخرت (اعمال مغفرت مرحومین) 300/-
☆ شرح حدیث کسا (علی افضل قمی) 250/-
☆ زیارت چہاردہ معصومین علیہم السلام 120/-
☆ حضرت فاطمۃ الزہراؑ کے 9 آسمانی نام 250/-

ولی العصر ٹرسٹ کی مطبوعات

☆ ملاقات با امام زمانؑ 2 جلدیں 600/-
☆ زندگانی حضرت فاطمہؑ (آیت اللہ دستغیب) 360/-
☆ زندگانی حضرت زینبؑ (آیت اللہ دستغیب) 150/-
☆ انوار زہرا (آقائے حسن ابطحی) 300/-
☆ علی کی بیٹی مظلومہ کربلا ثانی تاریخ زینب کبریٰ 450/-
☆ علی فی القرآن (آقائے صادق شیرازی) 350/-
☆ عالم عجیب ارواح (آقائے حسن ابطحی) 300/-
☆ جزیرہ خضرا (حالات مثلث برمودہ) 300/-
☆ مہدی فی القرآن (آقائے صادق شیرازی) 225/-
☆ مفتاح الجنہ (4 کے عدد پر مجالس) 300/-
☆ انوار خمسہ (5 کے عدد پر مجالس) 500/-
☆ الدمعۃ الساکبہ 3 جلدیں 1800/-
☆ معالی السبطین 2 جلدیں 1050/-
☆ ریاض القدس 2 جلدیں 1350/-
☆ پرواز روح (آقائے حسن ابطحی) 225/-
☆ ریاض الاحزان (آقائے حسن قزوینی) 400/-
☆ امامت (آیت اللہ دستغیب) 120/-
☆ سید الشہدا (آیت اللہ دستغیب) 225/-
☆ مصلح غیبی (آقائے حسن ابطحی) 225/-
☆ نفس المہموم (مصائب) 600/-
☆ قلب قرآن (آیت اللہ دستغیب) 225/-
☆ مہدی موعود امام زمانہؑ (آیت اللہ دستغیب) 120/-

تقاریر علامہ عقیل الغروی

☆ ولایت حق اور امام حسینؑ 150/- دعا 150/-
☆ حسن اختیار 150/- فلسفہ معراج 150/-
☆ ولایت عظمیٰ 200/- علم و ارادہ 200/-
☆ مجالس الغروی 150/- آئینہ قضا و قدر 200/-
☆ مقام ختم نبوت اور انسان 150/-

تقاریر علامہ مرزا محمد اطہر (لکھنوی)

آل رسول اور انقلاب کربلا 250/- تاریخ اسلام 150/-
☆ اسلام کے دشمن کون 300/- غدیر سے کربلا تک 150/-
☆ حق کو نہ چھپاؤ 225/- شان پنجتنؑ 200/-
☆ کائنات کے وارث 185/-
☆ حسینؑ شہید انسانیت 250/-

تصانیف آیت اللہ آقائے محمد تقی بہجت

☆ گوہر حکیمانہ 300/- ☆ نصیحتیں 300/-
☆ در محضر بہجت 3 حصے فی جلد 300/-
☆ آئینہ حقیقت 300/- ☆ لذت ملاقات 90/-
☆ عرفان بہجت 300/- ☆ پردہ نشین 200/-
☆ رحمت واسعہ 300/- ☆ نفس مطمئنہ 300/-
☆ معاد اور قیامت 200/- ☆ ملفوظات بہجت 350/-
☆ موت کی خوبصورتی عرفا کے کلام میں 225/-
☆ آیت اللہ بہجت سے منقول نایاب نکات 225/-

تصانیف آیت اللہ دستغیب

☆ زندگانی حضرت فاطمہؑ 360/-
☆ زندگانی حضرت زینبؑ 150/-
☆ گناہان کبیرہ 2 جلدیں 1200/-
☆ کشکول اول دوم 600/-
☆ سید الشہدا 225/- قلب قرآن 250/-
☆ بہشت 550/- ولایت 400/-
☆ امامت 150/- معراج 350/-
☆ گھر ایک جنت 500/- جواب حاضر ہے 350/-
☆ مہدی موعود 120/- ☆ معاد 180/-
☆ توحید 225/- ☆ درس اخلاق 225/-
☆ قلب سلیم 2 جلدیں 1200/-

مطبوعات ثاقب پبلی کیشنز لاہور

☆ شرائع الاسلام ترجمہ جامع الجعفری 1000/-
☆ ثمرات الحیات 2 جلدیں 1000/-
☆ عروج السعادۃ ترجمہ معراج السعادۃ 700/-
☆ ارجح المطالب سیرت مولائے کائنات 700/-
☆ الخصال (انگلش) 1000/-
☆ الارشاد (انگلش) 600/-
☆ نہج الفصاحت (انگلش) 500/-
☆ تاریخ اسلام (انگلش) 500/-
☆ منتخب مفاتیح (انگلش) 550/-
☆ مجرب تعویذات و عملیات 250/-
☆ تمام مشکلات کا حل قرآن سے 250/-
☆ غرر الحکم (اقوال مولا علیؑ) 1000/-
☆ Essense of Shia faith 700/-

ادارہ منہاج الصالحین لاہور

☆ انسائیکلو پیڈیا امام حسینؑ اول دوم سوم 2000/-
☆ قصص الانبیاء (تاریخ اسلام) 650/-
امام حسینؑ عیسائی محقق کی نظر میں 500/-
☆ مناقب اہلبیتؑ 4 جلدیں 1600/-
☆ معجزات آل محمدؐ (مدینۃ المعاجز) 4 جلدیں 1800/-
☆ شمیم ولایت (جواد آملی) 700/-
☆ فضائل اہلبیت ترجمہ غایۃ المرام 3 جلدیں 1200/-
☆ اقوال علیؑ 2 جلدیں 700/-
☆ مدینہ سے شام تک (رمز المصیبہ) 3 جلدیں 1100/-
☆ عرفان ابوطالب (آقائے مظہر عباس) 500/-
☆ سلونی قبل ان تفقدونی 2 جلدیں 900/-
☆ مولائے کائنات کے فیصلے ([illegible]) 400/-
☆ انسائیکلو پیڈیا امام علیؑ (جلد اول) 600/-
☆ اسلام اور کائنات (مرتضیٰ مطہری) 450/-
☆ انسائیکلو پیڈیا امام حسینؑ اول (9 جلدیں) فی جلد 600/-
☆ سادات کا شجرہ طیبہ (مفتی نزاکت حسین) 600/-
☆ اصحاب مہدیؑ (ہاشم بحرانی) 250/-
☆ بیان المصائب (علامہ صادق حسن) 300/-
☆ نامہ امام علیؑ بنام مالک اشتر 365/-

☆ تصانیف آیت اللہ کاظم قزوینی

☆ امام علیؑ ولادت تا شہادت 500/-
☆ حضرت فاطمہؑ ولادت تا شہادت 600/-
☆ امام جعفر صادقؑ ولادت تا شہادت 825/-
☆ امام مہدیؑ ولادت تا ظہور 400/-

تقاریر علامہ حسن ظفر نقوی

☆ ظلم معصومؑ 200/- امامت و ملوکیت 200/-
☆ امیر مختار 200/- امیر مختار (انگریزی) 200/-
☆ امامت و ملوکیت (انگریزی) 300/- غزوات رسول 300/-
☆ سیرت امام زین العابدینؑ 200/-
☆ تاریخ کعبہ 250/- تاریخ کعبہ (انگریزی) 250/-
☆ حکمرانوں کی صفات 200/- کربلا بعد کربلا 200/-

مفاتیح الجنان مترجم (اصلی)

☆ ترجمہ علامہ حافظ ریاض حسین نجفی (العمران)
☆ ہدیہ 500/- گولڈن، 900/-، 1400/-

کاغذ کی گرانی کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ آڈر کے وقت جو کتاب کی قیمت ہو گی وہ چارج ہو گی

☆ کتب حدیث خوانی (مجالس)	☆ سوز خوانی ۔ مرثیے	بچوں کے لیے بہترین دلکش رنگین کتب مطبوعہ ادارہ علم و عمل کراچی
☆ ذخیرۃ المجالس (علما کرام کی تقاریر) 4 جلدیں 700/-	☆ بستہ (سیاہ علم) عام کاغذ 550/- آرٹ پیپر 750/-	
☆ روایات عزا 2 جلدیں 1200/-	☆ عرفان غم 300/- ☆ خون جگر 45/-	☆ امام حسینؑ (ورک بک رنگین) 60/-
☆ مصائب کربلا تالیف علامہ عابد عسکری 500/-	☆ شمشیر غم اول دوئم 750/-	☆ امام رضاؑ (ورک بک رنگین) 60/-
☆ مراسم عزاداری (مولانا اسمٰعیل دیوبندی) 500/-	☆ تنویر غم اول 250/- ☆ دوئم 300/-	☆ درس نور (ورک بک) 120/-
☆ مجالس خواتین (از مولانا ظفر امروہوی) 250/-	☆ نوائے غم (قیصر حسین قیصر شہیدی) 250/-	☆ Children Guide to Islam 150/-
☆ نعیم الابرار (تقاریر مولانا غلام حسین ساہیوال) 2 جلدیں فی جلد 750/-	☆ جوش کے مرثیے 200/- ☆ چشمہ غم 250/-	☆ نماز انگلش Salat 200/-
☆ مجموعہ مجالس (تقاریر مولانا سید محمد جعفر شہید) 3 جلدیں 900/-	☆ اشک غم 120/- ☆ نوائے کربلا 250/-	☆ علی سے سیکھو 75/- ☆ شہر حروف 90/-
☆ کفایت الواعظین (تقاریر علامہ حافظ کفایت حسین) 400/-	☆ بیاض علی صفدر (2 جلدیں) فی جلد 180/-	☆ قصوں کی دنیا (سیٹ) 480/-
☆ بصیرت افروز مجالس (مولانا ابن حسن جارچوی) 120/-	☆ جواہر انیس 600/- جواہر دبیر 600/-	☆ آؤ تجوید سیکھیں 2 حصے 240/-
☆ گوہر غم (مجالس ذاکرہ غدیر فاطمہ مرحومہ) 225/-	☆ ایک آنسو میں کربلا اول 250/- دوئم 300/- سوئم 300/-	☆ کربلا ورک بک اول/دوئم 160/-
☆ اسلام اور عزاداری (مجالس علامہ طاہر جرولی) 120/-	☆ سوز غم 200/- انیس کے مرثیے 85/-	☆ بہار قرآن اول/دوئم 200/-
☆ مصباح المجالس (از مولانا ظفر امروہوی) 5 جلدیں 1360/-	☆ محشر خاموش (افسر عباس زیدی کا مجموعہ کلام) 200/-	☆ آؤ قرآن پڑھیں 2 حصے 250/-
☆ توضیح عزا 500/- ☆ خطبات شیخ الجامعہ 265/-	☆ نسیم امروہوی کے مرثیے (مرتبہ ہلال نقوی) 800/-	☆ دینیات سیٹ 2 حصے (رنگین) 280/-
☆ گلزار خطابت (علامہ حسین بخش جاڑا) 265/-	☆ جوش کے انقلابی مرثیے 750/-	☆ الہدیٰ ورک بک (رنگین) 60/-
☆ مصائب نامہ 300/- معراج خطابت 700/-	☆ بیاض تسکین زینبؑ اول 85/- ☆ دوئم 60/-	☆ روشن ستارہ رنگین (فی حصہ) 120/-
☆ مدینہ سے مدینہ تک (سید محمد جواد ذہنی) 600/-	☆ بیاض نجم آفندی 60/- ☆ غم (ریحان اعظمی) 125/-	☆ جلوہ نور (سیٹ) 440/-
☆ نسیم المجالس (علامہ نسیم عباس) 2 جلدیں 400/-	☆ رثائی ادب 1500/- ☆ ہلال نقوی کے مرثیے 200/-	☆ رنگ بھریے وضو اور نماز 75/-
☆ خطبات نسیم (علامہ نسیم عباس) 250/-	☆ سامان شفاعت 150/- ☆ غم جاوداں 200/-	☆ دینیات تعلیمات اسلامی (سیٹ) 425/-
☆ اولی الامر کون؟ (علامہ نسیم عباس) 275/-	☆ شمشیر غم اول 350/- ☆ جلد دوم 400/-	☆ اقوال آئمہؑ 30/- ☆ سیرۃ القرآن 30/-
☆ ریاض الاحزان (شام غریباں سے واپسی مدینہ) 450/-	☆ ردا کے سائے میں (علی رضا کاظمی) 200/-	☆ مقدس کہانیاں 30/- ☆ اسلامی کہانیاں 30/-
☆ پیام کربلا 150/- ☆ انتقام مختار 225/-	☆ فاتح فرات 150/- ☆ ماں (مرثیے) 150/-	☆ قرآنی کہانیاں (سیٹ) 11 کتب
☆ ریاض المجالس 185/- ☆ انوار خمسہ 500/-	☆ نجات کی جب سبیل کرنا (نجم حسنی) 300/-	☆ معرفت امام زمانہؑ (سوال جواب) 50/-
☆ خطبات مبلغ اعظم 165/- ☆ منبر (کلب صادق) 135/-	☆ ریزہ نجف (اسد رضوی کا کلام) 180/-	☆ راہ سعادت قاعدہ (2 حصے) 310/-
☆ اسلام اور مذہب اہلبیت (ڈاکٹر کلب صادق) 135/-	☆ ارمغان نسیم (مرثیے) 650/-	☆ راہ سعادت دینیات (5 حصے) 1050/-
☆ امواج البکا (علامہ حسن عسکری ایران) 265/-	☆ حروف ناطق (شاعر آل عمران) 150/-	☆ تعلیمات اسلامی دینیات (11 حصے) 1200/-
☆ خطیب آل محمدؐ (مولانا اظہر حسن زیدی) 550/-	☆ برگ نجف (رضا عباس رضا) 250/-	☆ آیئے قرآن سمجھیں (3 حصے) 650/-
☆ اسلام کے دو چہرے 150/- مجالس زیدی 250/-	☆ کرب کربلا (سید ماجد رضا عابدی) 350/-	☆ بچے رہنما (سیٹ) 14 کتب 400/-
☆ نہج البلاغہ تفسیر قرآن (علامہ شہنشاہ نقوی) 250/-	☆ خاندان میر انیس کے نامور شعراء 500/-	☆ عدالت علویہ 60/- ☆ بارہ امام 80/-
☆ مجالس ابوذر زمان (علامہ صفدر نجفی) 165/-	☆ میر انیس مکمل ۸ جلدیں 7000/-	☆ دینیات تعلیمات اہلبیت سیٹ 11 کتب 390/-
☆ مجالس سیدہ کائنات 200/- خطبات نسیم 185/-	اردو مرثیہ پاکستان میں 500/-	☆ بچوں کے لیے نہج البلاغہ 100/-
☆ خطبات محسن (محسن نقوی شہید) 2 جلدیں 500/-	☆ خاندان میر انیس کے نامور شعرا 500/-	☆ داستان کربلا 125/- دعا مانگو 75/-
☆ خطبات فاتح ٹیکسلا (علامہ بشیر انصاری) 200/-	☆ سوز کربلا 2 جلدیں 550/-	☆ بہتر تارے 60/- جوش عقیدت 30/-
☆ کائنات کے وارث (علامہ غضنفر طوسی) 200/-	☆ بزم رثا (بزم آفندی کے مرثیے) 500/-	☆ نبیوں کی کہانی فی جلد 25/-
☆ توضیح العزا (سید عباس ارشاد نقوی) 200/-	☆ مرثیے کی نایاب آوازیں (ہلال نقوی) 400/-	☆ دینیات اہلبیتؑ ورک بک 3 حصے 190/-

☆ تحفۃ العوام مقبول جدید مطابق فتاوی جدید 5/1 600/- ، 5/2 750/- ، گولڈن آرٹ پیپر	1050/-	☆ سپر مین ان اسلام امام جعفر صادقؑ	500/-	☆ آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری (مکمل سیٹ)	2980/-
		☆ اُف تک نہ کہو (مولانا فرمان علی نجفی)	300/-	☆ آیت اللہ باقر الصدر (مکمل سیٹ)	1800/-
☆ تحفۂ نماز جعفریہ (مولف مولانا زوار حسین ہمدانی)	300/-	☆ تذکرہ جنت و جہنم (سرا کبر)	300/-	☆ شانِ پنجتنؑ (مرزا محمد اطہر)	250/-
☆ تعقیبات نماز پنجگانہ مع مجرب دعائیں (مولف آغا [illegible] مرحوم) کارڈ جلد 75/- مجلد 135/- مجلد آرٹ پیپر	200/-	☆ بہار خطابت (علامہ عابد عسکری)	600/-	☆ اسرار ولایت (علامہ مشرف عباس)	300/-
		☆ تسبیح زہرا کی فضیلتیں (علی رضا تہرانی)	60/-	☆ مناقب خوارزمی (حسن رضا باقری)	400/-
☆ امام زین العابدینؑ کی منتخب دعائیں (آرٹ پیپر)	90/-	☆ حسینؑ ابن علیؑ (جسٹس افضل حیدر)	300/-	☆ علی کا راستہ (شیخ محمد علی توحیدی) 2 جلدیں	750/-
☆ سرا کبر (ڈاکٹر شفقت جعفری)	300/-	☆ سیرت محمدؐ (علامہ نصیر اجتہادی)	650/-	☆ حسینؑ شہید انسانیت (علامہ صادق حسن)	225/-
☆ شفاعت (قرآن و سنت کی روشنی میں)	120/-	☆ صحیفہ دعا ترجمہ عدۃ الداعی	300/-	☆ حسینؑ کے بعد (سہیل بخاری)	250/-
☆ وظائف مقبول نئی رنگین آرٹ پیپر	250/-	☆ مجموعہ دعا (مولانا حسین مہدی الحسینی)	250/-	☆ حکمرانوں کی صفات قرآن و حدیث کی روشنی میں	200/-
☆ قرآنی عملیات آقا محمد تقی اصفہانی ترجمہ عبدالواحد سیٹ	450/-	☆ طب آل محمدؐ اور امراض جسمانی 3 جلدیں	600/-	☆ عقلیات معاصر (علامہ طالب جوہری)	350/-
☆ کلید عملیات (مولوی برکت علی مرحوم)	225/-	☆ طب آل محمدؐ اور علم الساعت	200/-	☆ خلفائے اثناعشری (علامہ طالب جوہری)	250/-
☆ مجربات گوشہ نشین (مولوی برکت علی مرحوم)	60/-	☆ سیرت امام موسیٰ کاظمؑ (سید منظر حسن موسوی)	450/-	☆ حدیث کربلا (علامہ طالب جوہری)	750/-
☆ خزینہ عملیات (حکیم تجمل حسین مرحوم)	120/-	☆ فتح المطالب فی مناقب ابن ابی طالب ([illegible])	450/-	☆ کامل الزیارات (محدث ابن قولویہ)	350/-
☆ لئالی مخزونہ مع تکملہ اسرار مکنونہ	150/-	☆ غریب طوس (امام علی رضاؑ)	165/-	☆ اقبال بارگاہ عصمت و طہارت	500/-
☆ ذریعۃ النجات (بہترین دعاؤں کا مجموعہ)	60/-	☆ تاریخ بی بی پاکدامن (محمد بخش قریشی)	550/-	☆ مناقب علی فی ہدایت الکبری	500/-
☆ تعبیر الرویا (علامہ مجلسی)	150/-	☆ الشہباز (جلیل سبزوانی)	300/-	☆ امام مہدیؑ موجود موعود (جواد آملی)	300/-
☆ ملاقات امام عصرؑ (مولانا سید محمد مجتہد امروہوی)	360/-	☆ زاد راہ (محمد رضا مرچنٹ)		☆ امامانِ شیعہ (رسول جعفریان)	600/-
☆ ندائے عدالت انسانی (جارج جرداق)	450/-	☆ آخری کشتی نجات (آیت اللہ مہدی موسوی)	400/-	☆ مفاتیح الحیات (جواد آملی)	600/-
☆ تہذیب الاسلام (علامہ مجلسی) سادہ کاغذ 750/-	575/-	☆ ذخیرہ عملیات (ترجمہ جامع الدعوات کبیر)	275/-	☆ قصص الحیوان فی القرآن	300/-
☆ عدالت علویہ (حضرت علی کے فیصلے)	60/-	☆ مخزن عملیات (ترجمہ مجمع الدعوات)	300/-	☆ امام جعفر صادقؑ توحید مفضل	450/-
☆ اقوال آئمہ (مختصر سیرت معصومینؑ)	45/-	☆ نماز، زکوٰۃ، خمس (تطہیر زیدی)	200/-	☆ امام جعفر صادقؑ طبی نظریات امراض علاج	200/-
☆ نماز جعفریہ باتصویر (مولانا منظور حسین نقوی)	50/-	☆ منیۃ المرید (الشہید ثانی)	200/-	☆ امام جعفر صادق اسلامی معاشرہ و فلسفہ ازدواج	300/-
☆ زینت العابدین (مسنون نمازیں)	90/-	☆ تحفہ قلندری 2 جلدیں (خزینہ عملیات)	825/-	☆ 50 موضوع سو واقعات	350/-
☆ ذخیرہ مناقب جدید (مجموعہ مناجات)	120/-	☆ تحفہ مشکل کشاء (حاجت روا)	450/-	☆ دار السلام (آغا شیخ محمود)	600/-
☆ مجموعہ مجالس (تقاریر مولانا محمد جعفر شہید) 3 جلدیں	900/-	☆ حضرت علیؑ کی جنگیں (مہدی شمس الدین)	120/-	☆ فضائل مصطفیٰؐ (سید علی شبر نقوی)	550/-
☆ آفتاب جعفر مکمل (ایم غلام عباس اعوان)	212/-	☆ منازل آخرہ (شیخ عباس قمی)	225/-	☆ الامام الحسینیہ (شیخ جعفر شوستری)	230/-
☆ حروف و اعداد کی مخفی قوت (ڈاکٹر شفقت جعفری)	120/-	☆ نماز پیغمبرؐ (حسین الامینی)	265/-	☆ مختصر شرح زیارت جامع کبیرہ	265/-
☆ تاریخ حسینی (اردو ترجمہ مقتل لہوف)	90/-	☆ العباسؑ (علامہ عبدالرزاق موسوی)	300/-	☆ عجائبات فاطمیؑ (سید محمد یزدی)	320/-
☆ یادگار مجالس (تقاریر مولانا محمد حسنین زیدی)	120/-	☆ الدر الثمین (حضرت علیؑ کی شان میں آیات)	500/-	☆ اسرار زیارت الاربعین	250/-
☆ نماز جعفریہ (انگلش) (مظفر اقبال)	200/-	☆ صادق آل محمدؐ (باقر حماد)	350/-	☆ فلسفہ اہل البیتؑ (سید محمد حسن طباطبائی)	380/-
☆ اسلام اور عزاداری (طاہر جرولی مرحوم)	120/-	☆ سخاوت المجالس (سخاوت سندرالوی)	400/-	☆ غلو حقیقت اور اقسام (ترجمہ سبطین نقوی)	275/-
☆ تجلیات حکمت (اقوال امیر المومنینؑ)	500/-	☆ تحفہ درویش (سخاوت سندرالوی)	800/-	☆ مائۃ منقبۃ (ترجمہ سید سبطین نقوی)	340/-
☆ مواعظ حسنہ (شیخ عبدالعلی ہروی)	350/-	☆ کشکول (سخاوت سندرالوی)	800/-	☆ سفینۃ العباس فی باب الحوائج	500/-
☆ سیرت فاطمۃ الزہراؑ (آغا سلطان مرزا)	300/-	☆ برکات آیت الکرسی (سخاوت سندرالوی)	200/-	☆ تہذیب نفس امام خمینیؒ کی نگاہ میں	1000/-
☆ معجزات امام حسینؑ (مصطفیٰ اھوازی)	90/-	☆ پتھروں سے علاج (سخاوت سندرالوی)	300/-	☆ نوائے صالحین (مرتبہ سلطان محمود مرحوم)	

سب ملکر دعا کریں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد ہو جائے   یا صاحب الزمان علیہ السلام ادرکنی

ادارہ روحانی و قرآنی فیض

نقش تسخیر احکام
وافسران وترقی وتبادلہ

نقش دفع آسیب
وجنات ودیوی وپری

نقش حصول مال
دولت، رزق وروزگار

نقش تسخیر محبت
الفت والفت زوجین

نقش دفع بندش رشتہ
شادی خانہ آبادی

نقش حصول تعلیم وکامیابی
امتحان وباہر ملک جانے کا نقش۔

نقش حصول اولاد واولاد نرینہ
دفعہ امراض مردانہ وزنانہ

نقش دفع امراض قلب وسواس
گھبراہٹ، بے چینی، پریشانی وخوف ڈر

نقش دفع امراض وہر قسم کا درد دفع
ہو والا علاج امراض (کینسر ویرقان)

زائچہ رمل وزائچہ
اعداد وزائچہ جفر

نقش سحر
جادو ونظر بد

نقش دفع گردش ونحوست سیارگان
(مریخ زحل مشتری وغیرہ)

نقش دشمن کو زیر کرنا وزبان بندی
وحصول عزت وشہرت

نقش فتح ونصرت و
کامیابی وفتح در مقدمات

نقش اولاد کی فرمانبرداری والدین
کے لیے اور نیک بننے کے لیے

الحمد للہ یہ تمام تعویزات مجرب ہیں حاصل
کرنے کے لیے فون کر کے تشریف لائیں
یا ڈاک کے ذریعے منگوائیں۔

238 سرسید سٹریٹ الحمد کالونی
نیلم بلاک اقبال ٹاؤن لاہور

قاری منیر حسین محمدی 0331-4572500, 0300-4352315, 0313-8127214,

جامعہ کریمہ اہلبیتؑ
وفاق المدارس سے الحاق شدہ
اقبال ٹاؤن لاہور
(برائے طالبات)

اس پر آشوب دور میں قوم کی بچیوں کی بہترین دینی تعلیم وتربیت ماہر اور فاضلہ معلمات کی زیر نگرانی اور حوزہ علمیہ نجف اور قم کے نصاب سے مربوط اور منسلک تعلیمی پروگرام

پرنسپل
خانم سیدہ زاہدہ حسینی
(فاضلہ مشہد، ایران)

داخلہ جاری ہے

کورس مکمل کرنے والی
طالبات کو اعلیٰ تعلیم کے لیے
ایران بھیجا جاتا ہے

فن خطابت کی خصوصی تربیت

تمام مجتہدین کی طرف سے خمس کی اجازت ہے
ان تمام مقاصد کا حصول آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں
جامعہ کیساتھ کسی بھی تعاون کے لیے رابطہ کریں۔

مخیر حضرات سے تعاون کی اپیل ہے

موسس آغا بشیر رضوی خطیب مسجد شاہ خراسان
نیلم بلاک اقبال ٹاؤن لاہور 0333-4833558

حکومت پاکستان سے منظور شدہ
سادات میرج سنٹر

حضرت امام مہدی (عجل اللہ فرجہ) کی قبائے پاک کے زیر سایہ سالہا سال سے مومنین کی خدمت میں سرگرداں وہ واحد ادارہ جہاں آپ مکمل اعتماد اور رازداری کیساتھ اپنے بچے اور بچیوں کے لیے

سید، غیر سید، سنی
اعلیٰ تعلیم یافتہ، برسر روزگار

ہر ذات اور برادری کے رشتوں کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔

بیرون ملک مقیم فیملیز مکمل اعتماد کیساتھ اندرون اور بیرون ملک تسلی بخش رشتوں کے لیے رجوع کریں
سکینڈ اور لیٹ میرج رشتے بھی کروائے جاتے ہیں

رابطہ : مسز زیدی
92+300 9460414 , +92-331-4155550 e mail: sadatmc5@hotmail.com
سادات میرج سنٹر [illegible]

(رجسٹرڈ)

کاروانِ شاہِ خراسان

لاہور پاکستان

رضوی ٹریول اینڈ ٹورز

زیارات مقامات مقدسہ | خدمت زائرین کے مسلسل 13 سال | [illegible] | عمرہ 10 یوم عراق 10 یوم ایران 8 یوم شام 4 یوم

امسال ہمارے زیارتی گروپس درج ذیل ہیں

پہلا گروپ	روانگی اکتوبر کا دوسرا ہفتہ 2018
دوسرا گروپ	روانگی دسمبر کا پہلا ہفتہ 2018
تیسرا گروپ	روانگی جنوری کا پہلا ہفتہ 2019
چوتھا گروپ	روانگی مارچ کا پہلا ہفتہ 2019
پانچواں گروپ	روانگی اپریل کا پہلا ہفتہ 2019
چھٹا گروپ	روانگی جولائی کا پہلا ہفتہ 2019

تمام سہولیات
کیساتھ بمعہ
3 ٹائم کا کھانا

ایران، عراق (مکمل بائی روڈ)
65000/-

ایران، عراق 18 یوم (بائی ائیر بائی روڈ)
1,10,000/-

عمرہ، عراق، ایران 28 یوم
1,70,000/-

ایران، عراق، شام 22 یوم
1,80,000/-

عمرہ، عراق، ایران، شام 32 یوم (مکمل بائی ائیر)
2,40,000/-

نوٹ
ہر گروپ کی روانگی سے
45 یوم قبل کاغذات جمع
کروانا ضروری ہے۔

نوٹ

اولاد نرینہ کیلئے
سید احمد رضوی سے
(صرف جمعرات والے دن رابطہ کریں)



0332-3331214

سنگلک اڈا پارہ چنار
رضا گلفام
0300-5286703

آفس نمبر 8، کالج مارکیٹ
کالج روڈ سکردو
حاجی غلام رسول
0346-9532318
0355-5258548

0355-5105971
0343-5544363
0315-5723025

آفس نمبر 5 خرم سنٹر، فسٹ فلور
آب پارہ مارکیٹ مین وحدت روڈ، لاہور
042-35912753

سید احمد رضوی
0333-4628205
0346-4388872

ادارہ معاون مومنین واعظین مقررین پیش نماز

جو مومنین اپنی مساجد میں مستقل طور پر یا ماہِ رمضان المبارک میں عارضی طور پر سید و غیر سید پیش نماز رکھنے کے خواہش مند ہوں یا سیّد و غیر سید پیش نماز مستقل طور پر یا ماہ رمضان المبارک میں عارضی طور پر پیش نمازی کرانے کے خواہش مند ہوں رابطہ کریں۔

مرحومین کے لیے اجتماعی عمرہ، مجلس عزا و قرآن خوانی اور شبیہ دعائے کمیل، حدیث کسا کم ہدیہ میں پڑھوانے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔

جو مومنین اپنے مرحومین کی قضا نمازیں، روزے، ختم قرآن و دیگر مخصوص دُعائیں کم ہدیہ میں پڑھوانا چاہتے ہوں تو سعادت کے لئے ہم ہمہ وقت تیار ہیں

سننے میں آیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ میں حافظ قرآن نہیں ہیں۔ وہ ہم سے رابطہ کریں

فقہ جعفریہ میں طلاق طلاق کہنے سے، نوٹس دینے سے، عدالتی تنسیخ نکاح سے خلع سے طلاق نہیں ہوتی بلکہ طلاق دو عادل گواہوں کی موجودگی میں کسی مستند پڑھے لکھے عالم دین سے صیغہ طلاق عربی میں پڑھوایا جائے۔ جس طرح نکاح، نکاح، نکاح کہنے سے نکاح نہیں ہوتا، اسی طرح طلاق، طلاق، طلاق کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ جس طرح نکاح کی شرائط ہیں اسی طرح طلاق کی بھی شرائط ہیں۔ بالفرض صیغہ طلاق عربی نہ پڑھا جائے تو وہ عورت دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر نکاح کر لے تو وہ نکاح مطلقاً حرام ہے۔ جب نکاح حرام تو اولاد کے بارے آپ خود فیصلہ صادر فرمائیں۔

ایسے سید و غیر سید شیعہ، اہل سنت والدین اندرون ملک و بیرون ملک اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتے لینے یا دینے میں پریشان ہوں ہم سے رابطہ کریں۔ ہم انہیں ان کی حسبِ خواہش کے مطابق رشتے کروائیں گے۔

جو مومنین و اراکین انجمن عشرہ محرم الحرام و دیگر مجالس عزا کے لئے زیادہ ہدیہ نہیں دے سکتے ہم انہیں کم ہدیہ والے ذاکرین، مقررین واعظین، خطیب و خطیبہ دیں گے۔

[illegible] 0300-6050825
0[illegible]452

یااللہ
یاعلی مدد
یامحمد
5
محرم الحرام
(بمطابق [illegible])
مقام
محلہ جہانگیر ٹاؤن
بھون روڈ
چکوال
لبیک یا حسین
بانی: ملنگ فاتح شام [illegible] بنی ہاشم سید [illegible] المصائب
سید [illegible] علی وارث
سالانہ
ماتمی جلوس

چکوال پھاٹک	وسنال	سرپاک چکوال	سرپاک
مرید	[illegible] سادات	چک ملوک	محلہ [illegible]
[illegible]	[illegible]	بلکسر	[illegible] شاہ
[illegible]	جبیر پور	ابوذر کالونی	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		0333-6302220

خوشحال ازدواجی زندگی ایک خواہش

[illegible] رابطہ کریں
اوقات رابطہ 2 بجے تا شام 8 بجے

قارئین امامیہ جنتری! آجکل کے پرآشوب دور میں والدین بڑے پیار اور خلوص سے بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں لیکن دوسرے گھر جا کر بچیاں جن حالات کا سامنا کرتی ہیں وہ نہایت تکلیف دہ عمل ہے۔ آپ اپنے مسائل کے لیے ضرور رابطہ کریں۔ ان شاء اللہ آپکی ازدواجی زندگی بہترین ہو جائے گی اسکے علاوہ بچیوں کی شادی، بچوں کی صحت، تعلیم یا دیگر جو بھی پریشانی ہے رابطہ کریں ان شاء اللہ دعا دیں گی۔ والسلام سیدہ ارم زہرا نقوی لاہور پاکستان

0333-6200921

ایم ایم عالم آسٹرو پامسٹ

اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے۔ حال، ماضی، مستقبل کو جاننے کے لیے رابطہ کریں **بالکل فری** اپنی تاریخ پیدائش وقت اور اپنے ہاتھوں کے پرنٹ SEND کریں کال کریں روزانہ رات 10 بجے سے 12 بجے ہفتہ، اتوار سارا دن۔

Www.facebook.com
Astrology Palmistry & Rohani illaj
☎ 0321-2768675, 0310-2862143

کاروانِ سامرہ شہدا

لبیک یا حسین علیہ السلام

عمرہ، ایران، عراق بائی ایئر
(عراق)، (ایران، عراق)
دسمبر بچوں کی چھٹیوں میں

جنوری عمرہ
ایران، عراق، شام
مکمل بائی ایئر

فروری کا تیسرا ہفتہ
ایام فاطمہؑ (ایران، عراق)
ایام فاطمہؑ (ایران)

13 رجب مکہ میں
3,4 شعبان کربلا میں
15 شعبان کربلا میں

بائی ایئر
شہادت مولا علیؑ سرکار
21 رمضان
نجف اشرف عراق میں

پرچم کشائی روضہ امام حسینؑ
یوم عاشور کربلا میں

بائی ایئر
یوم عرفہ کربلا میں
(عراق)، (ایران، عراق)

بائی ایئر
اربعین کربلا میں

بائی ایئر
دسمبر 2019
(ایران، عراق)، (عراق)

جون اور جولائی بچوں کی چھٹیوں میں سپیشل پروگرام

دسمبر، جنوری، فروری، مارچ ہر ماہ روانگی

(عمرہ) رمضان المبارک سپیشل پیکج (اعتکاف پیکج) رمضان المبارک نارمل پیکج (سٹار پیکج)

سالار حضرات کے لیے ہوٹل بکنگ، ویزہ جات ایران، عراق، شام اور بائی ایئر ٹکٹنگ بارعایت دستیاب ہے

نوٹ: 10 افراد اپنا گروپ بنا کر ہمیں تاریخ اور ماہ کا بتائیں آپ کی خواہش کے مطابق قافلہ روانہ کر دیا جائیگا

مکمل بائی ایئر
ایران، عراق
$1200/-

مکمل بائی ایئر
ایران، عراق، شام
$1675/-

بائی ایئر، بائی روڈ
ایران، عراق
$1050/-

مکمل بائی ایئر
عمرہ، ایران، عراق، شام
$2200/-

ایران بائی ایئر
$650/-

عراق بائی ایئر
$900/-

عمرہ اکانومی
$700/-

عمرہ اکانومی + گولڈ پیکج
$725/-

عمرہ سٹار + گولڈ پیکج
$1000/-

عاشورہ، اربعین جنوری 2019 6 ماہ قبل ایڈوانس بکنگ پر سپیشل
ایڈوانس بکنگ جاری ہے ڈسکاؤنٹ حاصل کریں

سالار نائب شیخ علی گوہر کربلائی
0321-7001243

شیخ علی جوہر کربلائی
0321-7146146

آغا انوار حسین سید انجفی
0300-8452512

سالار قافلہ
شیخ وقار حسن کربلائی
B.A, LL.B

0308-4455248
0322-4455248
0336-4455248
0315-4455248

الطیف سنٹر گلبرگ
بالمقابل حفیظ سنٹر لاہور

عبادتوں، قربانیوں اور حقیقتوں کا روحانی سفر

[illegible] 786/92/110/9

خدمت زائرین کے 17 سال
بہترین سروس، حرم کے قریب ہوٹل
علمائے کرام کی مکمل رہنمائی

کاروان مشہد انٹرنیشنل ٹورز

زیارات مقامات مقدسہ کے امسال ہمارے گروپ مندرجہ ذیل ہیں

گروپ	ماہ	مقامات	قیمت
پہلا گروپ	دسمبر 2018ء	عمرہ، عراق، شام، ایران/بائی ایئر عراق، ایران، شام عراق، ایران	220000 165000 110000
دوسرا گروپ	مارچ 2019ء	عمرہ، عراق، شام، ایران/بائی ایئر عراق، ایران، شام عراق، ایران	220000 165000 110000
تیسرا گروپ	جون 2019ء	عراق، شام، ایران عراق، ایران	165000 110000
چوتھا گروپ	اگست محرم عاشورہ 2019ء	عراق، شام، ایران عراق، ایران	175000 125000
پانچواں گروپ	اربعین 2019ء	عراق	115000

[illegible]

فقیر کربلا قسور نقوی
0332-6051200 0300-6356350

الہدی ٹریولز اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ **27۔ ہجویری آرکیڈ کچہری روڈ ملتان**

برائے رابطہ 0300-6320229 حاجی محمد بابر حسین 0300-6305135 زوار علی عمران 061-4519555

روحانی امداد

حجۃ الاسلام والمسلمین العلامہ المجاہد آقائی
السید محمد ابوالحسنؒ الموسوی المشہدی
دام ظلہ تعالیٰ

ایک نابغہ روزگار شخصیت

جو کہ تحریراً، تقریراً، مدرسہ، مکتب جعفریہ کی خدمت میں ہر وقت کوشاں ہیں۔ سو سے زیادہ کتب و رسائل کے مصنف و مؤلف ہیں اور ماہنامہ رسالہ علمیہ لسان صدق اسلام آباد کے چیف ایڈیٹر بھی ہیں ان کی روحانی خدمات سے آج ہی استفادہ کریں۔

حضرات معصومین علیہم السلام نے دکھی انسانیت کے زخموں کے اندمال کیلئے اور مشکلات سے نجات کیلئے واضح اور مؤثر احکام و عملیات احادیث و روایات میں بیان فرمائے ہیں اہل بیتؑ کے پاکیزہ علوم کی روشنی میں آپ کی الجھنوں اور رکاوٹوں خواہ رشتہ شادی بیاہ یا ملازمت غرض کیسی پریشانی ہو حل موجود ہے اول فرصت میں ہم سے رابطہ فرمائیں۔ انشاء اللہ آپ کی خدمت ہمارے لئے سعادت ہے بالمشافہ ملاقات کیلئے فون پر وقت لے کر تشریف لائیں۔

بیت الزہراء، 494، سٹریٹ 106 سیکٹر I-8/4 اسلام آباد
فون: 051-4901744,4901745 موبائل: 0345-5457551

کاروان الرضا چلے آؤ اے زوارو چلے آؤ سال 2019ء کے پروگرام

اکنامی پیکج

عمرہ 90,000 روپے ڈالر 700

عراق 85,000 روپے ڈالر 680

ایران عراق 1,05,000 ڈالر 800

شام کیلئے اضافی 600 ڈالر ہونگے

1. فروری 2019 بکنگ کی تاریخ 5 فروری
2. مئی گروپ بکنگ کی تاریخ 25 اپریل
3. عاشورہ گروپ
4. اربعین گروپ (عاشورہ اربعین کیلئے اضافی چارجز ہونگے)
5. دسمبر گروپ عمرہ، ایران، عراق، شام (ربیع الاول گروپ)

سٹینڈرڈ پیکج

عمرہ US 950 عراق US 1050

ایران، عراق US 1250

ایران، عراق، شام US 1800

1. عمرہ 13 رجب خانہ کعبہ بکنگ کی تاریخ 25 فروری
2. 13 رجب نجف اشرف عراق
3. 19,20,21 رمضان نجف اشرف میں کریں
4. جولائی سمر گروپ بکنگ کی تاریخ 25 جون
5. عاشورہ گروپ 4 اربعین گروپ (اضافی 200 ڈالر)
6. دسمبر گروپ عمرہ، ایران، عراق، شام (ربیع الاول گروپ)

زیارات آسان

حسینی زیارات کمیٹی

آغاز فروری 2019ء سے

5000 ماہانہ مدت 25 ماہ 1,25,000

ایران عراق شام

ہر ماہ قرعہ اندازی کے ذریعے ایک

زائر کی کمیٹی نکلنے پر باقی اقساط معاف

پہلے آیئے پہلے پایئے

اپنی پہلی کمیٹی 5000 روپے اور شناختی کارڈ

کی کاپی کے ساتھ فوراً بک کروائیں

ٹکٹ، میڈیکل فیس، ویزہ فیس، ایئر پورٹ ٹیکسز، کھانا

ٹرانسپورٹ، ہوٹل، مجالس کی سہولیات شامل ہیں

خادم زائرین سید انجم رضا کاظمی

0333-4182678,0334-4182678

کاروانِ الرضا لاہور پاکستان 165-3-C2 ٹاؤن شپ لاہور

Email.anjumrazakazmi@gmail.com

اسے ضرور پڑھیں

اولاد خداوند متعال کی ایک نعمت ہے اور رحمت بھی۔ لیکن اگر کوئی شادی شدہ جوڑا ایک سال اکٹھا رہنے کے باوجود اس نعمت و رحمت سے محروم رہے تو میاں بیوی بیچارے دونوں کو ہی اپنی ازدواجی زندگی خطرے میں نظر آنے لگتی ہے۔ موجودہ تحقیق کے مطابق ہر سات میں سے ایک شادی شدہ جوڑا بے اولادی کا شکار ہے عرصہ دراز سے بے اولادی کا ذمہ دار عورت کو گردانا جاتا ہے مگر جدید تحقیق نے ثابت کر دیا بے اولادی کا ذمہ دار مرد بھی ہے۔ مرد حضرات میں بے اولادی کی بہت سے وجوہات ہیں ان میں سے اہم وجہ مرد تولید میں سپرمز کی کمی یا بالکل معدوم ہونا ہے۔

ایسے مرد حضرات جو بے اولادی کا شکار ہیں اُن کے مادہ تولید میں سپرمز کم یا NIL ہو گئے ہوں مختلف طریقہ ہائے علاج کروانے کے بعد شفاء سے مایوس ہو چکے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ مایوس نہ ہو ایک مرتبہ ضرور ہم سے رابطہ کریں ان شاء اللہ بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام آپ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ الحمد للہ ہماری خدمات پاکستان اور خلیجی ریاستوں میں جاری ہے خداوند تعالیٰ نے محمدؐ و آل محمد علیہم السلام کے صدقے کبھی مایوس نہیں کیا ہمارا علاج سالوں یا مہینوں کا نہیں بس چند دن کی دوا کھانے کے بعد رپورٹ کروائیں ان شاء اللہ تعالیٰ رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔

اولاد سے محروم مرد حضرات اپنی میڈیکل رپورٹس بھیج کر مشورہ کر سکتے ہیں۔ **ڈاکٹر غلام مصطفیٰ حیدری**

معصوم شاہ چوک حبیب کالونی بورے والا پاکستان ✆ +966590304506,+966570304506

Dr.Haidri ✆ +923370304506

صرف خواتین رابطہ کے لیے: مسز ڈاکٹر حیدری +92-308-0304506

اعتماد سے آئیے
مطمئن جائیے

جوہرے

خدمت کے 40 سال
ہمارے تجربے
کی بہترین مثال

042-37155098, 0300-4519796

قیمتی، نیم قیمتی جوہرات مثلاً نیلم پکھراج یاقوت اوپل زمرد مرجان فیروزہ لہسنیا زبرجد وغیرہ دستیاب ہے نیز ہر قسم کے نقش اور الواح پر بھی کام کرتے ہیں

ناغہ
بروز اتوار

اسکے علاوہ عدد9 کی انگشتری عدد9 کا ناقابل تسخیر کراماتی و برکاتی نمبر ہے

نوٹ
"جوہرے" 15 جولائی تا [illegible] بند رہے گی

شادی رشتہ، سفر حصول حاجات و حفاظت اور حصول مقاصد کے لیے صدیوں سے تجربہ ہے

حرز جواد کی انگوٹھی یہ نقش کشائش رزق، بخت کشائی اور آفات و بلیات سے محفوظ رکھتا ہے

حکیم مظفر علی رضوی جامع مسجد صاحب الزمانؑ
المعروف جوہرے حیدر روڈ اسلام پورہ لاہور

اوقات کار روزانہ شام 5 بجے تا 9 بجے رات
جمعہ صبح 11:30 بجے تا 3:00 بجے دوپہر

الزہراء ٹریولز اینڈ ٹورز

لائسنس نمبر 3238

زیارات ایران، عراق، شام، حج و عمرہ

ٹورزم ڈیپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان سے باقاعدہ منظور شدہ۔

پُرسکون اور آرام دہ سفر کے لیے **ملک کا با اعتماد ادارہ**

سال میں 3 کاروان زیارات کے لیے تشکیل دئیے جاتے ہیں

✸ جولائی اور اگست میں ایران، عراق، شام
✸ مارچ میں ایران، عراق، شام اور عمرہ کے لیے قافلہ روانہ ہوگا

عراق اور شام کے ویزہ اور تمام ممالک کے بائی ائیر ٹکٹس کے لیے ہماری خدمات حاصل کریں

قافلہ سالاروں کے لیے خصوصی رعائت

زیر قیادت **الحاج شاہد اقبال خان کھچی**
0300-9404133-0302-7861272
علی نجف خان کھچی 0305 7788114

email:alzharatravel@yahoo.com [illegible] 394 G/1

الفاطمی استخارہ سنٹر

روحانی و جسمانی مسائل کا حل

آستانہ دوست، خطیب اہلبیت، وکیل آل محمد **آغا حیدر عباس رضا الفاطمی**

کینسر سپیشلسٹ، آپریشن مت کروائیں۔
بلڈ کینسر، ہڈیوں کا کینسر، بریسٹ کینسر، جلد کا کینسر، چیسٹ کا کینسر، ہر طرح کے کینسر کا مکمل شرطیہ علاج **2 ماہ کی دوائی سے شفاء ہی شفا**

[illegible]

[illegible] 0300-4072011, 0333-6885171

بخاری میرج سنٹر

معزز سادات اور اہل تشیع خاندانوں کے بچے اور بچیوں کے موزوں ترین رشتوں کے لئے رابطہ کریں۔

سیدہ دُرِ شہوار

صبح 11 بجے تا شام 5 بجے

0300-9488210 042-37812941
email: dbokhari@hotmail.com

علم الاعداد	نجوم	جفر	اسم اعظم	موکلات	الواح	شرف سیارگان

روحانیت پیشہ یا تجارت نہیں بلکہ خدمت خلق خدا کا بہترین ذریعہ ہے

آسیب، جادو سحر شکن ایک فٹ کی تلوار گھر میں چھپا کے لٹکانے کے لیے 600/-	حصول روزگار، غنا دولت خوشحالی کے لیے لوح مشتری، طلسم، خاتم سونا پالش 1000/-	عدد 8 اور نحس ستارہ زحل کی ساڑھ ستی سے بچنے کے لیے لوح زحل سونا پالش 1000/-	دفع آسیب جادو، سحر کا 40 دن کا مکمل سیٹ مع ترکیب استعمال 600/-
بیٹیوں کے رشتوں میں رکاوٹ رفع کرنے کے لیے لوح مقدر+لوح رفع بندش+لوح فاطمہ 1500/-	الحب، من پسند شادی، تسخیر خلق کے لیے سونا پالش لوح شرف زہرہ 1000/-	ساتوں ستاروں کے شرف کی 7 الواح کا سیٹ سونا پالش شدہ وردشدہ 5000/-	اولاد کی تمنا، اٹھرہ کا علاج بیٹا ہونے کی آرزو کے لیے [illegible]

ہر ماہ کی 21+22 کو یونائیٹڈ ہوٹل ڈاکٹر داؤد پوتا روڈ صدر کراچی   ہر ماہ کی 8 تاریخ کو اقمر ہوٹل چوک سید حسام ریلوے روڈ ملتان صبح 9 تا دوپہر 1 بجے
ہر ماہ کی 9 تاریخ کو شاہین انٹرنیشنل ہوٹل سمن آباد لاہور UBL بنک کے اوپر صبح 9 تا عصر 4 بجے ہر ماہ کی 11 تاریخ کو ریز ہوٹل دھوبی گھاٹ فیصل آباد صبح 9 بجے تا دوپہر 1 بجے
ہر ماہ کی 10 تاریخ کو الفاروق ہوٹل کمیٹی چوک مری روڈ راولپنڈی صبح 9 تا عصر 4 بجے

ہر مسئلہ اور پریشانی کے حل کے لیے فون یا بالمشافہ رابطہ کریں

جمعہ اور اتوار کو دفتر کھلا ہوتا ہے

ملاقات کے لیے آنے سے قبل فون پر راستہ دریافت کر لیں

آغا حسنین احمد ستارہ و برج گولڈ میڈلسٹ (PSA)
پتہ برائے ملاقات و ڈاک   ہاؤس نمبر 339 عوامی کالونی
اندرون سٹریٹ نمبر 3 مہاجر کالونی حاصل پور روڈ بہاولپور

0300-6802983,0331-7560412
0340-3278598,0311-1617924
Email:aghahasnainahmad@gmail.com

رابطہ فون کے اوقات (وقت کی پابندی کریں)
یکم ستمبر تا 28 فروری صبح 10 تا 5 بجے شام
یکم مارچ تا 31 اگست صبح 9 بجے تا 2 بجے
دوپہر شام 6 تا 9 بجے رات

کاروانِ کربلا و شام

لاہور
پاکستان

عرصہ 38 سال سے زائرین کی خدمت میں رواں دواں

پروگرام زیارات مقامات مقدسہ 2019ء
عمرہ، ایران، عراق، شام

بائی روڈ، بائی ایئر انتظام

پہلا قافلہ:	ربیع الثانی	عمرہ، ایران، عراق انشاءاللہ
دوسرا قافلہ:	رجب	ایران، عراق، شام انشاءاللہ
تیسرا قافلہ:	شعبان	ایران، عراق انشاءاللہ
چوتھا قافلہ:	رمضان	ایران، عراق انشاءاللہ
پانچواں قافلہ:	محرم الحرام	ایران، عراق انشاءاللہ

[illegible]

دستاویزات: اصل پاسپورٹ، 2 عدد فوٹو کاپی شناختی کارڈ، 10 عدد تصاویر فوٹو بیک گراؤنڈ سفید
نوٹ: ہر پیکیج کی آدھی رقم دستاویزات کے ساتھ جمع کرانا لازمی ہے

قائد: سید دائم [illegible] پسر سید محمد زمان حیدر ترمذی
[illegible] 10 [illegible]
0301-4513272
0306-7974225
0345-7965935
0301-4045441

قرآن پاک سے مسائل کا حل

زندگی میں درپیش تمام مشکلات اور پریشانیوں کا حل اللہ تعالیٰ کے کلام سے۔ ہر مسئلہ کا مفید مشورہ مکمل رازداری کے ساتھ۔ دشمن کی زبان بندی اور اسکے شر سے محفوظ سحر کا توڑ۔ کالے جادو کی کاٹ۔ کاروبار میں رکاوٹ۔ بچوں کے رشتوں کے مسائل کے حل کے لیے تعویزات جملہ بیماریوں اور پریشانیوں کا روحانی علاج۔

عامل ڈاکٹر و حکیم محمد ثناءاللہ

بھکر دواخانہ تلہ گنگ
0300-6080973
0333-6849263

اللہ رحمٰن و رحیم سے بتوسل قرآن پاک کی مقدسہ آیات اور معصومینؑ سے ہر پریشانی کا حل

تمام ستاروں کے شرف کی الواح سونا پالش، ورد شدہ، صدقہ ادا شدہ حاصل کر کے اپنی زندگی خوشگوار بنائیں۔ علم جعفر، علم الاعداد، علم نجوم سے ہر پریشانی کا حل مفت معلوم کریں۔ روحانی علم غیب کا علم نہیں بلکہ اصولی علم ہے جادو کے اثرات، من پسند شادی، بے اولادی، سیارگان کے بداثرات، مقدری بندش، بیروزگاری قرض کی پریشانی، ناجائز مقدمات، ہر کام میں ناکامی، صحت، تعلیم، ترقی ملازمت، ترقی کاروبار میں رکاوٹ، نظر بد، رکاوٹ ویزہ، گھریلو ناچاقی، آسیب، رشتہ میں رکاوٹ کے حل کے لیے فون پر مفت مشاورت کر کے ان مسائل کا دیرپا حل معلوم کریں۔ ☆استخارہ کی کوئی فیس نہیں

زحل، مشتری، قمر، مریخ، شمس، عطارد، زہرہ، 7 ستاروں کے شرف کی 7 الواح کا مکمل سونا پالش سیٹ، صدقات ادا شدہ + ورد شدہ ہر کام میں کامیابی کے لیے لائف ٹائم ستاروں کی نحوست سے بچنے کے لیے منگوا کر اپنے پاس رکھیں ہدیہ -/5000 ہدیہ منی آرڈر کریں یا ایزی پیسہ یا موبی کیش کر کے اپنا نام والدہ کا نام اور ڈاک کا مکمل پتہ لکھوائیں

اپنا زائچہ مفت بنوائیں ☆ ملاقات کے لیے آنے سے قبل راستہ فون پر سمجھ لیں

برج قوس، جدی، دلو والے ساڑھ ستی کی پریشانی سے بچنے کے لیے

لوح زحل خاتم + طلسم	ہم سے یہ لوح زحل سونا پالش ورد شدہ صدقہ ادا شدہ حاصل کر کے اپنے پاس رکھیں۔ ہدیہ 1000
لوح مشتری خاتم + طلسم	ساعات شرف میں تیار شدہ، سونا پالش + ورد شدہ صدقہ ادا شدہ + دولت اور غنا کے لیے + ترقی و خوشحالی اور انعامی بانڈ کے لیے-/1000
دلوں کو جوڑنے کے لیے	لوح فاطمہؑ + لوح رفع بندش + لوح مقدر
لوح زہراؑ (تسخیر خلق)	ساعات شرف میں تیار شدہ، سونا پالش + ورد شدہ صدقہ ادا شدہ برائے تسخیر خلق، عزت، حب کے لیے
[illegible]	مکمل توڑ دفع جادو 40 یوم + جادو شکن تلوار -/2000
نقش صدور صد منسوب بہ مولا علیؑ۔ [illegible]	حصول کل مقاصد، تحفظ جادو سے، آسیب سے، جن بھوت پریت سے، فراخی رزق، تسخیر خلق، صدقات ادا شدہ۔ فریم والا ہدیہ -/3000 البم والا 2000

امیر حیدر عقب امام بارگاہ جاگیر علی اکبر جاوید کالونی بہاولپور

0301-6762979, 0333-6821579

ameerhaider@gmail.com

بخاری میرج سنٹر (رجسٹرڈ)

رشتہ جیسا بھی ہو نیک نیتی سے رابطہ ضرور کریں

شیعہ سنی ڈاکٹر، انجینئر، لیکچرار، بینکر، زمیندار، بزنس مین Css آفیسر اندرون و بیرون ممالک اور فرسٹ میرج، سیکنڈ میرج کیلئے فوری رابطہ کریں

0332-4409722

www.bukharimc.tk

صدیق سنٹر گلبرگ لاہور۔ 0300-8818071

مرکز علوم آل محمدؐ

جامعہ علویہ ارشاد المدارس لاہور میں جملہ علوم دینیہ پڑھائے جاتے ہیں شائقین علوم آل محمدؐ توجہ فرمائیں

پرنسپل علامہ غلام علی ارشد علی ہاشمی

1 56 بی جعفریہ کالونی بند روڈ لاہور

0302-4330072

ہر مشکل کا روحانی حل بالقرآن مقدس

فون پر راہنمائی و مشورہ کریں

[illegible] [illegible] رزق شفاء

تسخیر خلق [illegible] [illegible]

الواح شرف سیارگان

عامل روحانی صابر حسین نقوی

قائد آباد ضلع خوشاب 0300-9207214

0345-1462472

مشکلات کا روحانی حل

مجرب تعویذات، سعودی ستار لوح خاص وقت میں تیار کی جاتی ہیں

جادو کا توڑ | شادی میں رکاوٹ | بندش کاروبار | ہر بیماری کی نقش

جنات کے اثرات | سکون قلب کیلئے | عملیات و تعویذات | جھگڑوں کی بندش

عامل روحانی **پیر سید شبیر حسین بخاری** دربار بابا کلے شاہ روڈ، بھیرہ، ضلع سرگودھا

0345-5665273 0321-5412046

Shabirbukhari@gmail.com

انجمن وظیفہ سادات و مومنین

رجسٹرڈ پاکستان

100 سال (1912-2012) سے زائد عرصہ سے ہر سال پاکستان میں مستحق طلبا و طالبات کو 2 کروڑ سے زائد تعلیمی وظائف جاری کیے جاتے ہیں۔ جو کہ صرف اور صرف مومنین و مومنات کے تعاون سے ہی ممکن ہے۔ جس میں خمس، صدقات، عطیات، فطرہ، چندہ کی مد میں بھی مالی معاونت کی جا سکتی ہے۔ خلیفہ حسن مہدی (جنرل سیکرٹری)

042-37153117 3/34 کوثر روڈ اسلام پورہ لاہور

۱۱۰ / ۱۱۰-۹۲ جادو، سحر، بیماریوں، نحوست سیارگان بندش کے حل کے لیے روحانی تبرک

دشمنوں اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ رہنے کے لیے جادو شکن تلوار بنوائیں ہدیہ **1000** روپے

کسی قسم کے □ اور مشورہ کے لیے استخارہ فون پر فی سبیل اللہ رابطہ کریں۔ استخارہ کے لیے نام مکمل بتایا کریں

جن بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے بری نظر سے بچنے کے لیے لاکٹ نادعلی ہدیہ **500** روپے

من پسند شادی کے لیے میاں بیوی میں محبت کے لیے تسخیر عوام کے لیے لوح زہرہ بنوائیں ہدیہ **1000** روپے

بیرون ملک ویزہ یا سپانسر یا جاب ملنے کے لیے طلسم بادشاہت ہدیہ **1000** روپے

اولاد سے محروم افراد بانجھ پن کا مکمل روحانی علاج ہدیہ **4000** روپے

جاب □ ملنے کے لیے پریشانی کے لیے ذہنی سکون کے لیے **5** تعویز مفت فون کر کے منگوائیں

ترقی فتحیابی ہر میدان میں تسخیر افسران کے لیے لوح شرف شمس بنوائیں ہدیہ **1500** روپے

یہ تمام نقش الواح عمل آزمودہ ہیں۔ اعتقاد کے ساتھ حاصل کریں انشاء اللہ ان کی برکت سے آپ کو فیض ملے گا۔ آپ دعا دیں گے۔

زحل، مشتری، قمر، عطارد، مریخ، زہرہ، شمس کا مکمل **7** الواح کا سیٹ ہر کام میں کامیابی کے لیے ستاروں کی نحوست سے بچنے کے لیے ہدیہ **5000** روپے

مالی پریشانی تنگدستی سے چھٹکارہ کے لیے لوح مشتری مع انگشتری مع طلسم خاتم ہدیہ **1500** تمام الواح ہاتھ کی کندہ شدہ ہیں۔

زحل کی ساڑھ ستی سے حفاظت کے لیے عدد **8** کی نحوست ختم کرنے کے لیے برج قوس، جدی دلو والے ساڑھ ستی میں ہیں۔ لوح زحل بنوائیں مع انگشتری طلسم خاتم ہدیہ **1500** روپے

ہر قسم کی بیماری شوگر، بلڈ پریشر، ہیپاٹائٹس سے شفاء کے لیے **40** عدد نقش زعفرانی مع لوح شفاء فی سبیل اللہ فون کر کے منگوائیں

جادو سحر آسیب جنات سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے کورس حاصل کریں تلوار، جلانے کے لیے تعویز، پینے کے تعویز لوح تحفظ مکمل کورس ہدیہ **2000**

بالمشافہ ملاقات کے لیے ہر انگریزی ماہ کی 9 کو لاہور 10 کو راولپنڈی 11 کو فیصل آباد 22-21 کو کراچی ملاقات کریں۔

آغا جعفر حسین
جوائنٹ ایڈیٹر ماہنامہ روحانی فیض
مکان نمبر 140 رائل سٹی کالونی بہاولپور
رابطہ 0312-7807248
0300-7807248
صبح 9 بجے تا 1 بجے دوپہر
عصر 5 تا رات 10 بجے

ASTROLOGER
SYED ALI BUKHARI

HOROSCOPE
SPIRITUAL GUIDANCE
TALISMAN
TAWEZAAT
BLACK MAGIC SOLUTIONS
SAR SATTI

Email: alibukhari975@gmail.com
☎ 0315-5845699 ☎ 0349-5645524

SYED ALI BUKHARI
Darbar Baba Kalay Shah Chappar Sarai Alamgir Gujrat Pakistan

جادو، سحر، بیماریوں اور پریشانیوں

معالج خصوصی کالا علم، جادو، ٹونہ، سحر، کاٹ و پلٹ، شادی، اولاد کا نہ ہونا، گوشت کے لوتھڑے، گوبر، مٹی، کنکر پانی کے چھینٹے، روپوں، کپڑوں کا کٹ جانا، گھر میں اچانک نقصان و آگ لگنا کے مسئلے کا حل کروانے اور بیٹا بیٹی اور کسی بھی قسم کی بندش کے لیے رابطہ کریں۔

نوٹ ہر مرض کا علاج روحانی طریقے سے کیا جاتا ہے۔

حاجی سید کاشف حسین کاظمی
اوقات ملاقات دوپہر 12 سے 7 بجے شام
اوقات رابطہ دوپہر 12 سے 7 بجے شام 0300 4422687
کربلائی 5 بخشی مارکیٹ انار کلی لاہور

الیاس میرج بیورو

ہمارے ہاں شیعہ و سنی ہر ذات برادری اور اسکے علاوہ سادات اور غیر سادات کے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تسلی بخش رشتے موجود ہیں آپ بڑے اطمینان کیساتھ بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے ہم سے رابطہ کریں سیکنڈ میرج، مطلقہ اور لیٹ میرج والے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔

رابطہ فضیلت باجی 0321-6774442
0322-9156826,0307-8827001

سعید میرج سنٹر

سادات، غیر سادات، شیعہ، سنی، فرسٹ اینڈ سیکنڈ میرج، اندرون و بیرون ملک رشتوں کے متلاشی حضرات رابطہ کریں

مہر عبد الحمید
☎ 0347-7280728
Call 0321-7280728
0314-4993688

نماز اجارہ و دعائے مغفرت برائے مرحومین

قضاء نمازیں، روزے و دیگر واجبات شرعیہ ادا کروانے کیلیے

مولانا
سید محمد مطیع الحسنین کاظمی
مکان نمبر A-8 سٹریٹ 33 کوثر کالونی نزد سبحانی روڈ کیولری گراؤنڈ لاہور
0300/0345-4622340
0333/0321-5304639

سعودی حج نمبر 4422

رجسٹریشن نمبر 2188/I

حج و عمرہ زیارات مقامات مقدسہ

YAKTA TRAVEL

یکتا ٹریول اینڈ ٹورز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

TRAVEL AGENTS ASSOCIATION OF PAKISTAN TAAP

اعتماد، خدمت و معیار کے حوالے سے ملک کا معروف نام

IATA 27321442

یہ سعادت حاصل کریں

آپ چاہے احباب کے ساتھ گروپ کی صورت میں ہوں یا فیملی کے ہمراہ۔ آپ کے اپنے پروگرام کے مطابق۔ مکمل رہنمائی، مشاورت یا معاونت اطمینانِ قلب کے ساتھ۔ اس سعادت کے لئے ہماری ماہرانہ خدمات سے استفادہ فرمائیے۔

زیارتی پروگرام

عمرہ، عراق، ایران
عمرہ، عراق، شام
ایران، عراق، شام
ایران، عراق

حج 2019ء

پرائیویٹ سکیم میں
30 روزہ

خصوصیات

علاوہ ازیں

دنیا بھر میں ہوائی سفر کے لئے ہر ملک ہر ایئر لائن کی فوری ٹکٹنگ آپ کی دہلیز پر

سید محمود الحسن رضوی چیف ایگزیکٹو
0300-5502372
سید محسن عباس کاظمی ڈائریکٹر
0322-4440120

خاکپائے در بتول

آفس F-1 عوامی پلازہ، بالمقابل نیشنل مارکیٹ، چاندنی چوک، راولپنڈی۔

فون: 051-4940673 ای میل: yaktatravels786@yahoo.com

یا قائم آلِ محمد

بمقام
علوی امام بارگاہ پدھراڑ

مورخہ
2019
14 جون بروز جمعہ

مجلس عزا

حاجی ملک عالم خان اعوان مرحوم

منتظم اعلیٰ: ذاکر ملک امجد حسین اعوان پدھراڑ

مخدوم سید گل حسین شاہ

انجمن غلامان علی اکبر پدھراڑ
ضلع خوشاب

سید حبیب شاہ

ملک عابد حسین اعوان

جس میں ملک بھر کے نامور

علمائے کرام و ذاکرین عظام

فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے

گدائے در پنجتن
ذاکر اہلبیت حاجی زوار ملک مرید حسین اعوان پدھراڑ
ضلع خوشاب

زیر سرپرستی: سرکار قائم آلِ محمد

چوہنگ ملتان روڈ لاہور کی مرکزی

یا علی مدد

21 ویں بسلسلہ شہادت

مجلس کے اختتام پر شبیہ تابوت برآمد ہوگا

سالانہ مجلس عزا ذکر امام حسن و سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا

بروز اتوار
10 مارچ 2019
8 بجے صبح تا رات

بہ ایصال ثواب
بابا سرکار سید سجاد علی نقوی البخاری
شہید علامہ ناصر عباس
والدین مرحومین و جمیع شیعانِ امیر المومنین

برمکان
حیدر علی میر
بالمقابل دربار بابا پیر
عدالت علی شاہ چوہنگ
ملتان روڈ لاہور

نوٹ: سالانہ مجلس عزا مارچ کا دوسرا اتوار

ملک کے معروف علمائے کرام و ذاکرین عظام فضائل و مصائب محمد و آلِ محمد بیان فرمائیں گے

الداعیان الی الخیر

سعادت علی میر۔ محمد علی میر۔ لیاقت علی میر۔ بابر علی میر
پسران حاجی **شوکت علی میر** (مرحوم) چوہنگ لاہور

Contact: 0321-7861213

LIVE MAJLIS: WWW.YAMIRAAN.COM

1440 ہجری

عشرہ محرم الحرام



خطاب

نقیب ولایت علیؑ
حافظ علامہ مرتضیٰ مہدی صاحب
آف لندن
فرزند علامہ حافظ تصدق حسین صاحب

امام بارگاہ صدائے زہراؑ بھنگالی لاہور کینٹ (7:30 تا 8:30 بجے صبح)

مرکزی امام بارگاہ فوارہ چوک حافظ آباد (11 تا 12 بجے دن)

قدیمی امام بارگاہ مائی حاجن صاحبہ شیخوپورہ (5 سے 6 بجے شام)

امام بارگاہ کرنل سید فدا حسین سانده لاہور (7:30 تا 8:30 رات)

مرکزی امام بارگاہ ابوالفضل عباسؑ مغل پورہ لاہور (9 سے 10 بجے رات)

قدیمی امام بارگاہ سفیر حسین شرقپور خورد کوٹ عبدالمالک (10:30 تا 11:30 رات)

2 صفر
سالانہ شب بیداری
صدائے حسینؑ ہائے اکبرؑ

[illegible]
سید عقیل محسن نقوی
منقبتیں شرکت کریں گی
کامران عباس

بہ مکان علامہ حافظ تصدق حسین حیدر روڈ اسلام پورہ کرشن نگر لاہور

خاکپائے در ابوترابؑ آغا خرم حیدر ربانی جلوس 8 ربیع الاول امامیہ کالونی

پُرخلوص رہنمائی، صحیح تشخیص اور یقینی شفاء کیلئے خالص یونانی ادویہ کا قابلِ اعتماد ادارہ

ملاقات
ہر اتوار صبح 10 تا 5 بجے شام

رضا ہربل کمپلیکس (رجسٹرڈ)

پروفیسر حکیم غضنفر مہدی

ملاقات سے قبل ٹائم لیں 0333-4356949 042-37159314 0312-5129214

رفیقِ سپرم بے اولادی کی دوا

مردانہ منی (مادہ حیات) میں Active سپرم کا %60 سے کم ہونا، مادہ حیات میں Puss Cell کا 3-2 سے زیادہ ہونا سوزاک کے بداثرات، اندرونی انفیکشن، سوزش، R.B.C کی موجودگی، Semen کا Think ہونا، مادہ تولید کے جرثوموں کی تعداد Total Count (50 Million) سے کم ہو تو اس میں اضافے اور آپ کے خاندان کی بقا کی ضامن مجرب ترین دوا ہے

رفیقِ شاداب اعصابی ٹانک

دافع اعصابی کمزوری، ضعف باہ، سرعت انزال، رقت منی، شوگر کی وجہ سے کمزوری، پنڈلیوں کے درد، کندھوں کے کھچاؤ، چڑچڑاپن ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کا افراز نہ ہونا، جریان، تھکاوٹ کو دور کرنے ناامیدی کے اندھیروں اور بے بسی کے عالم کو رفع کرنے اور دائمی امساک کیلئے عنبر، کستوری، سونا، سچے موتی، زعفران، سلاجیت جیسی قیمتی اجزاء کا مرکب ہے۔

رفیقِ حیات زنانہ بانجھ پن

کمزوری رحم، اٹھرا، بچے کی گروتھ کا رک جانا، حمل کا ساقط ہونا، اوویٔ انڈوں کا نہ بننا، سائز چھوٹا بڑا ہونا، انڈوں کا ٹوٹ جانا، پانی کی تھیلیاں بننا، فیلوپین ٹیوبز کی بلاکیج، اوور یز پرسسٹ، کثرت حیض، استحاضہ، کمر درد، لیکوریا، پٹھوں کے درد کیلئے اکسیری دوا ہے

رفیقِ وارث اُولادِ نرینہ

ہمارا یہ خاندانی نسخہ مرد حضرات میں Y کروموسوم کو Active کرتا ہے جدید میڈیکل سائنس (ایلو پیتھک) کی ریسرچ بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ مردوں میں (X,Y) کروموسوم سے اگر Y کروموسوم زیادہ Active ہو تو لڑکا پیدا ہوتا ہے

ملاقات رہائش: حیدر روڈ عقب شیعہ جامع مسجد اسلام پورہ (کرشن نگر) لاہور پاکستان

بوجہ تعمیر نیو بلڈنگ رضا ہربل کمپلیکس ملاقات رہائش گاہ پر ہوگی

ولائے علی اور عزائے حسین ہمیں کائنات کی ہر شے سے زیادہ عزیز ہے۔ (قائد ملت جعفریہ پاکستان آغا سید حامد علی شاہ موسوی)

EUROPE LARGEST MARKAZI MAJLIS E AZA IN UK

برطانیہ میں یورپ کی مرکزی تاریخی 19ویں سالانہ

مجلس عزا و ماتم داری

بسلسلہ شہادت دختر رسول سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا

SUNDAY 21 JULY 2019 7:29 AM

BENHAM SPORTS ARENA, KINGS PARK ROAD
MOULTON PARK, NORTHAMPTON NN3 6LL UK

روحانی شرکت

التماس سورہ فاتحہ
شہید ناصر عباسؒ

حافظ ملاں تصدق حسین لاہور
TASADDUQ HUSSAIN

علامہ علی ناصر الحسینی تلہاڑا
ALI NASIR TALHARA

وسیم عباس بلوچ
WASIM ABBAS BALOCH

اقبال حسین شاہ
IQBAL HUSSAIN SHAH

قاضی وسیم عباس
QAZI WASIM ABBAS

حبیب رضا حیدری
HABIB RAZA HAIDERI

عقیل محسن نقوی
AQEEL MOHSIN NAQVI

علامہ آصف رضا علوی فیصل آباد
ASIF RAZA ALVI

علامہ غلام جعفر جتوئی
GHULAM JAFAR JATOI

علامہ عاقل رضا زیدی لاہور
AQIL RAZA ZAIDI

علامہ غضنفر عباس طوسی
GHAZANFAR ABBAS TOSI

علامہ سید محمد عباس رضوی
MUHAMMAD ABBAS RIZVI

چوہدری اعجاز حسین جھنڈوی
EJAZ HUSSAIN JHANDVI

ذریت عمران شیرازی
ZURIAT IMRAN SHIRAZI

ملک منتظر مہدی لاہور
MALIK MUNTAZIR MEHDI

ضیغم عباس شاہ
ZAIGHAM ABBAS SHAH

غلام عباس رتن لاہور
GHULAM ABBAS RATAN

فرحان علی وارث
FARHAN ALI WARIS

کامران عباس بی اے
KAMRAN ABBAS BA

ملک مرید حسین
MALIK MUREED HUSSAIN

علامہ مرزا یعسوب عباس لکھنؤ
MIRZA YASOOB ABBAS

شہباز ظل رضا زیدی
ZIL E RAZA ZAIDI

آغا بہشتی
AGHA BAHISHTI

نوحہ خواں نذر عباس جہلم
NAZAR ABBAS

LIVE COVERAGE WWW.YAHUSSAIN.CO.UK

شبیہ علم و ذوالجناح اور تابوت جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا برآمد ہو گا

ناشتہ صبح 7 بجے تا 10 بجے لنگر حسینی 2 بجے دن تا 5 بجے

پمفلٹ تقسیم کرنے، بینر یا اسٹال لگانے کے لئے انتظامیہ کی اجازت ضروری ہے

اہم کمیونٹی نیوز کے لئے ہمارے پیج کو لائیک کیجیے **WWW.FACEBOOK.COM/AGHAUK**

منجانب انجمن غلامان حضرت عباس (رجسٹرڈ) نارتھمپٹن (AGHA UK)

رابطہ UK: سید ناصر عباس جعفری 07403110110
رابطہ پاکستان: میر محمد علی 0321-7861213

تعاون برطانیہ سے پاکستان پیسے بھیجنے کیلئے رابطہ کریں
AZADAR INTERNATIONAL
UK TO PK MONEY TRANSFER 01604 63 88 42 - 07738 166 619